

تذکرہ اکابر اہلسنت

علامہ محمد عبید اللہ عظیم شرف قادری

نوری کتب خانہ لاہور



تذکرہ

اکابر اہل سنت

(پاکستان)

محمد عابد العظیم شرف قادری

ناشر

نوری کتب خانہ نزد جامع مسجد نوری بالہ

فہرست

صفحہ نمبر	شخصیات	صفحہ نمبر	شخصیات
۸۷	مولانا سید الہی بخش	۹	عرض حال از مرقعت
۸۳	مولانا امام الدین کوٹلوی	۱۶	تأثرات اور تصریح
۸۷	مولانا امام الدین نقشبندی	۲۱	تعارف از علامہ ملام رسول سعیدی
۸۹	محمد امان اللہ	۲۵	تقدیم از پروفیسر محمد سعید احمد ایم سی
۹۰	پیرانست علی شاہ	۱۸	الف
۹۲	محمد سید علی خان	۲۰	۱ مولانا ابراہیم علی چشتی
۹۵	حضرت پیر امیر شاہ بھیروی	۲۱	۲ حضرت خواجہ احمد بھیروی
۹۶	پیر امین الحسنات (ماہی شریف)	۲۲	۳ مولانا قاری احمد حسین فیروز پوری
۱۰۵	مولانا مفتی محمد امین الدین بدایونی	۲۳	۴ مولانا احمد الدین (چکوال)
۱۰۷	مولانا اول خاں	۲۴	۵ مولانا احمد دین گانگوی
۱۰۸	سید ایوب علی شاہ ضوی	۲۵	۶ مولانا احمد علی شاہ بٹالوی
	ت	۵۲	۷ حضرت خواجہ احمدی (چورہ شریف)
۱۱	مولانا قاسم الدین لاہوری	۲۶	۸ حضرت مفتی احمد یار خان نسیمی
	ج	۲۰	۹ علامہ اصغر علی گڑھی
۱۱۳	حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث	۲۷	۱۰ مولانا مفتی محمد ہماز ولی خاں
۱۱۸	جماعت علی شاہ ملتان	۲۸	۱۱ مولانا محمد اکبر علی (سیالواری)
۱۲۱	مولانا محمد جمال الدین ملتان	۲۹	۱۲ مولانا محمد کرام الدین بخاری
	ج	۷۲	۱۳ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی
۱۲۵	مولانا سید چلیغ شاہ	۳۰	۱۴ مولانا محمد اللہ بخش (واں بھیراں)

مکتبہ نوری
پتہ: دربار مارکیٹ، گنج بخش روڈ، لاہور
فون: 042-7112917

مکتبہ نوری
پتہ: دربار مارکیٹ، گنج بخش روڈ، لاہور
فون: 042-6366335

اہتمام اشاعت
پیرزادہ سید محمد عثمان نوری

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

2005

نام کتاب: تذکرہ اکابر اہل سنت
تصنیف: علامہ محمد سعید شرف قادری
تعارف: علامہ ملام رسول سعیدی
تقدیم: پروفیسر محمد سعید احمد ایم سی
تاریخ: شاہد بخش

ناشر: نوری کتب خانہ، لاہور

طابع: سوڈے پرنٹرز، لاہور

قیمت روپے

تقسیم کار

نوری بک ڈپو

دربار مارکیٹ، گنج بخش روڈ، لاہور

فون: 042-7112917

نوری کتب خانہ

معصوم شاہ روڈ، بالقاتل ریلوے اسٹیشن، لاہور

فون: 042-6366335

مکتبہ نوری، دربار مارکیٹ، گنج بخش روڈ، لاہور

شماره	شخصیات	صفحه	شماره	شخصیات	صفحه
	ح			ص	
۳۱	مولانا سید عطاء جلالی	۱۲۶	۴۸	مولانا مفتی صاحب داد خان	۱۸۸
۳۲	مولانا حامد علی رتیب	۱۲۸		ض	
۳۳	مولانا حبیب الرحمن برقی	۱۳۰	۴۹	حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی	۱۹۰
۳۴	مولانا حبیب اللہ نعمانی	۱۳۲	۵۰	مولانا سید ضیاء الدین سیالوی	۱۹۳
	خ			ط	
۳۵	مولانا حکیم خادم علی	۱۳۵	۵۱	حضرت پیر محمد طاهر اشرف	۱۹۵
	د			ظ	
۳۶	مولانا دوست محمد شفقی	۱۳۹	۵۲	مولانا پیر سید ظفر شاہ جلالپوری	۱۹۷
۳۷	حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ	۱۴۰	۵۳	سید ظفر اللہ شاہ گجراتی	۲۰۱
	س			ع	
۳۸	مولانا سراج احمد خانپوری	۱۴۶	۵۴	مولانا عبدالحماد بدایونی	۲۰۲
۳۹	مولانا سراج احمد خانپوری	۱۴۹	۵۵	عبدالحفیظ مفتی آگرہ	۲۱۰
۴۰	سید سردار احمد شاہ قادری	۱۵۷	۵۶	مفتی عبدالحمید	۲۱۵
۴۱	سلطان اعظم حیدر پوری	۱۵۹	۵۷	حضرت خواجہ محمد عبدالرحمن چیمپوری	۲۱۶
۴۲	حضرت مولانا قاضی سلطان محمود آوان شریف	۱۶۲	۵۸	پیر عبدالرحمن بھرتی شریف	۲۱۸
۴۳	خواجہ سنان اللہ خاٹائی	۱۶۷	۵۹	عبدالرحیم	۲۲۲
۴۴	مولانا حافظ سید احمد سرکھٹی	۱۶۹	۶۰	خواجہ عبدالرسول قصوی	۲۲۵
۴۵	مولانا سید الیاس چیمپوری	۱۷۲	۶۱	مولانا قاضی عبدالسبحان کھلاٹی	۲۲۷
	ش				
۴۶	حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی	۱۷۵	۶۲	علاء عبدالصمد مقتدری	۲۲۹
۴۷	مولانا مفتی عبدالعزیز (مزنگ)	۱۸۰	۶۳	حضرت علامہ عبدالعزیز پرباری	۲۳۰

شماره	شخصیات	صفحه	شماره	شخصیات	صفحه
۲۹۶	میان غلام اللہ شہر قوری	۲۳۴	۶۵	مولانا عبدالعزیز (مفتی آگروں)	۲۳۴
۲۹۹	مفتی غلام جان ہزاروی	۲۳۶	۶۶	شاہ عبدالعزیز صدیقی میرٹھی	۲۳۶
۳۰۱	حضرت پیر غلام حیدر علی شاہ جلالپوری	۲۳۷	۶۷	حضرت پیر عبدالغفار شاہ کشتیری	۲۳۷
۳۰۶	مولانا غلام حیدر پونچھوی	۲۳۷	۶۸	مولانا عبدالغفور اخوند	۲۳۷
۳۰۸	غلام دستگیر قصوری	۲۳۹	۶۹	عبدالغفور ہزاروی	۲۳۹
۳۱۱	پیر غلام دستگیر نامی	۲۴۱	۷۰	عبدالغنی صابری	۲۴۱
۳۱۵	خواجہ غلام رسول توگروی	۲۴۵	۷۱	عبدالغفار شہید	۲۴۵
۳۱۹	مفتی غلام سرور لاہوری	۲۴۸	۷۲	حضرت مولانا حافظ عبدالکرم (راولپنڈی)	۲۴۸
۳۲۱	حضرت خواجہ غلام فرید (پاپا پڑا شریف)	۲۴۲	۷۳	مولانا محمد عبدالکرم قلعہ داری	۲۴۲
۳۲۲	مولانا غلام قادر بھروی	۲۴۳	۷۴	مولانا شیخ عبداللہ (چک سمر)	۲۴۳
۳۲۱	غلام قادر شائق	۲۴۸	۷۵	سید عبداللہ شاہ گجراتی	۲۴۸
۳۳۲	غلام مجید سرہندی	۲۵۰	۷۶	محمد عبداللہ جھنگوی	۲۵۰
۳۳۵	غلام محمد گھوٹوی	۲۵۲	۷۷	محمد عبدالملک کھوڑوی	۲۵۲
۳۳۹	غلام محمد ترنم	۲۵۷	۷۸	عبدالواحد عثمانی	۲۵۷
۳۴	غلام محسن (پپلاں)	۲۵۹	۷۹	مفتی عطاء محمد رتوی	۲۵۹
۳۴۲	غلام محی الدین قصوی	۲۸۱	۸۰	میان علی محمد (بسی شریف)	۲۸۱
۳۴۸	خواجہ سید غلام محی الدین گورکھوی	۲۸۷	۸۱	علی محمد جامعہ مفتی (قصو)	۲۸۷
۳۵۲	پیر غلام محی الدین نیریاں شریف	۲۸۹	۸۲	محمد عمر الدین ہزاروی	۲۸۹
۳۵۶	مولانا غلام مرتضیٰ (بیرل شریف)	۲۹۵		ش	
۳۵۹	سید غلام مصطفیٰ نوشاہی	۲۹۱	۸۳	مولانا غلام احمد حافظ آبادی	۲۹۱
۳۶۱	مفتی غلام معین الدین نسیمی	۲۹۲	۸۴	حکیم غلام احمد	۲۹۲
۳۶۳	غلام نبی نسیمی	۲۹۴	۸۵	غلام الدین لاہوری	۲۹۴

شماره	شخصیات	صفحه	شماره	شخصیات	صفحه
	ف				
۱۰۸	مولانا سید فتح علی شاه	۳۶۷	۱۲۹	مولانا ابوالحسن سید محمد احمد قادری	۲۲۲
۱۰۹	حافظ فتح محمد چھوڑی	۳۶۹	۱۲۸	مولانا محمد اسماعیل ہزاروی	۲۳۱
۱۱۰	فتح محمد بیادکنگری	۳۷۱	۱۲۹	محمد اعظم نوشاہی	۲۲۳
۱۱۱	فتح الدین آذرب	۳۷۳	۱۳۰	محمد اکبر چشتی بصیر پوری	۲۳۷
۱۱۲	فرید الدین (بھوتی گارم)	۳۷۵	۱۳۱	حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی	۲۳۸
۱۱۳	فضل الرحمن انصاری	۳۷۹	۱۳۲	حضرت میان محمد بخش (کھڑی شریف)	۲۴۱
۱۱۴	پیر فضل عثمان مجددی	۳۸۲	۱۳۳	مولانا محمد حسن جان سرہندی	۲۴۵
۱۱۵	حضرت خواجہ فقیر محمد (چوہہ شریف)	۳۸۹	۱۳۴	محمد حسن فیضی جملی	۲۵۲
۱۱۶	مولانا فقیر محمد جملی	۳۹۱	۱۳۵	محمد حسین جان	۲۵۹
۱۱۷	فیض الحسن جملی	۳۹۳	۱۳۶	پیر محمد حسین شاہ علی پوری	۲۶۱
	ق		۱۳۷	سیان محمد حسین قادری	۲۶۳
۱۱۸	مولانا محمد ذریعہ بخش بدایونی	۳۹۸	۱۳۸	مولانا محمد دین بدھوی	۲۶۶
۱۱۹	غیب الدین چنگوی	۴۰۱	۱۳۹	محمد ذاکر بگوی	۲۶۸
۱۲۰	سید قلب علی شاہ (سندھیلیا نوالہ)	۴۰۵	۱۴۰	پیر محمد سعید قادری	۲۶۹
۱۲۱	ظہیر علی سہروردی	۴۰۷	۱۴۱	خواجہ محمد سلیمان تونسوی	۲۷۰
	ک		۱۴۲	پیر محمد شاہ بھیروی	۲۷۲
۱۲۲	مولانا کریم الدین دہیر	۴۰۹	۱۴۳	مولانا محمد شاہ نوشاہی	۲۸۲
۱۲۳	سکندر اللہ چھپانوی	۴۱۵	۱۴۴	محمد شریف (کوٹلی لوہاراں)	۲۸۴
	م		۱۴۵	محمد شریف نوری	۲۸۶
۱۲۴	مولانا سب انبج کبیر پوری	۴۱۶	۱۴۶	مفتی محمد صادق	۲۸۹
۱۲۵	مولانا محمد احسن پشاوروی (میرزا حافظ دراز)	۴۱۹	۱۴۷	ابراہیم نور محمد صدیق چشتی بصیر پوری	۲۹۱

شماره	شخصیات	صفحه	شماره	شخصیات	صفحه
۱۲۸	حضرت خواجہ محمد عثمان (موسیٰ زئی)	۴۹۳	۱۶۵	حضرت پیر میر علی شاہ گورکھوی	۵۳۶
۱۲۹	مولانا مفتی محمد عمر نبوی	۴۹۶	۱۶۶	مولانا ناصر محمد چھوڑی	۵۴۳
۱۵۰	محمد عمر چھوڑی	۴۹۸		ن	
۱۵۱	محمد غازی گورکھوی	۵۰	۱۶۷	مولانا نبی بخش علوانی	۵۴۵
۱۵۲	خواجہ محمد قاسم موہڑوی	۵۰۲	۱۶۸	نصیر احمد پشاوروی	۵۴۷
۱۵۳	پیر سید محمد معصوم شاہ	۵۰۵	۱۶۹	نظام الدین ملتانوی	۵۴۹
۱۵۴	محمد ہاشم جان سرہندی	۵۰۷	۱۷۰	سید نور الحسن شاہ (کیلیا نوالہ)	۵۵۱
۱۵۵	مولانا محمد یار گڑھی شریف	۵۱۲	۱۷۱	نور الدین (چکھڑی شریف)	۵۵۵
۱۵۶	محمد یوسف نوشاہی	۵۱۴	۱۷۲	سید نور اللہ شاہ گجراتی	۵۵۶
۱۵۷	مرتضیٰ احمد خان سکنیش	۵۱۶	۱۷۳	نور بخش توکلی	۵۵۹
۱۵۸	مفتی مسعود علی قادری	۵۱۸	۱۷۴	حضرت خواجہ نور محمد مبارکی	۵۶۱
۱۵۹	مشیت اللہ قادری	۵۲۱		و	
۱۶۰	مفتی محمد مظفر احمد دلہوی	۵۲۲	۱۷۵	مولانا سید ولایت شاہ گجراتی	۵۶۵
۱۶۱	خواجہ معتمد الدین مروہوی	۵۲۵	۱۷۶	ولی اللہ لاہوری	۵۶۷
۱۶۲	سید مغفور القادری	۵۲۸		ی	
۱۶۳	خواجہ مقبول الرسول ٹٹھی	۵۳۰	۱۷۷	مولانا یار محمد بندیا لوی	۵۷۰
۱۶۴	منظور احمد دلہوی	۵۳۳	۱۷۸	یعقوب حسین ضیاء القادری	۵۷۳

آ خند

قطعہ تاریخ طباعت از مولانا سید شریف احمد شرافت نوشاہی
 از ابوالظاہر فدائ حسین فدا
 تقریظ منظوم از رشید ملت راجہ رشید محمود ایم

عرض حال

عابد امیر علی دہلوی

یہ ان خیارات کا تذکرہ ہے جنہوں نے ملت اسلامیہ کے تحفظ، سرحدی اور علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت کی خاطر اپنی زندگی کے شب و روز صرف کئے، جنہوں نے مسلمانوں کے ایمان و عمل کو قوت و تازگی بخش، اپنے علم و عمل سے غیر مسلم اقوام کے اذہان پر دین اسلام کی صداقت اور ہمہ گیری کے ان مہم نغوش ثابت کئے، ان کی کیمیا اثر نگاہ سے لائے اور دین اسلام عقیدہ بکوش اسلام ہوئے اور بے شمار گمشدگان بادیہ ضلالت راہ ہدایت پا گئے۔

مرث پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو ان کا بیعت پر ہما طور پر فخر ہے جنہوں نے باطل کے مکرش طوفانوں کے باوجود ناسازگار حالات میں بھی جمع اسلام کو روشن رکھا، یہی وہ مردان حق ہیں جنہوں نے پرچم اسلام کو بلند رکھا اور بلا خوف و خطر باطل کی طاغوتی قوتوں کے سامنے سینہ سپر رہے، ان کی باوقیامت تک دلوں کو عزم و ہمت اور بلند حوصلہ بخشتی رہے گی، ان کے کارنامے ابتلاء و آزمائش کے ہر دور میں ہمیں دولت عمل دیتے رہیں گے اور استقامت و استقلال کا سبق یاد دلاتے رہیں گے، ان میں ہمیشہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کو پروان چڑھایا اور کامیابی سے ہمکنار کیا

ہم محکمہ تعلیم کے ارباب ہمت و کشادگی سے یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ان مجاہدین اسلام کے عظیم الشان کارناموں کو نصاب تعلیم میں شامل کیا جائے تاکہ ملت کے نوجوانوں کے دلوں میں نظریہ پاکستان کی اہمیت واضح ہو اور وہ جذبہ ہمت سے سرشار ہو کر ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کے لئے تیار ہو سکیں۔

اس تذکرے میں مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے دورِ آخرِ تیرہویں صدی کے

عکس تحریرات

- ۱۱۱ - مکتوب نوابزادہ لیاقت علی خاں بنام پیر صاحب ماکلی شریف۔
- ۱۳۴ - سند عطا فرمودہ امام احمد رضا بریلوی پیر مولانا سید دیدار علی شاہ، قدس سرہا۔
- ۱۵۶ - مکتوب حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد لکھنوی بنام مولانا اللہ بخش قدس سرہا۔
- ۱۸۳ - اسم ذات نوشتہ میاں شیر محمد شرف پوری قدس سرہ۔
- ۱۸۶ - مکتوب حضرت میاں شیر محمد شرف پوری بنام حکیم مظفر حسین دربارہ جوانہ وظیفہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ۔
- ۳۰۴ - قطعہ تاریخ وصال حضرت پیر غلام حیدر علی شاہ جلاپوری زعملاہ قبائل و کبر لہ آبادی۔
- ۳۰۵ - تخریر حضرت پیر غلام حیدر علی شاہ قدس سرہ۔
- ۳۲۵ - دستخط حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ۔
- ۵۴۲ - وادی حمر کے واقعہ سے متعلق حضرت پیر علی شاہ قدس سرہ کی تخریر۔

صدی کے ان علماء و مشائخ کا ذکر کیا گیا ہے جو وصال فرما چکے ہیں کیونکہ اس علاقے کے علماء کرام کے حالات اور علمی کارناموں کو محفوظ کرنے کی طرف بہت ہی کم توجہ دی گئی ہے یہ ایک ابتدائی گوشش ہے ابھی بہت سے علماء و مشائخ کا ذکر اس میں شامل نہیں کیا جا سکا جس کی بڑی وجہ وسائل معلومات کی کمی اور فرصت کی قلت ہے۔ خدا کرے کوئی صاحبِ بہت اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔

۱۰۱۔ جناب محمد عالم مختار حق، پروفیسر محمد یوسف قادری (کراچی)، جناب عابد نظامی، مولانا مظفر اقبال رضوی، جناب سید نور محمد قادری، علامہ اقبال محمد فاروقی، جناب محمد صادق قصوی، پروفیسر قریشی احمد بن قلعہ داری، پیمائش انصاری، جی۔ رضا، المصطفیٰ اجپتی، مولانا شاہ محمد حجتی قصوی اور جناب میاں محمد محبوب الہی انجمنِ چکوال کا ممنون احسان ہوں جن کے تعاون سے یہ تذکرہ مرتب کیا جا سکا ہے۔ مکرمی پروفیسر محمد مسعود احمد مدظلہ پرنسپل گورنمنٹ کالج مظفری (سندھ) نے مصروفیات کی کثرت کے باوجود تذکرے پر نظر ثانی فرمائی، بعض حضرات کے حالات مہیا فرمائے، مفید مشورے دئے اور مقدمہ بھی لکھا۔ علامہ غلام رسول سعیدی زید مجبور نے تعارف لکھ کر حوصلہ افزائی فرمائی۔ مولانا سید شریف احمد شرافت نوشاہی مدظلہ نے بھی بعض علماء کے حالات فراہم کئے اور تاریخ طباعت لکھی۔ جناب فدا حسین قدانے قطعاً تاریخ طباعت لکھا، استاذ مکرم مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی مدظلہ العالی، مکرمی حکیم محمد موسی امرتسری مدظلہ اور مولانا الحاج محمد نشاۃ الہی تصوف کا ریٹرنے قدم قدم پر امداد فرمائی اور مفید مشورے دئے، سچ تو یہ ہے کہ اس تذکرے کی ترتیب و اشاعت میں ان کا سب سے زیادہ حصہ ہے۔ راقم الحروف ان حضرات کا شکر برباد کرنے سے عمدہ بر آئیں ہو سکتا۔ مولانے کے مکرم ہم سب کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بحسرتہ بیبہ الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔

شرف قادری

تاثرات اور تبصرے

ترتیب، محمد مشتاق احمد قادری

پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مظہری مدظلہ

پرنسپل گورنمنٹ کالج مظفری (سندھ)

محترمی زیادتکم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! دل پسند و دل پذیر، دل کش و دل ربا تحفہ نظر نواز ہوا۔ کتاب زندگی کسول کر رکھ دی نہیں نہیں۔ دل نکال کر رکھ دیا۔ مرہبا! یہاں حسن و جمال کا ایک نیا عالم ہے۔ گل ویا سمن کی ایک شتی بہا رہے۔

دماغوں میں، سینوں میں، رسالوں میں، اخباروں میں جو کچھ مخفی تھا، سامنے لا کر رکھ دیا۔ بکھرے ہوئے اوراق کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ منتشر دانوں کو پرو کر رکھ دیا۔ پنکھڑیوں سے گل ہی نہیں، ایک گلشن بنا دیا۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ!

عالم برزخ سے آب و گل میں لانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ آپ نے اس مشکل کو آسان کر دکھایا اور ایک حشر بپا کر دیا۔ اس ہمت مروانہ کو آفریں، صد آفریں!

ہزار ہزار رحمتیں ہوں اُس والد ماجد پر، جس کے چہن میں ایسے پھل پھول گئے اور ہزار ہزار سلام ہوں اس فرزندِ دلہند پر، جس نے اسلام اور علماء اسلام کی

خدمت کا حق ادا کر دیا — ہاں ہاں شہیدوں کا سلام ہو، ولیوں کا سلام ہو،
 عالموں کا سلام ہو اور ہم جیسے گنہ گاروں اور سیاہ کاروں کا بھی سلام ہو۔
 خدا کرے تذکرہ اکابر اہل سنت کی دوسری جلد بھی اسی شان و شکوہ سے منظرِ عالم
 پر آئے، دلوں میں بٹھائی جائے، آنکھوں پر لگائی جائے۔ آمین اللہم آمین!
 یہ احقر اس شاندار تالیف پر آپ کو اور تمام معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہے
 اور دعاؤں کے گلدستے پیش کرتا ہے فقط والسلام!
 احقر محمد مسعود عفی عنہ

۲۵ - ۱۱ - ۶۹

پروفیسر محمد ایوب قادری (کراچی)

حضرت حکیم صاحب! سلام سنون!

کل مولانا محمد عبدالحکیم شرف القادری زیدت معالیہم کا شاہکار اور اس سال
 کی محرکہ الآراء کتاب ملی، خوب کام ہوا ہے، میں ان کو علیحدہ رسید بھیج رہا ہوں۔
 آپ کا پیش لفظ بھی خوب ہے۔ اس کو مزید پھیلایا جائے اور تاریخ سے زیادہ
 مثالیں نکالی جائیں۔ یہ اچھوتا خیال اور مئی فکر ہے۔ احباب کو سلام۔

مولانا شرف القادری کو بہت بہت سلام!

۲۶ / ۱۱ / ۶۹ خادم محمد ایوب قادری

حضرت مولانا شرف القادری صاحب، زیدت معالیہم!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! اُمید کہ مزاج سامی بخیر ہوگا۔

ایک ہفتہ ہونے کو آیا ہے کہ آپ کی قابل قدر کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت

ملی۔ میں نے ایک ہی نشست میں پوری کتاب کا جائزہ لے ڈالا۔ واقعی آپ نے

اس موضوع پر ایسا کام کیا ہے کہ جس سے بہت لوگوں کی رہنمائی ہوگی۔

بڑی مسترت کی بات ہے کہ کتاب ہر اعتبار سے قابل تعریف ہے۔ زبان و بیان
 تلاش و تحقیق اور مآخذ و مصادر ہر اعتبار سے آپ مبارک ہاد کے مستحق ہیں۔

میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم
 اور باہم اور رکھے اور آپ دین و ملت کی زیادہ خدمات انجام دیں۔ فقط والسلام!

۱۱ ذوالحجہ ۱۳۹۶ھ

۳ دسمبر ۱۹۷۶ء

محمد حسین تبسبھی (ایران محقق)

مرکز تحقیقات فادسی ایوان و پاکستان، اسلام آباد

باسمہ تعالیٰ شطرنج

حضرت علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری مدظلہ العالی!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

اُمید دارم ہمیشہ دل خوش باشید و تندرست و موفق۔ امر و از طرف جناب آقای

مولانا محمد منشا تالش فاضلِ فوری یک مجلد تذکرہ علماء و اکابر اہل سنت بردست من رسید

آں را تصفیح کردم و حظ او فر و فایده احسن بردم، آفرین و صد آفرین بر شما وقت سلم شما۔

سرکار عالی! بسیار زحمت کشیدہ این کتاب ارزندہ را تصنیف و بشاہدہ اسلامی

آوردہ اید آرزو مند من و دوستان بتوانند از این کتاب خوب استفادہ برند۔ فہرست

کتابہا و مؤلفان و دیگر اکابر اہل سنت و عارفان طریق الی آخر در کتاب شما بسیار ارزندہ

است۔ خدای بزرگ ہموارہ شمارہ در طریق علم و تبلیغ دین حنیف اسلام یار و رہنمویں ہاد

سعادتمند و موفق باشید بندہ جود دعا گوئی کار سے نثار د

۱۰ / ۳ / ۲۵۳۵ ارادتمند مخلص

محمد حسین تبسبھی

۱۲ / ۱۲ / ۱۹۷۶

۱۵ افسوس کہ پروفیسر صاحب ۲۳ نومبر ۱۹۷۳ء کو ایک ٹیڈ میں جاں بحق ہو گئے۔
 ۱۱ شرف قادری

بزمی انصاری

A/N نارتھ ناظم آباد کراچی

مکرم و محترم جناب تادری صاحب — علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
کل رجسٹرڈ بک پوسٹ سے (۱) تذکرہ اکابر اہل سنت (۲) زلزلہ از جناب
علامہ ارشد القادری (۳) یاد اعلیٰ حضرت، اور (۴) تاریخ جامعہ رضویہ، موصول
ہوئیں۔ بے حد شکر ہے!

تذکرہ پر انشاء اللہ ریویشن سٹارٹ ہوگا۔ آپ نے بہت مفید کام کیا ہے کہ تذکرہ
ترتیب کر دیا۔ کاش کوئی صاحب پڑانے بزرگوں کے حالات بھی قلمبند کر دے۔
یہ معلوم کر کے مسترت بھی ہوئی اور حیرت بھی کہ آپ بہت کم عمر آدمی ہیں۔ ۲۲
سال کی عمر میں تصنیف و تالیف کا شوق ایک روشن مستقبل کی نشان دہی کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ علم و عمر دونوں میں اضافہ فرمائے۔

مخلص
بزمی انصاری عفی اللہ عنہ

۱۵ دسمبر ۱۹۷۶ء

خواجہ رضی حیدر

ڈیپٹی ڈائریکٹر قائد اعظم اکیڈمی، کراچی

تذکرہ اکابر اہل سنت روح کی بالیدگی اور قلب کی روشنی کا باعث ہوا۔ آپ
نے جس خلوص اور محبت کے ساتھ اس کی ترتیب فرمائی ہے، وہ دنیا و آخرت میں
مقبول ہوگی۔ علماء اہل سنت کے تذکرہ کی جانب، قیام پاکستان کے بعد بہت کم
توجہ دی گئی، شاید اس کی ایک وجہ ہمارے باہمی مناقشات ہوں لیکن اب جس
بزمی سے آپ کی اور حضرت قبلہ حکیم محمد موسیٰ صاحب امرتسری کی سرپرستی میں یہ

تذکرہ عام ہو رہا ہے، اس سے یہ قوی امید ہے کہ جلد ہی سوادِ اعظم کے پاس اپنے علمائے
بارے میں پڑھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہوگا۔
احقر العباد

خواجہ رضی حیدر

۲۔ ڈی ۱۶ ناظم آباد، کراچی

مولانا عبدالحکیم خاں اختر شاہ، سبھا پنپوری

لاہور

مکتبہ حامد، میں آنجناب کی تازہ، ضخیم، معلوماتی اور ایمان افروز تصنیف
تذکرہ اکابر اہل سنت دیکھی۔ فہرست کا مطالعہ کیا، مختلف مقامات سے کتاب پڑھی
تو دل سے بار بار دعائیں نکلیں۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔

اللہ کرے عسین رستم اور زیادہ

اردو زبان میں ماضی قریب کے پاکستانی علمائے حق و اکابر ملت کا یہ تذکرہ
رحمتِ خداوندی کے خوشنما پھولوں کا حسین گلہ سہ ہے، جس سے اہل حق کے دل
دماغ جہاں مدتوں معطر ہوتے رہیں گے، وہاں آنکھوں کو نور اور دلوں کو مسرور کی دولت
میسر آتی رہے گی۔ اس مفید اور کامیاب پیشکش پر میرے جیسے سراپا معصیت کی
دلی مبارکباد قبول فرمائیے۔

امید ہے کہ دوسری جلد کی تیاری شروع کر دی ہوگی اور شاید وہ ہندوستان
کے اکابر اہل سنت کا تذکرہ ہوگا۔ یہ کاوش اکابر سے وابستگی کا بین ثبوت اور ان
کی بہت بڑی خدمت ہے۔

فقط والسلام!

خاکپائے علماء

۸ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۷ھ

۲۷ مئی ۱۹۷۷ء

اختر شاہ سبھا پنپوری منظر، عفی اللہ عنہ

تعارف

از مولانا علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ

اسلاف اور اخبار کا تذکرہ قرآن کریم کا اندازہ تبلیغ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ مبارکہ کے کتاب و سنت نے جہاں ارشاد و احکام کو بیان کیا ہے وہاں ان احکام میں عملی ہوتی شخصیتوں کو بھی پیش کیا ہے تاکہ عمل کرنے والوں کے لئے نمونہ اور حذر گزاروں کے لئے حجت تمام ہو جائے۔ سلف صالحین کی تابندہ اور درخشندہ سیرت حال کے دستخطوں میں رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ جب تن آسانی، آرام طلبی اور پیش و عقبہ حصول کے لئے نفس کی سرکشی بڑھنے لگے تو ایسے لوگوں کی سیرت اپنا کردار دکھانے والے ہوئے قدم سنبھالتے ہیں جو اپنی زندگی میں انداز بڑی رکھتے تھے اور جب جاہ و کمکھوں کے سامنے آوازیں سننا مشکل ہو جائے تو انہی بزرگوں کے اسوہ سے سہارا لیتا ہے جو ابراہیمی جاہ و جلال کے پیچھے تھے۔

زمانے کے تقاضے ہر دور میں مختلف طور اختیار کرتے رہے ہیں اور اہلسنت نے خواہش و منکرات کو ہر زمانے میں نئے نئے انداز سے پیش کیا ہے اس لئے خواریت و منکرات کے اس طوفان کو فرو کرنے کے لئے رشد و ہدایت بھی ہر دور میں اس کے تقاضوں کی مناسبت سے ہونی چاہئے تاکہ برائی حسن رنگ میں بھی آئے اسے مٹایا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں نے ہر دور میں امت کی دستگیری کی ہے، سب سے راہ رومی کے سیلاب کو روکنے کے لئے وقت و ماحول کے مناسب طریقے اختیار کئے ہیں، سب سے راہ رومی کے سیلاب کو روکنے کے لئے وقت و ماحول کے مناسب طریقے اختیار کئے ہیں، سب سے راہ رومی کے سیلاب کو روکنے کے لئے وقت و ماحول کے مناسب طریقے اختیار کئے ہیں۔

عواقب و نتائج کی پروا کئے بغیر سینہ سپر ہو گئے ہیں۔

جب نیک یعنی اور پاکیزہ سیرت کی تعمیر کے لئے تلقین کی جائے تو بعض آزاد منش لوگ

کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ صحابہ اور تابعین کے دور کی بات کرتے ہیں وہ زمانہ اور تھا، اس زمانہ میں سادگی یعنی عیش و عشرت کے موجودہ وسائل نہ تھے، تہذیب و تمدن کی یہ گما گھی، آرٹ اور کلچر کی یہ سحر کاری اور کلبوں کے رت جگے نہ تھے، جسمانی نزاکت و خراش جسم سے چپکے ہوئے فیشن ایبل لباس، ریڈیو اور ٹی وی کی نفسوں کا ریاں، کچھ بھی تو نہ تھا! اس زمانہ میں حسن بصری کا زہد، بائزید کی پارسائی اور علی ہجویری کا تقویٰ سب کچھ ممکن تھا لیکن اس دور کے قیامت خیز فتنوں اور رنگین طوفانوں کے درمیان ایسی سیرت کی تعمیر کے لئے امید نہیں کی جاسکتی۔

اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو منکرات سے روکنے اور انہیں جادہ استقامت پر لانے کے لئے ان لوگوں کا تعارف کرنا ضروری ہے جنہوں نے حال کے اندھیروں میں پاکیزہ سیرت کی شمع روشن کی ہے، جنہوں نے رنگ و نور کے اس سیلاب اور آوارگی و گمراہی کے اس تلاطم میں اپنے دامن کے تقدس کو برقرار رکھا۔ آج جو لوگ حرص و ہوا کے راستہ پر آنگھیں بند کر کے سر پٹ دوڑ رہے ہیں انہیں یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ باطل کی سرگرمیاں عام اور اہلسنت سازشیں عروج پر ہیں لیکن بندگان حق پرست سے یہ دنیا خالی نہیں ہوتی، اگر چشم بینا ہو تو دیکھو اس دنیا میں حرص و ہوا کے اسی بازار میں بائزید کی عفت بھی ہے، جنسید کی انابت بھی اور نجفانی اور علی ہجویری کا تقویٰ بھی ہے۔

اس سبب سے ضرورت تھی کہ ان پاکانِ خدا کی سیرت سے نوجوانوں کو روشناس کیا جائے جو بے راہ رومی اور بدستی کے حامیہ طوفانوں میں روایات اسلاف پر چٹان کھینچ ثابت رہے، جنہوں نے زمانہ کے ہر پہلو کا مقابلہ کیا، اہلسنت کا پھینکا ہوا کوئی پھینچ نہیں شکار نہ کر سکا اور فراموشی عصر میں سے کسی کا دبدبہ جنسین مرعوب نہ کر سکا، وہ مردان حق پرست جنہوں نے ساحرانِ رنگ کا طلسم توڑا، تہذیب نو کے آذروں کو لٹکارا، جمالیت کی دادیوں میں علم و حکمت کی تہذیبیں روشن کیں، کتاب و سنت کی ہدایات سے ملت کی آبیاری کی جو انگریزوں کی تہذیب اور اس کی اقتدار دونوں سے بیک وقت برسرِ پیکار رہے۔ انہیں مردانِ خدا کی سیرت کو آج جاننے کی ضرورت ہے، انہیں کے کردار و عمل کی روشنی سے حال کے

بگئے خود و حال درست کئے جاسکتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری زاد اللہ شرف نے تیرھویں اور چودھویں صدی کے ایسے ہی علماء اور صلحاء کا تذکرہ ترتیب دیا ہے۔ مولانا نے اس تذکرہ میں ان اسلاف کے حالات کو جمع کیا ہے جنہوں نے اس دور کے تازہ فتنوں کے خلاف آواز اٹھائی اور جنگ آزادی میں مجاہدانہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ یوں تو برصغیر کے گوشہ گوشہ میں ایسے علماء تھے اور درویش صفت بزرگ موجود تھے جنہوں نے قریہ قریہ رشد و ہدایت کے مینار کھڑے کر دیے لیکن مولانا نے اس تذکرہ میں صرف ان بزرگان امت کا ذکر کیا ہے جو ارض پاک سے تعلق رکھتے ہیں۔

یہ تذکرہ جس طرح گم گشتگان راہ کے لئے متاع رشد و ہدایت ہے اسی طرح علمی اور تحقیقی کام کرنے والوں کے لئے تازہ و نادر ادب کا عظیم سرمایہ ہے۔ اس تذکرہ میں سیرت ہے، سوانح ہے، تنقید ہے، تبصرہ ہے، وعظ و نصیحت پر مشتمل خطبات اور علمی نکات ہیں منقبت ہے اور یہ ہاں بانی قوم کے لئے خراج عقیدت ہے۔ تمام حالات اور واقعات کو سن اور تاریخ کی قید کے ساتھ بیان کیا ہے، تاخذا در مراجع کے حوالے بھی پیش کئے ہیں، واقعات میں ربط اور تسلسل کو کہیں بھی ٹوٹنے نہیں دیا، جدید انداز تحریر کے مطابق استنباط اور سفسس کی رعایتوں کو برقرار رکھا ہے، زبان شیریں اور اسلوب دلنشیں ہے اور تحریر میں کچھ ایسا رنگ بھر دیا ہے کہ قاری کسی جگہ پر بھی کٹانے نہیں پاتا۔

حضرت مولانا محمد عبدالحکیم صاحب شرف ایک نوجوان عالم دین ہیں، ان کے دل میں سنت کا بے پناہ درد ہے، مسلک کے لئے کام کرنے کی انتھک لگن اور بھرپور جذبہ رکھتے ہیں۔ مسلک اہل سنت کی تبلیغ و اشاعت کے لئے اپنے وسائل سے بڑھ کر کام کرتے ہیں ان کے عزائم اور حوصلے بلند دوران کی خدمات قابل رشک اور لائق تقلید ہیں۔

میں شرف صاحب سے زمانہ تعلیم سے متعارف ہوں جب نو دی کتب خانہ کے سوا اہل سنت کی تبلیغ و اشاعت کا کوئی مرکز نہ تھا، کوئی قابل ذکر رسالہ نہ تھا، مکتبہ، تصنیف و تالیف اور اشاعت کے کام پر مکمل وجود طاری تھا، اس کے خلاف اختیار کے لیے شمار

وسائل، کتابیں اور پمفلٹ شائع ہو رہے تھے، شرف صاحب اس صورت حال پر اکثر فرسوس کیا کرتے تھے، ان کا دل اس جہود سے مضطرب رہتا تھا اور یہ خواہش دل میں کر دہیں لیتی رہتی تھی کہ اشاعت کے ذریعہ مسلک اہل سنت کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کی جائے۔

پھر چند سال بعد اہل سنت میں بیداری کی ایک لہر دوڑی، ملک میں کمی نوبہدست علمی اور معیاری ماہناموں کا اجرا ہوا، مختلف شہروں میں کمی نئے نئے مکتبے قائم ہوئے، اسلاف اہل سنت کی متعدد کتب زبور طباعت سے آراستہ ہوئیں اور حال کے لکھنے والوں کو بھی حوصلہ ملا اور کئی نئی کتابیں مارکیٹ میں آگئیں۔ اس سلسلہ میں شرف صاحب نے بھی کئی اہم خدمات انجام دیں، جن کا تفصیلی ذکر آئندہ سطور میں آ رہا ہے۔

شرف صاحب ۱۳ اگست ۱۹۴۴ء کو مرزا پور ضلع ہوشیار پور میں پیدا ہوئے ان کے والد ماجد مولوی اللہ دتہ صاحب ابن نور بخش ایک صوفی منش بزرگ ہیں پہلے لاہور میں پڑھائی تک پڑھا، اس کے بعد دینی علوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ مولانا پچھن میں اکثر اپنے والد ماجد کے ساتھ مولانا غلام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور وہ انہیں پیار سے "علامہ" اور "فاضل لاہوری" کہا کرتے تھے اور یہ ان کی زبان نبی کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں واقعی علامہ بنا دیا ہے۔

پانچویں کے بعد شرف صاحب کو ان کے والد ماجد نے جامعہ رضویہ لاہور میں داخل کر دیا جہاں وہ حضرت شیخ الحدیث قبلہ مولانا سردار احمد صاحب قدس سرہ کی زیر نگرانی پڑھتے رہے اور خود ان سے بھی منطق کے ابتدائی رسالہ صغریٰ کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ جن اساتذہ سے مولانا نے وہاں تعلیم حاصل کی ان میں مولانا حافظ احسان الحق مولانا سید رفیع شاہ مولانا حاجی محمد حنیف، مولانا حاجی محمد امین اور مولانا محمد عبد اللہ جھنگوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قابل ذکر ہیں۔ اسی دوران مولانا جھنگوی کے ساتھ سیال شریف گئے اور وہاں مولانا صوفی حماد صاحب علیہ الرحمۃ تہتم مدرسہ انیسویہ رضویہ، لہیہ (مخفف لکھنؤ) سے محویر پڑھی۔

ابتدائی کتب لاہور میں پڑھنے کے بعد نونو سولہ کتب کی تعلیم کے لئے شرف صاحب

جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں حضرت مولانا غلام رسول صاحب مال شیخ الحدیث جامعہ رضویہ لاہور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے علمی استفادہ کیا۔ اس مدرسہ میں اگرچہ مولانا نور محمد صاحب، مولانا شمس الزماں صاحب، مولانا محمد ایوب صاحب اور مولانا غلام صلیب صاحب سے بھی چیز سیکھا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر کتب حضرت مولانا غلام رسول صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد عبدالقیوم صاحب ہزاری کی محنت سے حاصل ہوئی ہیں۔ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور مولانا غلام علی تنظیم المدارس (پبلشنگ) پاکستان سے چھپیں۔

بعد ازاں آخری کتب پڑھنے کے لئے مولانا شرف صاحب ہندیاں میں استاذ لاسانہ حضرت مولانا حافظ عظیم صاحب (مثنیٰ اللہ تعالیٰ بطول جیاتم) کی خدمت میں حاضر ہوئے مولانا نے تقریباً ہر فن میں حضرت سے استفادہ کیا ہے، نحو میں عبد العفوف و تکلمہ، بلاغت میں مختصر معانی و مطول، منطق میں ملاحلال، رسالہ تصفیۃ قاضی اور حمد اللہ، فلسفہ میں یلیدی، صدرا اور شمس بازنہ، علم ہیئت میں نصرتیح، ہندسہ میں اقلیدس، فقہ میں ہدایہ مکمل، اصول فقہ میں حسامی، مسلم الثبوت، حدیث میں مشکوٰۃ و ترمذی اور تفسیر میں بیضاوی اور ان کے علاوہ بعض کتابوں کا سماج بھی کیا ہے جن میں بدیع المیزان، مرآۃ، قال اقول، شرح تہذیب، قطبی مع میر، فلاحسن اور رسد یہ شامل ہیں۔

حضرت علامہ ہندیا لوی دامت اللہ تعالیٰ عنہم درسی کتب پر بے پناہ عبور رکھتے ہیں، جب کتاب کے کسی مقام کی تقریر کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ مصنف کے مقاصد ان کے بیان کے تابع ہیں، تقریر کے دوران ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کی سطر میں ان کے الفاظ میں جھلکی جا رہی ہیں۔ ان کی تدریس میں یہ بنیادیت ہے کہ وہ جس فن کو پڑھاتے ہیں غالب علم میں اس فن کا صحیح شعور پیدا کر دیتے ہیں، وہ استاذ گراستاد ہیں، جن خوش نصیبوں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے ان میں سے اکثر اس وقت ملک کے دینی مدارس میں چوٹی کی کتابیں پڑھا رہے ہیں مولانا شرف صاحب بھی حضرت کے ان شاگردوں میں ہیں جنہوں نے تعلیم و تدریس میں نہایت دلچسپی اور قابل فخر مقام حاصل کیا ہے۔

مولانا شرف صاحب نے جنوری ۱۹۶۵ء میں جامعہ رضویہ لاہور سے اپنی تدریسی زندگی کا

آغاز کیا۔ ۱۹۶۶ء میں ان کے مرنے اور مشغنی استاذ مولانا مفتی محمد عبدالقیوم صاحب نے انہیں جامعہ نظامیہ رضویہ میں بلا لیا۔ پھر ۱۹۶۷ء تک وہیں پڑھاتے رہے۔ اسی دوران انہوں نے اپنی اشاعتی زندگی کا آغاز کیا اور عاصیہ احمد حسن جو حمد اللہ کا ایک معروف حاشیہ ہے اور عرصہ سے نایاب تھا، طبع کروایا۔ ۱۹۶۸ء میں جامعہ رضویہ ہری پور کے ناظم علی جناب صاحبزادہ طیب الرحمن صاحب بھدرا مولانا کو مفتی صاحب سے اجازت لے کر ہری پور لے گئے۔ شرف صاحب چار سال تک ہری پور پڑھاتے رہے۔ وہاں پر مولانا صاحب مدرس تھے، علاوہ انہیں افتاء کا کام بھی مولانا کے سپرد تھا۔ ہری پور کے دوران قیام مولانا نے متعدد تعمیری کام انجام دیئے۔ وہاں کے بکھرے ہوئے مثنیٰ عمار کو جمع کیا اور جمعیت علمائے پاکستان (مرکز) قائم کی، مولانا ہی کو جمعیت کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ افتاء، تدریس اور تنظیمی کاموں کے علاوہ مولانا تصنیف و تالیف میں بھی لگے رہتے تھے نیز اشاعت کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی تھیں۔ مولانا نے جمعیت کی طرف سے اس قلیل مدت میں فضائل اذکار، الحجۃ الفاعلہ، بذل الجواز، نور الانوار، یادِ علی حضرت، شرح الحقوق، مسائل اہلسنت، عقدا الجبہ اور ذکر باجمہر کتب شائع کیں۔ مولانا نے اپنے نظر و تبلیغ سے لوگوں کے دلوں میں مسلک رضوی سے محبت پیدا کی، علی حضرت کی علمی اور تحقیقی خدمات سے انہیں متعارف کرایا اور پہلی مرتبہ ہری پور میں مولانا کی قیادت میں یوم رضا منایا گیا۔

چار سال بعد دسمبر ۱۹۶۷ء میں مدرسہ اسلامیات اشاعت العلوم چکوال کے منتظمین کی ضرورت اور ان کے شدید باصرار پر مولانا چکوال چلے گئے اور وہاں تدریس اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہاں کا ماحول بہت حوصلہ شکن اور مایوس کن تھا، طلبہ کی تعداد کم تھی، ممالفوں کی پورشش تھی، تبلیغ و اشاعت کے ذرائع اور وسائل نہ تھے لیکن مولانا حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھے، ان کی ڈرٹ لگائی نے وہاں بھی جذبہ و زنگ رکھنے والے نوجوانوں اور نوجوانوں کا کارکنوں کو دھونڈ لگا لیا۔ وہاں بھی جماعت اہلسنت کی تنظیم قائم کر دی اور اشاعت دین کا کام شروع کر دیا۔

مولانا نے اگرچہ چکوال میں حضور عرصہ قیام کیا اور دو ہی سال بعد وہاں سے لاہور آگئے لیکن اس عرصہ میں انہوں نے وہاں کے لوگوں میں سنیت اور رضویت کی روح پھونک دی

مولانا نے وہاں بھی بڑی دھوم دھام اور جوش و خروش سے یومِ رمضانیا، جماعت کی طرف سے دو رسالے راد القلط والوبار وغایتاً تحقیق بھی شائع کئے۔

مولانا نے تبلیغ و اشاعت کی خاطر ۱۹۶۷ء میں مکتبہ رضویہ بھی قائم کیا۔ اس مکتبہ سے ماشیہ احمد حسن برہمہ اللہ، اقامۃ النیام، ایذان الاجر، قوالی کی شرعی حیثیت، الکافی ماشیہ ایسا نوحی، نام حق مع ماشیہ فیصل حق، شرح کریم اور سیف الجبار میسجید رسالے شریح اور حاشی شائع کئے۔

شرف صاحب جڑی معروف زندگی گزارتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ اتنی ساری مصروفیات کے باوجود وہ تصنیف و تالیف کا اہم کام بھی کرتے ہیں انہوں نے منطق کی مشہور و معروف کتاب قاضی مبارک پر عربی میں حواشی لکھے ہیں۔ یہ ماشیہ ابھی طبع نہیں ہو سکا۔ فرقا پر بھی عربی میں ایک مبسوط ماشیہ لکھا ہے جو چھپ چکا ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کی سوانح پر بھی مولانا نے بہت تحقیق کی ہے اور کافی مواد جمع کر لیا ہے لیکن اس کی تبصیر کی فی الحال فرصت نہیں ملے۔ نام حق پر فضل حق کے نام سے فیضیاد و حاشیہ لکھا ہے۔ فاضل بریلوی قدس سرہ کی سوانح میں یا د اعلیٰ حضرت لکھی، بعض سوالات کے جواب میں احسن الکلام نے مسکۃ النقیام اور مسائل اہلسنت وغیرہ رسائل لکھے۔ حیدرآباد کے بارے میں غایتاً الاعتیاطانی مجاز حیلۃ الاسقاط کے نام سے ایک رسالہ لکھا، مولانا سراج احمد خان پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح تحریر کی۔ یہ تمام کتابیں مختلف مکتبوں کی طرف سے شائع ہو چکی ہیں۔

علاوہ ازیں شرف صاحب نے مسیحت الجبار اور باغی ہندوستان پر تحقیقی اور مبسوط مقالے لکھے ہیں۔ ملک کے مشہور اور متداول رسائل کی فرائض پر دقت نکال کر مضامین بھی لکھتے رہتے ہیں چنانچہ فیضیہ صوم، ترجمان اہلسنت، نور اسلام، ہرقات اور دیگر رسائل میں اکثر ان کی علمی تحقیقی اور سوانحی نگارشات شائع ہوتی رہتی ہیں۔

تبلیغ و اشاعت کو وسعت دینے کے ارادے سے مولانا دسمبر ۱۹۷۳ء میں لاہور آئے۔ یہاں آنے کے بعد مولانا نے مفتی محمد عبدالقیوم صاحب، مولانا محمد منشا، بش قسوری صاحب کے تعاون سے مکتبہ قادریت قائم کر دیا۔ یہ مکتبہ جامعہ نظامیہ میں واقع ہے

قلیل عرصہ میں مولانا اس مکتبہ سے اعلیٰ حضرت کا رسالہ مبارک المیزان الوضیہ، مولانا مفتی محمد عیسیٰ خاں صاحب کی تصنیف ہمارا اسلام (پانچ حصے)، مولانا عبدالشامد شرفانی کی شکر آفاق تصنیف باغی ہندوستان، سوسالہ پرانی تاریخ، تاریخ تئادلیاں، اور مولانا محمد شرف سیالوی صاحب کی تصنیف کوثر انجیلات شائع کر چکے ہیں۔

شرف صاحب نے تدریس کے میدان میں بھی یادگار قسم کی خدمات انجام دی ہیں ان کے تعاون میں سے اکثر مکتبہ مدارس میں کام کر رہے ہیں، چند ایک یہ ہیں :-

- ۱۔ مولانا حافظ عطاء محمد ہستم مدرس خوشاب۔
- ۲۔ مولانا عزیز اللہ صاحب، لاہور کانہ۔
- ۳۔ مولانا غلام نبی صاحب صدر مدرس مدرسہ خیر مروج العلوم، گوجرانوالہ۔
- ۴۔ مولانا احمد دین صاحب صدر مدرس ٹوکیو شریف۔
- ۵۔ قاری عبدالرشید صاحب، شیرکوٹ۔
- ۶۔ قاری عبدالرسول صاحب، کوٹ اڈو۔
- ۷۔ مولانا محمد رفیق چشتی صاحب، مولف شرح کریم۔
- ۸۔ مولانا عبدالرشید صاحب۔
- ۹۔ مولوی سید محمد صاحب۔
- ۱۰۔ مولوی عصمت اللہ صاحب آزاد کشمیر۔
- ۱۱۔ صاحبزادہ حمید الدین صاحب، دواپاں۔

شرف صاحب کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ سے والہانہ عقیدت بھان کے علاوہ صدر الشریعہ مولانا محمد علی، مولانا صدیق اللہ خان صاحب سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سر دار احمد لاہوری قدس سرہ سے بھی بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ موجود علماء کرام میں حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کا علمی اثر حضرت سید ابوبکر کات رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ارادت رکھتے ہیں حضرت سید ابوبکر کات رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دست حق پرست پر ۲۵ مارچ ۱۹۷۰ء کو بیعت سے مشرف ہوئے۔ ۲۰ شوال ۱۴۱۲ھ بمطابق ۲۴ نومبر ۱۹۷۱ء کو حضرت کا وصال ہو گیا

مولانا بہت ہنس مکھ، طنسار اور بڈکسج میں، طبعاً فیاض اور ہمان نواز ہیں بادی نظر میں لگتا ہے کہ شائد کم گو اور ریزرو قسم کے آدمی ہیں لیکن ان سے ملنے والا بہت جلد اپنی رائے بدینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

۱۹۶۳ء میں مولانا کی شادی ہو گئی تھی، اب ماشاء اللہ دو صاحبزادے یعنی ممتاز احمد قادری اور شائق احمد ہیں، اس کے علاوہ دو صاحبزادیاں بھی ہیں۔ مولانا اپنی مصروفیات کے باعث بچوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکتے اور اہل و عیال کے حقوق کا بیشتر حصہ بھی مسک کی خدمت کی نذر ہو جاتا ہے۔

علامہ ارشد القادری مدظلہ مولانا صاحب منشائش تابش قصوری کے نام ایک مکتوب محرمہ ۱۳ فروری ۱۹۶۹ء میں لکھتے ہیں،

”کل الحمد لیکم اللہ“ کی زیارت سے لگا ہیں شاداب ہونیں دل سرور ہوا۔ مولانا شرف قادری کا کلمہ تقدیم اپنے معاصرین کے لیے بھی کلمہ تقدیم ہے۔ خدا پروردہ غیب سے اس امام کا مقتدی پیدا کرے۔ بڑا ہی پُر مغز، جا ندار، فکر انگیز اور معلوماتی مقدمہ ہے۔ زبان سے بھی عجمیت نہیں ٹپکتی۔ خدائے قدیر آپ حضرات کو جزائے خیر عطا کرے اور آپ لوگوں پر غیبی وسائل کے دروازے کھول دے۔ علم و دانش کے اعزاز و تکریم کی بڑی اچھی طرح ڈالی ہے آپ حضرات نے۔“

اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شرف صاحب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کی جملہ خدمات اور مساعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مشکوٰۃ فرمائے اور قوم کے نوجوانوں کو مسک کی خدمت کے لئے درجہ درجہ عطا فرمائے جس سے مولانا کا دل آباد رہتا ہے آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
غلام رسول سعید مدنی غفرلہ

تقدیم

از: پروفیسر کٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی (ایم آئی پی ایچ - ڈی)

مسلمانوں کو سیرت نگاری سے کافی شغف رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو کچھ کیا اس کا احصاء تقریباً ناممکن ہے۔ پاک دہند میں بھی اس فن پر بہت کچھ لکھا گیا، منتقدین کو چھوڑ کر منو ستطین اور منظرین کو لیں تو علماء و صلحاء کے حالات میں یہ عروفت کتب سیرت سنانے آتی ہیں۔

گلزار ابرار (مولانا محمد غوثی)۔ اخبار الاخبار (شیخ عبدالحق محدث دہلوی)
مجمع الاصفیاء (علی اکبر دستانی)۔ سفینۃ الاولیاء (شہزادہ داراشکوہ)۔
سبحۃ المرعان (مولانا علی آزاد بکراچی)۔ آثار انکرام (آڈا دیکرامی)۔ خزینۃ الاصفیاء
(مفتی غلام سرور لاہوری)۔ ایجد العلوم (نواب صدیق حسن خاں)۔ تذکرہ
علمائے ہند (مولانا حسن علی)۔ قاموس المشاہیر (نظامی بدایونی)۔ حقائق الخفیر
(فیض محمد جمالی)۔ نزہۃ الخواطر (حکیم عبدالحمی لکھنوی) وغیرہ وغیرہ

وہ کتب سیرت مندہ رہیں جو ایک خاص مسک فکر کے علماء یا ایک خاص سلسلہ طریقت کے مشائخ کے حالات یا خاص خاص شخصیتوں پر لکھی گئی ہیں۔ الغرض اخبار و ابرار کی سوانح کا ایک طویل سلسلہ ہے جو دوسرے مذاہب کے علمی سرمایہ میں نایاب نہیں تو کمایاب ضرور ہے۔

ایک طرف محدثین کرام نے اقوالِ محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی حفاظت کا اہتمام فرمایا تو دوسری طرف علماء و مشائخ نے اعمالِ محمدیہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ اعمال کی حفاظت اقوال سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس

سلسلے میں مسلسل بریاض اور مستقل حرارت کی ضرورت ہے؛ بلاشبہ علماء و مشائخ کی پاک سیرتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہیں اور ایہ کریمہ و درخشنا ناک ذکر رک کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔

علماء و صلحاء، ملت کی ان اور مذہب کی آبرو ہیں، ان کے دم سے دین و دنیا کی رونق ہے۔ وہ رونق جو فریب نظر نہیں بلکہ حیات قلب و جگر ہے، جو انسانیت کی بہار ہے اور جو انیت سے کوسوں دور۔ ہاں وہ مبارک بستیاں جنہوں نے قلب و نظر کی پرورش کی ہو، جنہوں نے رقت شانِ مصطفوی (علی صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم) میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا ہو، آنکھوں پر بٹھانے و ردل سے لگانے کے قابل ہیں، بیکٹنگی مبارک سیرتوں کو اجاگر کیا جائے، ان کی تعلیمات کی اشاعت کی جائے اور ان کے ذکر و اذکار کے جمائیں کہ ذکر محب ذکر محبوب ہی ہے۔ ان کی پاک زندگیوں کو انہوں کی شعل راہ میں، اسے کا شہادہ اس طرف متوجہ ہوں اور متابع خانہ کو درونِ خانہ کم کر کے وہ کام نہ کریں جو ایک نابینا سے بھی متوقع نہیں۔

حیث صد حیف فرنگی تہذیب و تمدن اور فرنگی سیاست نے ان جوانوں کو کمینہ نہ رکھا، اس نے یہ راز پالیا کہ علماء و مشائخ امت ہی ملت اسلامیہ کی جان ہیں، انہیں کے دم سے ایمان کی حرارت باقی ہے، اس نے سب سے پہلے اس نے جوانوں کو علماء بحق سے برگشتہ کیا کہ ان سے برگشتگی خود دین و مذہب سے برگشتہ کرنے میں معین و مددگار ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے بڑی بے حیائی کے ساتھ حقیقتوں پر پردہ ڈال دیا، پھر جو مصوم تھا، مجرم نظر آنے لگا، جو مجاہد تھا، فدا معلوم ہونے لگا، جو مصلح تھا، مفسد لگنے لگا، جو مہتمم تھا، ہاہل نظر آنے لگا، جو شہید تھا، مقتول دم و دود معلوم ہونے لگا۔ اللہ اللہ اس فرنگی نے جو نہ کرنا تھا سب کچھ کیا اور ملت اسلامیہ کی بے بسی تو دیکھئے کہ وہ اس کے دام تزدیر میں ایسی گرفتار ہوئی کہ لنگنا شکل ہو گیا، ان کی دولت خود ان کے ہاتھوں لٹوئی گئی اور ان کو احساس تک نہ ہوا۔

زمانہ کریمیں بدلتا رہتا ہے۔ پہلے میدان ان کے ہاتھوں تھا جنہوں نے

وقت کی قدر کی اور زندگی کو زندگی مانا اور قدم قدم آخرت کو پیش نظر رکھا، پھر میدان ان کے ہاتھ آیا جنہوں نے وقت کی قدر نہ پہچانی اور زندگی کو کھیل تماشا سمجھا اور آخرت سے بے خبر ہو گئے۔

اللہ اللہ ایک وہ دور تھا جب جوانوں کو علماء و صلحاء کی تلمیذ تھی، اور یہ عجیبے دور آیا ہے کہ جوان تو جوان، بوڑھے بھی علماء و مشائخ سے گریزاں نظر آتے ہیں، ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ یہ مدارس و ریہ خانقاہیں عظیم تربیت گاہیں تھیں جہاں سے انسان بن بن کر نکلتے تھے۔ جب سے ان سے بے تعلق ہوئے ہیں انسانیت سے دور اور جو انیت سے قریب تر ہو گئے ہیں ہاں اس دور قسط الرجال میں علماء و صلحاء کے حالات زیادہ سے زیادہ پیش کے جائیں کہ بھٹکے ہوئے آہوڑوں کو حال حرم معلوم ہو سکے اور شاید پھر وہ منزل کی طرف جاوے جہاں تکمیل، فاضل مولت حضرت مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری زیدت عنایتہم نے پاکستان کے مرحومین علماء و مشائخ کے حالات مرتب فرما کر ہم سب پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ فاضل مولت نے بہت سی تہانہ پاک سیرتوں کو گوشہ گمنامی سے نکالا اور ہم کو ہمارے شاندار ماضی سے باخبر فرمایا، فخر ہم اللہ تعالیٰ حسن الجزائر۔ اس دور میں جبکہ ہمارے مورخ اور سیرت نگاروں نے کاشکار ہیں مخلص و تقیبت کے ساتھ اتنا کچھ کرنا اور وقت عزیز کا ایشاد کرنا معمولی بات نہیں بڑی بات ہے۔

فاضل مولت نے پاکستان کے مرحوم علماء کے اہلسنت کو اپنا موضوع بنایا، یہ موضوع بظاہر مختصر ہے لیکن اس میں بڑا پھیلاؤ ہے۔ کیا اچھا ہو کہ مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں میں اعلیٰ تلمیذ بہت باندھیں اور اپنے اپنے صوبوں کے علماء و صلحاء کے حالات پر سیر حاصل کھیں، حضرت مولانا محمد امیر شاہ قادری کیلانی مدظلہ نے تذکرہ علماء و مشائخ سرحد صوبہ اول (مطبوعہ ۱۹۶۳ء) اور جلد دوم (مطبوعہ ۱۹۷۲ء) لکھ کر وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کیا ہے، ان کے علاوہ اور بھی کوششیں ہوتی ہیں۔ اور اگر علماء اہلسنت کو خدا توفیق دے تو پھر پاکستان کے علماء و

مشائخ اہل سنت بلکہ پاکستان دہند کے علماء و مشائخ اہل سنت، نہیں نہیں عالم اسلام کے علماء و مشائخ اہل سنت، پر لکھا جائے، لیکن اس ہم کو مرنے کا ایک شخص کے بس کی بات نہیں یہ ایک ادارے کا کام ہے، خدا تو فریق خیر فریق موعظا فرمائے، آمین۔ لیکن سرودت پاکستان کے مرحومین علماء و مشائخ اہل سنت کا ہی استحصاء مشکل ہے۔ نہ معلوم فاضل مؤتلف نے کن کن مصیبتوں سے یہ حالات جمع کئے ہو گئے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے میرت نگاری کے سلسلے میں کچھ کیا ہے، بالخصوص اس دور میں۔

فاضل مؤتلف نے اس تذکرے میں بہت سے نامعلوم اور غیر معروف علماء و صلحاء کا تعارف کرایا ہے۔ ان میں اہل دل بھی ہیں، اہل دانش بھی، عبقری بھی ہیں، فقیہ بھی، شاعر بھی، اہل قلم بھی، مجاہد بھی ہیں، سیاستدان بھی، در مبلغ بھی۔ اس تذکرے سے شعرا کے تذکرہ نگاروں کو بہت مدد مل سکتی ہے، اس کے علاوہ قلموں اکتب کی تردین کرنے والے بھی استفیہ ہو سکتے ہیں۔ ایسے بے شمار تراجم و تصانیف اور دوا دین ہیں جن کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اگر کوئی مرکزی ادارہ قائم ہو جائے جہاں علماء و مشائخ کی ان مطبوعہ و غیر مطبوعہ کتابوں کو جمع کر دیا جائے جن کا اس تذکرے میں ذکر کیا گیا ہے تو یہ بڑا مفید کام ہوگا اور اس طرح علماء و مشائخ اہل سنت و جماعت کے بارے میں اہل علم کی اس غلط فہمی کا ادارہ ہو سکتا ہے کہ ان حضرات نے تقریروں کے سوا کچھ نہیں کیا۔

آخر میں فاضل مؤتلف کو دلی مبارکباد پیش کرنا ہوں کہ انہوں نے اپنی گونا گوں مصنیعات کے باوجود اس طرف توجہ فرمائی اور وقت کی ایک ہم ضرورت کو لوپرا کیا اور غفلت و دلش و دنوں کے لئے متاع عزیز فراہم کی، امید ہے کہ ان کی یہ کوشش قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی۔

حقیق محمد مسعود احمد عفی عنہ
کراچی

۱۸ ایشیانا لعظم ۱۳۹۳ھ
۱۹ ستمبر ۱۹۷۳ء

مفتی اسلام مولانا محمد ابراہیم علی حسینی رحمہ اللہ تعالیٰ

عظیم دانشور مولانا محمد ابراہیم علی حسینی ابن مولانا محرم علی حسینی ابن مولانا احمد بخش کیدل غالباً ۲۷ شوال ۱۶ اگست (۱۳۳۵ھ/۱۹۱۷ء) کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان علمی اور مذہبی روایات سے مالا مال تھا۔ آپ کے والد ماجد مولانا محرم علی حسینی رحمہ اللہ تعالیٰ نامور وکیل، قانون دان، سیاست دان، صحافی اور صاحب دل بزرگ تھے آپ کے جد ماجد مولانا احمد بخش کیدل عربی اور فارسی کے مایہ ناز فاضل تھے، آپ کے تایا مولانا نور احمد حسینی مؤلف تحقیقات حسینی مشرہ آفاق مؤرخ تھے۔ آپ کے نانا حضرت خواجہ ستان شاہ کابلی اپنے دور کے قطب شمار ہوتے تھے، امیر عبدالرحمن دہلوی کابل ان کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ اس ذہنی اور علمی ماحول نے مولانا محمد ابراہیم علی حسینی کو افکار و کردار کی وہ پختگی بخشی جو کم ہی کسی کے حصے میں آیا کرتی ہے۔

مولانا محمد ابراہیم علی حسینی کی دنیاوی تعلیم سکول سے شروع ہوئی، ابھی گورنمنٹ کالج، لاہور میں فرسٹ آر بی میں تھے کہ والد ماجد کا وصال ہو گیا اور گھر کی تمام تر ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ پڑی، اس کے باوجود انہوں نے نہ صرف سلسلہ تعلیم جاری رکھا بلکہ ملکی و ملی معاملات میں بھی گہری دلچسپی لیتے رہے۔

۱۹۳۸ء میں حسینی صاحب اندر کا بیٹ مسلم برادر ہڈ کے سیکریٹری مقرر ہوئے، کالج میں شغری مولانا روم (قدس سرہ) کا درس پڑے ذوق و شوق سے دیتے رہے۔ ۱۹۳۹ء میں اسی جماعت نے خلافت پاکستان پر حسینی صاحب کا لکھا ہوا ایک پمفلٹ شائع کیا جس میں خلافت پاکستان کا مجوزہ نقشہ بھی شامل تھا، یہ پمفلٹ اور نقشہ ہندوستان بھر کے بڑے بڑے اخباروں میں خبروں اور تبصروں کا

لے منتخب جناب عبد القدیر، رنگ بونامہ، گرامی جناب محمد صادق قہوی، زید مجاہد، تھر براہ، اکتوبر ۱۹۷۳ء

موضوع بنے رہے تھے

ڈاکٹر عبدالسلام غورخ شید رکھتے ہیں :

"مولوی ابراہیم علی چشتی نے ۱۹۳۹ء میں خلافت پاکستان کی

ایکم پیش کی، اس کا مدعا یہ تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان

ایک اچھا خاصا چوڑا کارپڈور بھی رکھا جائے، انہوں نے اس سارے

علاقے کو خلافت پاکستان قرار دیا اور باقی ہندوستان کے نقشے

پر لکھ دیا "الارض لہ" اس سے ہندو خلاصے پر لیشان ہوئے اور

انہوں نے اس بنا پر پاکستان کی اڈ بھی شیعہ خلافت شروع کر دی تھی"

یہ اس دور کی بات ہے جب چشتی صاحب تعلیم حاصل کر رہے تھے، نامساعد

حالات کے باوجود آپ نے نہ صرف بی۔ اے اور ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کیں

بلکہ صحافت کا ڈپلوما بھی حاصل کیا۔

۱۹۴۱ء میں جب صحافت کی کلاس کا آغاز ہوا تو مشہور عالمی وقائع نگار ڈاکٹر

عبدالسلام غورخ شید آپ کے ہم جماعت تھے، چشتی صاحب ڈفرنٹ آئے اور ڈاکٹر صاحب

سیکنڈ پلے چشتی صاحب کو اردو اور انگریزی میں یکساں دسترس حاصل تھی اور دونوں زبانوں

میں لکھتے تھے، کچھ عرصے تک اخبارات کے نامہ نگار بھی رہے، ملکی اخبارات میں منکر اور

مبصر کے نام سے مقالات لکھ کر قارئین سے داد و تحسین حاصل کرتے رہے تھے

۱۹۴۱ء کے اوائل میں چشتی صاحب ایک نئے میدان میں داخل ہوئے، راجہ فریدزادہ

جو سیاسی طور پر ایک کٹر فرقہ پرست ہندو اور تہذیب و تمدن میں مسلمانوں سے ملتا جلتا ذوق

رکھتے تھے، مولانا مرحوم علی چشتی کے گھر سے دوست تھے، اسی نسبت سے چشتی صاحب پر بڑی

لے میاں محمد شفیع (م ش)، مولوی ابراہیم علی چشتی، روزنامہ نوائے وقت لاہور، ۲۰ اگست ۱۹۶۸ء۔

لے میاں محمد شفیع، ڈاکٹر، روزنامہ مشرق لاہور، ۲۰ اگست ۱۹۶۸ء

لے ایضاً

شفقت کرتے تھے، انہوں نے متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم سر سکر حیات کو کہا کہ ہندوؤں اور

مسلمانوں میں سیاسی اعتبار سے اتحاد کی کوئی صورت نہیں ہے البتہ اگر ایک غیر سیاسی ادارہ

قائم کر دیا جائے جس سے دونوں قومیں وابستہ ہوں تو فرقہ دارانہ کشیدگی کم ہو سکتی ہے

اور اس ادارے کی تشکیل کے لئے مولانا ابراہیم علی چشتی کا نام پیش کیا جانا چھٹی صاحب

نے تحریک رفاقت کے نام سے ادارہ قائم کر کے کام شروع کر دیا، تاہم مسلم لیگ کی

بہمدردی اور اعانت کا سلسلہ بدستور جاری رہا، جناب میاں محمد شفیع و فقط از ہیں :-

"انہوں نے ۱۹۴۱ء کے اوائل میں تحریک رفاقت کی تشکیل کا فیصلہ

کن جوہات کی بنا پر کیا اور وہ ۱۹۴۲ء سے ۱۹۴۶ء تک اپنے

اصحاب کے ذریعہ کس طرح مسلم لیگ کی حمایت کرتے رہے، یہ علیحدہ

دستاں ہے" لے

کتنا اچھا ہونا اگر میاں صاحب یہ داستاں کسی وقت سپرد قلم فرمادیتے !

۱۹۴۶ء میں جب حکومت نے محسوس کیا کہ یہ تحریک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں

رہی تو اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، چشتی صاحب ڈٹ گئے کہ یہ تحریک میں نے شروع

کی تھی، تمہیں اسے ختم کرنے کا کیا حق ہے؟ جب وہ کسی طرح چارج دینے پر رضامند نہ

ہوئے تو حکومت پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل مسٹر ہارڈ پولیس نے کہ تحریک کے دفتر میں

پہنچ گئے اور انہیں جبراً الگ کر دیا تھے

قیام پاکستان سے قبل ہر جگہ مسلم لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا البتہ جموں و کشمیر

میں خان عبدالغفار خان اور اس کے خدائی ضد سنگاروں کا گہرا اثر تھا، اس کے علاوہ مشہور

انگریز دشمن فیضان اپنی کاتبی علاقہ میں بڑا چرچا تھا اور کہا جاتا تھا کہ خفیہ طور پر خان عبدالغفار

لے میاں محمد شفیع، ڈاکٹر، روزنامہ مشرق لاہور، ۲۰ اگست ۱۹۶۸ء

لے میاں محمد شفیع (م ش)، روزنامہ نوائے وقت لاہور، ۲۰ اگست ۱۹۶۸ء، ص ۲

لے میاں محمد شفیع، ڈاکٹر، روزنامہ مشرق لاہور، سنڈے ایڈیشن، ۲۰ اگست ۱۹۶۸ء، ص ۴

ماں کو اس کی حمایت حاصل تھی، مسلم لیگیوں کے لئے یہ بات وجہ تشویش تھی، میاں محمد شفیع (دم ش) نے اُردو علاقے میں قیادت اپنی کا حریف تلاش کر لیا اور مولانا ابیدلطیف گزٹ میں بابا بلند کو ہی زلمستانی کے انٹرویو، تحریک پاکستان کی حمایت میں جڑی گھن گرج کے ساتھ شائع کرنے شروع کر دیے۔ تو اُسے وقت ان دنوں نیا پرچہ تھا، حمید نظامی نے میاں محمد شفیع سے فرانس کی کہ بیانات زیادہ تفصیلی حاصل کئے جائیں، چنانچہ میاں صاحب کے نام سے مقالات کا سلسلہ شائع کیا گیا، ان بیانات اور مقالات کے ذریعہ نتائج مرتب ہوئے اور تحریک پاکستان کو زبردست تقویت ملی۔ یہ ۱۹۴۶ء کی بات ہے، شائد یہ راز پردہ خفا میں ہی رہتا کہ ۱۹۶۲ء میں ڈاکٹر عبدالسلام خوشامد انکشاف نہ کرتے:-

”حضرت بابا بلند کو ہی اصل میں مولوی ابراہیم علی نقی اور انہی کے تاثرات اور نظریات کو آزاد قبائلی علاقے کے مفروضہ حضرت بابا بلند کو ہی سے منسوب کیا گیا تھا اور یہ کہ میاں محمد شفیع آزاد قبائلی علاقے میں نہیں پیسہ اخبار سرسریٹ جاتے رہے تھے، لاریب اس سے بڑا سکوبا دنیا کے کسی اخبار نویس نے نہیں جیتا۔“

یہ زتبہ بلند بلا جس کو مل گیا

مولانا محمد ابراہیم علی چشتی ۱۹۴۶ء میں تحریک رفاقت سے الگ ہو کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے جب صوبائی مسلم لیگ کی اپنی کمانڈ کے تمام اراکین گرفتار کر لئے گئے تو چشتی صاحب تحریک مولانا فرمائی کی رہنمائی کرتے ہوئے جیل چلے گئے، اسی سال جب بنارس میں آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی تو چشتی صاحب نے اس میں بھی نمایاں طور پر حصہ لیا اور خصوصی پیشگوئی میں شریک ہے، میاں محمد شفیع (دم ش) لکھتے ہیں:-

”انہوں نے پنجاب کی اہم گڈوں کو نوسہ شریف، سیال شریف اور گورنہ شریف کے قابل احترام سجادہ نشینوں کے بے پناہ اثر و رسوخ کے

لے عبدالسلام خوشامد ڈاکٹر: روزنامہ مشرق لاہور، ۳۱ اگست ۱۹۶۸ء

دعاؤں کا رخ مسلم لیگ کی طرف موجھنے میں خاموش لیکن مؤثر کردار ادا کیا، قیام پاکستان کے بعد مولوی چشتی صاحب نے پاکستان کی ترقی باوجودی کے متعلق بے شمار کالم سپرد قلم فرمائے لے

تحریک عزم موت ۱۹۵۲ء میں پروجیکشن حصہ لیا، منیر انوری رپورٹ میں آپ کے مقدمہ کی رپورٹ سے آپ کے عزم و استقلال کا پتہ چلتا ہے، مجموعی طور پر دس سال تک قید و بند میں رہے لے

مولانا محمد ابراہیم علی چشتی نے ملکی اور غیر ملکی اخبارات میں بے شمار کالم لکھنے کے علاوہ اردو اور انگریزی میں متعدد کتابیں لکھیں جن میں سے بعض دوسروں کے نام سے شائع ہوئیں، چند مطبوعہ تصانیف کے نام یہ ہیں:-

- ۱۔ میری جدوجہد: بہرٹیکر کی خود نوشت حوالہ عمری کا اردو ترجمہ
- ۲۔ فریڈم جنرل نالج (انگریزی)
- ۳۔ پاکستان کے نئے جدید اسلامی دستور (انگریزی)
- ۴۔ مختصر معارف علوم اسلامیہ ()
- ۵۔ ملفوظات بابا بلند کو ہی (اردو)
- ۶۔ خلافت پاکستان ()
- ۷۔ انگریزی راج کیوں ختم ہوا؟ (ترجمہ از انگریزی) لے

مولانا محمد ابراہیم علی چشتی کا معلقہ احباب بہت وسیع تھا، مولانا عبد الستار خان نیازی مدظلہ جنرل سیکریٹری جمعیت علمائے پاکستان، مکرمی حکیم محمد موسیٰ امرتسری، جناب حمید نظامی، ڈاکٹر عبدالسلام خوشامد، میاں محمد شفیع (دم ش) وغیرہم آپ کے مخلص احباب میں سے تھے،

لے میاں محمد شفیع (دم ش) روزنامہ نوائے وقت لاہور، ۱۰ اگست ۱۹۶۸ء

لے روزنامہ کوہستان لاہور، ۱۰ اگست ۱۹۶۸ء

لے مکتوب جناب محمد صادق قسوی نام راقم الحروف۔

چشتی صاحب شہنشاہ محقق شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ السلام
قدس سرہما کے مسک پر چشتی سے کار بند تھے، مفتی اعظم پاکستان مولانا سید ابوالبرکات دہلوی
برکات عالمیہ کے فتاویٰ کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کی وصیت کے مطابق

۱۳ ربیع الثانی ۱۱۰ جولائی (۱۳۸۸ھ/۱۹۶۸ء) کو مولانا محمد براہیم علی چشتی رحمہ اللہ
کا وصال ہوا اور شاہی مسجد کے قریب مولانا محرم علی چشتی کی نوابی ہونی مسجد حضرت صاحبزادہ ولی شہید
میں دفن کئے گئے، مولانا سید شریف احمد شرافت نوشاہی مدظلہ نے قسطہ تاریخ کہا ہے

جناب براہیم چشتی کمال	زدنیائے دل شد سوئے دلایل
ذی و سخن پرورد و خوشش بیاں	نمودہ کے مشا اور در زہاں
بعرنی و انگریزی و فارسی	باردو و عبرانی و جرمنی
معارف سے داشت در ہر زباں	بتائیف پرداخت در ہر سال
بجزیرہ تفسیر بودہ و حمید	بفقر و غنا مثل وے کس ندید
پسر پاک حضرت مسلم علی	کہ بودہ با تہران مرد علی
ز اولاد آن فرد مسعودین	شکر گنج قطب مان و زمین
بڈ از عاشقان بزرگان چشت	خداوند جایش کند در بہشت
بفردوس اعلیٰ شود مستقیم	بروضات جنات دار النعیم
چو بر بست رخت حیات از جہاں	ربیع دوم سیزدہ بود آن
سن حلتش گویم از لطف شاہ	سراج بنایت مروت پناہ

رسالہ سیمی چو خواہی نشان
بدان خسرو سے منتجب بہر آن
۱۸

مولانا محمد براہیم علی چشتی رحمہ اللہ

رہبر شریعت و طہریت حضرت خواجہ احمد میر دی قدس سرہ العزیز

عارف کامل و مرشد اکمل حضرت خواجہ احمد بن بر خوردار کے جد امجد علامہ قدس سرہ چناب
کے رہنے والے تھے، سکھوں کے ظلم و ستم سے تنگ آکر کوہستانی علاقہ میں چلے گئے، وہیں آپ نے
بواج خاندان کی ایک عقیقہ سے نکاح کیا جن سے آپ کے والد ماجد پیدا ہوئے، انہوں نے بھی
اسی قبیلہ میں نکاح کیا جس سے دو فرزند حضرت خواجہ احمد، خواجہ یعقوب اور ایک صاحبزادی پیدا
ہوئی، آپ کے والد ماجد حضرت پیر سید شاہ محمد سلیمان تونسوی کے مرید و خلد و دست بند تھے،
وظائف لے کر جنگل میں چلے جاتے اور یا خدا میں مصروف رہتے۔

ایک دفعہ حضرت خواجہ صاحب کی موجودگی میں ان پر وہ طاری ہو گیا، حضرت خواجہ
صاحب ابھی بچے ہی تھے، والد گرامی کی اس کیفیت کو دیکھ کر ان کی چھین نکل گئیں، اس کے بعد
انہوں نے معمول بنا لیا کہ آٹھ بچے کر تہا ہی تشریف لے جاتے، آخری دفعہ شاہ ہاں حضرت
خواجہ محمد سلیمان تونسوی قدس سرہ کی زیارت سے مشرف ہو کر واپس آ رہے تھے کہ موضع منگورٹ
(تونسہ شریف سے مغربی جانب دو کوس پر واقع ہے)، پہنچے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا، مسجد
بواج خاں میں مزار بنا، والد ماجد کی وفات کے بعد آپ کی کفالت آپ کے ماموں علی خاں نے کی۔
چار پانچ سال کی عمر میں گھر سے چار کوس کے فاصلے پر ایک مولوی صاحب کے پاس
قرآن شریف پڑھنے کے لئے بٹھائے گئے، اس دوران آپ نے سخت ریاضت برداشت کی،
صبح سویر پڑھ کر استاد گرامی کے مویشی چرانے جاتے، سردیوں کے موسم میں استاد صاحب نے
اونٹ کی اون کا ایک کبیل دیا جو اتنا جسے اونٹوں کو پہاڑ کی غار میں سو رہتے۔ اس حالت میں
والد ماجد نے ایک سال تک خبر نہ لی، لیکن حضرت خواجہ صاحب نے قرآن کے لئے تکالیف برداشت
کرتے رہے اور اس وقت واپس لوٹے جب قرآن پاک ختم کر چکے تھے، مزید دینی تعلیم کیلئے
منہج علوم معارف تونسہ شریف پہنچے، ایک عرصہ تک وہاں ظاہری علوم اور باطنی فیوض سے
مستفیض ہوتے رہے، پھر کچھ عرصہ عثمان میں اکتساب علوم کیا لیکن مجددی تونسہ شریف

واپس آگئے اور کسب کمال کیا۔

بچپن ہی سے توکل اور استغنا، آپ کے مزاج میں بدرجہ اتم موجود تھا چنانچہ چونکہ انوں آپ توشیح شریف میں تحصیل علم میں مصروف تھے، نواب بہادر پور کے وزیر احمد خان نے طلباء کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تو طلباء کی فہرست میں آپ کا نام نامی بھی شامل تھا، لیکن آپ نے وظیفہ لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا میں یہاں محبت الہی کا درس لینے آیا ہوں، احمد خاں کا دست نگر نہیں بننا چاہتا، میں اللہ تعالیٰ اور خواجگانِ چشت کی رضا پر راضی ہوں۔

ذرا اندازہ کیجئے جس کا بچپن میں یہ عالم تھا وہ بعد میں کس مقام تک پہنچے گا؟ اس کے علاوہ علی اہل میں مولانا ملوک علی سے بھی استفادہ کیا۔

والدہ اجد کی طرح آپ کے اموں بھی حضرت شاہ محمد سلیمان توشیح شریف سے بیعت تھے، ایک دفع جب اموں صاحبہ حضرت پیر پٹھان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ صاحب ان کے ہمراہ حاضر ہوئے، تمام حاضرین ادب و احترام سے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت شاہ محمد سلیمان آرام فرما تھے، یہ حضرات عرض سلام کے بعد بیٹھ گئے، حضرت خواجہ صاحب فرط ادب سے نگاہیں جھکا بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے کہا کہ حضرت تمہاری جانب ملاقات کے لئے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور تم یونہی بیٹھے ہو! حضرت خواجہ صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اٹھے اور دوبارہ دست بوسی کی۔ اتنے میں ایک خراسانی پٹھان نے پارسیب لا کر نذر کئے، قبلہ عالم نے کاٹ کر آدھا حضرت خواجہ احمد میروی کو دیا اور باقی حاضرین میں تقسیم کرنے۔ یہ پہلی زیارت تھی جس سے حضرت خواجہ توشیح شریف کی محبت دل میں اس طرح جاگزیں ہوئی کہ پھر اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ بیعت ہونے کے بعد چار دفعہ پھر سراپا اشتیاق بن کر حاضر ہوئے اور دوست و دیدار سے مشرف ہوئے، پانچویں دفعہ جب حاضری کے لئے توشیح شریف جا رہے تھے تو راستہ میں حضرت خواجہ توشیح شریف کے وصال کی خبر ملی، اس خبر وحشت اثر نے دل و دماغ پر اس قدر اثر ڈالا کہ آپ بیہوش ہو گئے۔

تعمیل موم کے بعد میرا تشریف تحصیل پڑوسی گھیس مندرجہ کمیٹی میں قیام کیا، یہ جگہ ایک پسماندہ ضلع کا دور افتادہ مقام ہے لیکن حضرت خواجہ صاحب نے جب یہاں علم و عرفان کی شمع روشن کی تو خلق خدا پروردگار حاضر ہو گئی۔ آپ نے یہاں ایک مدرسہ قائم کیا جس میں دیگر

مدرسین کے علاوہ آپ خود بھی درس دیا کرتے تھے۔ آپ نے کئی ایک علماء کو تبلیغ کے لئے مقرر کیا تھا جو مختلف مقامات پر مسلک اہل سنت کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ آپ بزرگان دین کے مزارات مقدسہ پر حاضر ہوتے اور کسب فیض کرتے۔

ایک دفعہ آپ حضرت مولانا محمد علی قدس سرہ (خلیفہ حضرت شاہ محمد سلیمان توشیح شریف) کے عرس پر مکہ تشریف گئے، وہاں حضرت فاضل شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ ساکن گڑھی تشریف (خلیفہ حضرت پیر پٹھان قدس سرہ) نے غوث میں آپ سے فرمایا "وقت اخیر ہے، مناسب ہے تم بیعت کیا کرو، نہ صرف میری طرف سے بلکہ تمام مشائخ معظم کی طرف سے حجازت ہے، آپ نے بیعت کرنا شروع کر دیا لیکن توشیح شریف میں پیاس ادب کسی کو بیعت نہ کرتے تھے، حضرت خواجہ احمد بخش توشیح شریف قدس سرہ نے آپ کو تائیدی حکم دیا کہ ضرور بیعت کیا کرو۔

حضرت پیر علی شاہ گڑھی قدس سرہ سے آپ کے گھر سے مراسم تھے، باہم خط و کتابت اور آمد و رفت بھی تھی، آپ، نہیں محبت سے لائق (بھائی) کہہ کر پکارتے تھے، حضرت خواجہ احمد میروی کی شخصیت مرجع نام تھی، ان گنت افراد شرف بیعت سے مشرف ہوئے اور کثیر الشہاد حضرت صاحب کمال بنے اور فرقہ خلافت سے مشرف ہوئے چند خلفاء کے نام یہ ہیں :-

- ۱۔ حضرت حاجی فضل کریم مہتمم مدرسہ اسلامیہ اشاعت العلوم چکوال۔
 - ۲۔ مولانا نور محمد حیدر آباد۔
 - ۳۔ مولانا شاہ حسین (دھنگ)
 - ۴۔ حضرت العلماء مولانا محمد اکبر علی (میانوالی)۔
 - ۵۔ مولانا محبوب الرحمن (علتان)
 - ۶۔ الحاج میاں مہر (پشاور)۔
 - ۷۔ مولانا غلام حیلانی (میانوالی)
 - ۸۔ جناب احمد دین (مبھی)۔
 - ۹۔ سید محمود شاہ (کراچی)
- نیز فاضل اہل مولانا میاں عبدالحق غور غنٹوی دام ظلہ بھی آپ کے مریدین میں سے ہیں۔

حضرت خواجہ احمد میروی قدس سرہ عبادت و ریاضت میں یکا ذرہ روزگار تھے، ہمیشہ نماز باجماعت ادا کرتے تھے کہ شدید مصائب کے یام میں مریدین چار باقی مسجد میں لاتے اور آپ نماز باجماعت ادا کرتے۔ آپ نے کئی مساجد تعمیر کرائیں، علم کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک چور نے آپ کا جوتا اٹھا لیا، مریدین نے اسے پکڑ لیا تو آپ نے مسک کر فرمایا: اچھا تو تمہیں نئی سخت ضرورت ملنی کرائی سردی میں باپوش اٹھا کر چل دے تم نے جب نہیں دیکھا تھا تو باپوش کسی گڑھے میں کیوں پھینک دے؟ اب تم یقیناً چور بن چکے ہو، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھو گے، غلام کو فرمایا کہ اسے جو تھے کینے حافظہ بدرالدین سے ایک روپیہ لادو۔

بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مردی آخون ائی من اسار
 ۵ محرم الحرام ۱۲۰۴ (۲۹ دسمبر ۱۹۳۳ء) بروز بدھ آپ کا وصال ہوا، جنازہ شریف میرا شریف میں منعقد ہوا۔ آپ کے بعد آپ کے مرید اور عزیز خاص حضرت مولانا نور احمد غافل قدس سرہ سجادہ نشین ہوئے اور ان کے بعد ان کے جانشین حضرت فقیر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب جاوہ ہوئے۔ حضرت خواجہ احمد میروی قدس سرہ کا قطعہ تاریخ وصال درج ذیل ہے۔

درینا! شیخ عالم، چشمہ وجود	فرد ملک سلیمان فیض آمود
فرید دہر، فخر اہل عرفان	وجود ادب شہنشاہ نور معبود
درینا! نعل اوز فرق عالم	زینت خان عیاش بن گشت مفقود
پہنجم از محرم، چار شنبہ	بہ ملک حب او ال گویہ بد بود
ندا، از جہی آمد چو در گوش	ز دار بے بقا رحلت بہ فرمود

بگفتا ہا نعم از بہر ستر تاریخ
 بگو عہدی از ہے خاص خدا بود

خطیب اہل سنت مولانا قاری احمد حسین فیروز پوری قدس سرہ العزیز

خطیب اہل سنت، عالم باعمل پیکر خلوص و ایثار، مجسمہ علم و رحمت حضرت مولانا قاری احمد حسین فیروز پوری ثم گجراتی ابن جناب عبدالصمد موضع گومی تحصیل جھجر ضلع ریتیک میں ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۴ء میں پیدا ہوئے، بچپن ہی میں والدین کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا، مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد درس نظامی کی ابتدائی کتب مختلف اساتذہ سے پڑھیں پھر تحصیل علم کی غرض سے دہلی چلے گئے اور مشہور لغت گو شاعر مولانا صاحب حسین صاحب سے نحو، منطق اور فقہ کی کتب میں استفادہ کیا، دہلی ہی میں مولانا قاری شیر حسین سے تجوید و قرأت کا درس لیا اور مشق کی۔

اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے قاری صاحب کو پرموز آواز اور لحن داؤدی عطا کیا تھا اس لئے وعظ و تقریر کی طرف میلان ہوا اور میدان خطابت میں وہ جوہر دکھائے کہ باید شاید! آپ نے تصدیقی اور مشرباً نقشبندی سنی اور حضرت خواجہ عبدالخالق جہانگیر خاں کوٹ عبدالخالق (ضلع ہشیار پور) سے نسبت ارادت کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ خانلقی لکھا کرتے تھے۔

ابتداء میں آپ مسجد قضاہاں فیروز پور میں خطیب مقرر ہوئے۔ آپ کے پڑاؤ وعظ کا شہرہ دور دراز تک پہنچا، ہمیشہ امر تکرار و جان نذر وغیرہ مقامات پر آپ کی کثرت تقریریں ہوا کرتی تھیں فیروز پور میں آپ کی شہرت و مقبولیت اس حد کو پہنچی کہ گجرات پاکستان، تشریف لانے کے بعد بھی آپ کو فیروز پوری کہا جاتا تھا۔ اسی دوران آپ نے مولانا محمد سعید شبلی عربی ٹیچر کالج فیروز پور صاحب خطیب دربار حضرت فرید الملتہ والدین گنجشکو قدس سرہ سے مزید علمی استفادہ کیا۔

غالباً ۱۹۴۵ء میں جب آپ حسین شریفین کی زیارت کو گئے تو دوران سفر جہاز میں آپ کی تقاریر کا سلسلہ جاری رہا، اسی جہاز میں میاں فضل دین چکانو نے مرحوم بھی شریک سفر تھے، وہ قاری صاحب کے وعظ سے بے حد متاثر ہوئے اور گجرات تشریف لانے کی دعوت

۱۔ حضرت فقیر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۲۹ دسمبر ۱۹۳۳ء/۵ محرم ۱۲۰۴ء) بروز بدھ وصال فرماتے، انشاء اللہ اللہ تعالیٰ رحمہوں سے
 ۲۔ کہ حسین شاہ مسیحی، ڈکری (دومرا پبلیشنگ) تمام حالات اسی کتاب سے اخذ ہیں۔

دی چنانچہ قاری صاحب نے مسجد مہیاں جلال دین مرحوم میں درس دیا اور رات کو اونچی مسجد منڈی میں تقریر کی۔ آپ کے بیان کا اہل گجرات پراس تدارثر ہوا کہ وہ لوگ دل و جان سے آپ پر فریفتہ ہو گئے اور اصرار کیا کہ آپ ہمارے پاس ہی تشریف لے آئیں اور ہمارے دلوں کو آقائے مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے منور فرمائیں، ان حضرات کی طلب صدقہ رنگ لائی اور قاری صاحب گجرات تشریف لے آئے اور کمزری جامع مسجد عید گاہ میں خطبہ دینا شروع کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس زمانے میں نماز عید تمام لوگ بلا امتیاز قاری صاحب کی اقتدا میں ادا کیا کرتے تھے۔

دیسے تو پورے پاکستان کا ہوشیار سے قاری صاحب کے گھر سے مراسم تھے لیکن ضلع ملیر پر یہ حضرات قابل ذکر ہیں:-

- ۱۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نسیمی۔ ۸۔ الحاج سلطان علی
- ۲۔ بہار طبعیت حضرت سید ولایت شاہ۔ ۹۔ مولانا مبارک محمد الدین
- ۳۔ حضرت پیر حبیب اللہ شاہ۔ ۱۰۔ مولانا حافظ سید علی
- ۴۔ مولانا فیروز دین۔ ۱۱۔ مولانا حکیم مختار احمد اشرفی
- ۵۔ الحاج لاد برکت علی۔ ۱۲۔ مولانا محمد عارف
- ۶۔ لاد فضل دین۔ ۱۳۔ مولانا سید محمود شاہ
- ۷۔ الحاج مرزا اللہ داتا

فی الحقیقت اس وقت گجرات شہر منبع برکات بنا رہا۔

حضرت قاری صاحب نے تحریک پاکستان اور جہاد کثیر میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا اور اہل اسلام کو اپنے مسوکن بیانات سے تائید پاکستان اور مسلم لیگ کی حمایت پر آمادہ کیا، تحریک ختم نبوت میں بھی بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ آپ کی تقریر کا خاص وصف یہ تھا کہ اکثر ہوا صبح پھر سے جم جاتا تھا، لطف یہ تھا کہ قاری صاحب کے ہوتے ہوئے تلاوت، نعت، تقریر اور سلام و دعا کے لئے کسی اور شخص کی ضرورت نہیں رہتی تھی، گویا وہ خود ایک انجن اور جامع اجلاس تھے، خصوصاً کاہر عالم تھا کہ جہاں تشریف لے جاتے وہاں اجلاس کی تمام نشستوں میں قیام فرماتے

مبادا کسی نشست کا مقررنہ آئے اور منتظمین جلسہ کو پریشانی ہو، آپ وعدے کو صورت نبھاتے سر دی ہو یا گرمی، طوفان باد و باران ہو یا شدید بخار، کوئی چیز آپ کو ایفائے وعدہ سے روک نہ سکتی تھی، تقریر کے بعد فوراً اپنا سفر شروع کر دیتے اور جلسہ کے منتظمین سے اجازت لینا بھی پسند نہ کرتے، مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ محرم صفر ربیع الاول مسلسل تین ماہ ہر رات کراچی میں آپ کی تقریریں ہوا کرتی تھیں، سامعین کی تعداد عموماً چالیس پچاس ہزار سے زائد ہوا کرتی تھی، حیدرآباد، بھٹلہ اور نواب شاہ وغیرہ مقامات کے لوگ محض آپ کی تقریر سننے کے لئے کراچی کا رخ سفر باندھا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب کو غضب کی آواز اور بلا کا سوز عطا کیا تھا۔ جب آپ مولانا روم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی اور علامہ اقبال کا کلام پڑھتے تو مجلس پر ایک کیفیت طاری ہو جاتا اور جب اس کی تشریح بیان کرنے تو اچھے اچھے اہل علم دنگ رہ جاتے، خاص طور پر اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ کا کلام جس حسن و خوبی سے پڑھتے تھے اس کی نظیر کہیں دیکھنے سننے میں نہیں آئی یہ حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے روح پرورد لفظیہ کلام کو پنجاب اور سندھ میں سب سے پہلے آپ ہی نے متعارف کرایا تھا۔

سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور یاد میں شب و روز محو رہتے، آپ کی تقریروں میں یہ عنصر ہمیشہ نمایاں رہتا اور سننے والے کیف و سرور اور لذت محبت میں گم ہو جاتے۔ آپ کو بار بار خواب میں اور بعض اوقات عالم بیداری میں جمال جہاں آرا کے دیدار کا شرف حاصل ہوا۔ تو عمری کا زمانہ تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں اور ایسی پیاری نعت عرض کر رہے ہیں جو پہلے انہیں یاد نہ تھی، بیدار ہونے پر تجسس پیدا ہوا کہ یہ نعت کس کی لکھی ہوئی ہے، ایکدن اتفاقاً نعت بخشش (امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کا لفظیہ دیوان) دیکھ رہے تھے کہ اس میں وہی نعت مل گئی جو آپ نے خواب میں دربار رسالت میں پیش کی تھی، اب تو قاری صاحب کو فاضل بریلوی قدس سرہ سے بے انتہا محبت ہو گئی، اسی عقیدت کی بنا پر ایک دفع بریلی تشریف

حاضر ہوئے، فائسل بریلوی قدس سرہ کے مزار پر انوار پر حاضر فرمادی اور چند دن وہاں قیام کیا۔

قاری صاحب نہایت رقیب القلب اور رحم دل واقع ہوئے تھے، انسان تو انسان حیوان بھی آپ کی شفقت سے بہرہ ور ہوتے تھے۔ باقاعدگی سے تنجید ادا کرنا آپ کا معمول تھا، دعوٰی تبیین کے علاوہ تدریس اور خاص طور پر قرأت پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا اور بے شمار لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔ مولانا قاری محمد علی (لاہور) اور مولانا قاری محمد دین راجوردی (گجرات) آپ کے منظر نظر تلامذہ ہیں۔ انہیں حضرات سے حضرت قاری صاحب کے یہ حالات دستیاب ہوئے ہیں۔

۳۲ ذی قعدہ ۱۳۰۰ھ / اپریل ۱۹۱۹ء (۱۳۷۹ھ / ۱۹۶۰ء) بروز ہفتہ ساڑھے بارہ بجے دن قاری صاحب کا وصال ہوا، آخری کلمہ اذکرکئی یا رتوٰل اللہ زبان پر جاری ہوا اور بیچ قفس عنقریب سے پرواز کر گئی۔ آپ کا جنازہ چار دن تھا اور ساتھ ساتھ لاؤڈ سپیکر پر قاری صاحب کی تلاوت کا ریکارڈ لگایا گیا تھا جسے سن کر حاضرین کی چینیں نکل رہی تھیں۔ ایک لاکھ سے زیادہ افراد نے ہاشم پورم جنازہ میں شرکت کی، جنازہ گاہ خواجگان علی پور روڈ میں آپ کی آخری آرام گاہ بنی۔

آپ نے ایک صاحبزادی خورشیدہ بیگم اور ایک صاحبزادہ محمد حسین یادگار چھوڑے۔

مولانا الحاج حکیم محمد مظفر علی خاں مظفر چشتی نقوی ساکن چک ٹرنے درج ذیل تاریخ وفات کو ہے

اک حبیب محترم احمد حسین
زینت گجرات، مخزن عمید گاہ
برزہ نشن ذکر خالق دائمی
شوبہ صورت نیک سیرت بے ریا
شہ روزانہ جانب خسلہ بریں
نام اد مشہور تادیو ابر چین
حق پرست و لغت گوئے شاہ دین
عابد و زاہد امام الصالحین

لے محمد عبدالکیم شرف قاری، مورث قاری احمد حسین فرزند بریلوی، بابا روضیائے حرم، دسمبر ۱۹۷۲ء، ۲۴ مئی ۲۰۰۵ء

گفت تاریخش غلام فتادرا مہر تاباں رفت از چشم ہم بریں

۱۳ = ۷۹

گفت ہائے سبیل بانگ رسول
بار و بیکر ہا مظفر دل حسدیں

ایضاً

ز دنیا رفت قاری پاک باطن خدا رحمت کند بر جان و مالش
مظفر گفت در تاریخ مہجری بفرودس بریں شادا ست سالش

۱۳ = ۷۹

استاذ العلماء مولانا احمد الدین (چکوالی) قدس سرہ

استاذ الاساتذہ مولانا احمد الدین بن مولانا غلام حسین بن قاضی محمد احسن ۲۰ رمضان المبارک ۸ جولائی (۱۲۶۸ھ/۱۸۵۲ء) کو پیدا ہوئے۔ تاریخی نام چراغ دین (۱۲۶۸ھ) پھوپھو بھائی آپ کا آبائی وطن موضع بوند تحصیل پنڈاؤن خاس ضلع جہلم ہے لیکن وہاں سے منتقل ہو کر چکوالی شہر میں مقیم ہو گئے تھے۔ ۲۴ محرم الحرام ۱۲۷۴ھ کو آپ کی باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی اور والد ماجد سے تمام درجہ علوم کی تکمیل کی۔ ۱۸۷۰ء میں انگریز حکومت نے علماء کا انٹرویو لیا جس میں اول نمبر پر آپ کو ۵۰ روپے نقد اور ۵ روپے ہانڈ کا وظیفہ مقرر ہوا تاکہ وہیں کالج لاہور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں لیکن آپ کالج پہنچ کر واپس آ گئے کیونکہ وہاں کامیاب تعلیم بہت ہی سخت تھی۔ ۱۲۹۰ھ میں حرمین شریفین کی زیارت کے لئے رجب سفر ہانڈھا، وہاں مشہور قاضی عیسائیت فاضل فیصل مولانا رحمت اللہ کی لودی قدس سرہ (جو کہ آپ کے والد ماجد کے بھی استاد تھے) کے پاس ایک سال رہ کر حدیث، قرأت، حکمت، تاریخ، جغیہ اور ربیع منظرہ وغیرہ علوم وہاں کے جنید اساتذہ سے حاصل کر کے تعلیم و تدریس کی اعلیٰ سندیں حاصل کیں اور اسپس پور کراچی کے محلہ کھٹہ میں مولانا عبداللہ کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور وہاں ایک بی بی مدرسہ مظہر العلوم قائم کیا جو آج بھی جاری ہے۔ قیام کراچی کے دوران ہی علماء و طلباء آپ سے مستفید ہوئے۔ آپ نے علم طب بھی پڑھا اور اس میں کمال حاصل کیا، کئی لاعلاج مریضیں آپ کے علاج سے شفا یاب ہوئے۔

۱۲۸۰ھ میں والد ماجد کے ہمراہ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت ہوئے۔ ۱۳۱۰ھ میں بلاد مقدسہ کی زیارت کے لئے سفر کیا اور بغداد شریف میں حضرت نقیب سلمان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دست مبارک پر سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے آپ نے جب جالی والی مسجد چکوال میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کی شہرت دور دراز تک پہنچی، خاص طور پر شہنوی شریف، ربیع جیب اور ربیع مظہر وغیرہ علوم پڑھنے کے لئے دور دراز سے علماء حاضر ہوتے اور شرف تلمذ حاصل کرتے تھے۔ قدرۃ المحققین

حضرت مولانا غلام محمد پیلانوی (مثنوی شکرہ و مصنف نجم الرحمن) آپ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ آپ پہلے حافظ قرآن تھے بعد میں شوق پیدا ہوا تو قرآن کریم حفظ کر کے تراویح میں سنایا کرتے تھے، تاریخ گوئی میں آپ کو کمال حاصل تھا، عربی، فارسی اور اردو میں مثنوی سخن فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے اساتذہ گرامی مولانا رحمت اللہ صاحب کی وفات پر قطعہ تاریخ کہا جس کے چند اشعار نقل کئے جاتے ہیں:-

آہ! زیں میں مصائب اقراراں
مجمع اندوہ و رنج بسیکراں
گشت صبر از غلام غم دیدہ گم
بست قول مثنوی شاید براں
بشنو از لے چون حکایت میکند
کایں نے غامضت دل را ترجاں
درد جدا نیست شکایت میکند
باز بان تیز و چشم خوں فشاں
سینہ خواہم شر و شر از فراق
گر کنم رنج سہانی را عمیاں
تا بگویم ذکر درد اشتیاق
ز انتقال قبیلہ اہل دلاں
حضرت محدو منا علم السدی
فیض بخش ناکساں و ناخصاں
فخر اہل السنہ فی ملک العرب
بلکہ در اسلامبول ازوئے نشاں
در عراق و ہند و مصر و شام و روم
در فضائل گشتہ ممتاز زماں
فوت عالم موت عالم گفتہ اند
سیما آنکہ ناید مثل شاں
بود در دنیا چراغ دین ددل
تا کہ شیخ ملک حرمین گشت آں
روز جمہور بہت و دوم از ماہ صوم
رفت سوتے باغ شہر یعنی جہاں
لاجرم چون نیست در ماں غیر صبر
می نمایم بر دمس ختم بیان
گو غریب الوطن تاریخ وصال
رحمۃ اللہ لدی خیر الجنان

رحمۃ اللہ لدی خیر الجنان

۱۳

لے دارالافتاء قسطنطیہ

لے محمد سلیم، ایک مجاہد معاصر، مطبوعہ کراچی، ۱۹۵۲ء، ص ۴۱-۴۲

آپ کے دو صاحبزادے آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے، مولانا حافظ عطار الدین ۲۱ سال کی عمر میں فوت ہو گئے، دوسرے صاحبزادے مولانا حافظ قاضی منیر الدین ایم اے، بی ٹی ڈسٹرکٹ انسپکٹر سکول صحیح العقیدہ سنی تھے، ملازمت کے دوران ایک حادثہ کا شکار ہو گئے، تاریخی مادہ قاضی صاحب مرحوم لایڈ اور مولوی ضیاء الدین علامہ زمان (۱۳۴۳ھ) ہے۔ ان کی وفات پر مولانا احمد الدین نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اس نے دیکھنے والوں کو حیرت بنا دیا۔

مولانا احمد الدین ۸ مئی ۲۸۰ ذیقعدہ (۱۳۴۴ھ/۱۹۲۹ء) کو صبح صادق سے کچھ پہلے صرف ایک دن کی علالت کے بعد اس دارِ فانی سے رخصت فرما ہوئے اور چکوال میں اپنے آبائی قبرستان میں دفن ہوئے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس علامہ جمیل کی قبر کس پرسی کے عالم میں ہے، آج ان کی قبر کی تعمیر کرنے والا شاید ہی کوئی موجود ہو، حضرت مولانا کا ذاتی کتب خانہ بہت بڑا تھا جس کا اکثر حصہ اب بھی محفوظ ہے سہ

سہ مکتوب قاضی نور علی نسیم، ڈیڑھائی سکول راولپنڈی صدر، بنام راقم خطوط، مورخہ ۳ اکتوبر ۱۹۷۲ء

فاضل منبر حضرت علامہ مولانا سید احمد دین گانگوی قدس سرہ (میانوالی)

فاضل بیگانہ حضرت مولانا سید احمد دین گانگوی رحمہ اللہ تھے ابن مولانا میاں غلام علی رحمہ اللہ تھے ۱۲۵۹ھ/۱۸۴۳ء میں موضع گانگی شریف (ضلع میانوالی) میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نسب اکتیس واسطوں سے غوث صدیقی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، آپ کا خاندان پورے علاقے میں دینی اور علمی اعتبار سے ہمیشہ ممتاز رہا، آپ نے قرآن پاک اپنے والد گرامی سے پڑھا جو اپنے دور کے جدید عالم دین اور صاحب نسبت بزرگ تھے، فارسی کی ابتدائی تعلیم قریبی موضع سیوان میں حاصل کی، صرف و نحو کی کتابیں ضلع مظفر گڑھ میں مولانا غلام رسول سے پڑھیں، پھر ملتان جاکر مولانا عبدالرحمن سے فقہ، اصول و منطق کی تعلیم حاصل کی، بعد ازاں عمر پور (ضلع مظفر گڑھ) میں حضرت مولانا الہی بخش سے علمی استفادہ کیا اور معقول فلسفہ، ریاضی اور حدیث و تفسیر کی تعلیم حاصل کی، اس کے علاوہ فرنگی محل بکھتر کے فاضل سے اکتساب فیض کیا اور ۱۸۶۵ء میں دہلی سے سند تکمیل حاصل کی آپ کی امانت سے ایک ہفتہ بعد والد گرامی کا وصال ہو گیا۔

والد ماجد کے وصال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق آپ نے تدریس افتاء اور تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کیا اور ۱۹۲۸ء تک پورے تیس سو برس اس فریضے کو بحسن و خوبی انجام دیتے رہے، اس عرصے میں کابل، قندھار اور دیگر دور دراز مقامات کے علماء نے آپ سے استفادہ کیا، آپ کے چند شاگردوں کے نام یہ ہیں:

۱۔ مولانا محمد اکبر علی (میانوالی) ۴۔ مولانا فقیر محمد کابلی

۲۔ مولانا نور احمد لاکھ پوری ۵۔ مولانا دولت خاں کابلی

۳۔ مولانا محمد زاہد (دریا خاں) ۶۔ مولانا محمد رمضان، وغیرہم سے

آپ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی قدس سرہ کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے لیکن حضرت ثانی خواجہ محمد الدین سیالوی رحمہ اللہ تھے کے دست حق پرست پر سمیت ہوئے اور بہت

بعد صاحب کمال بن گئے، حضرت ثالث خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے فضل و کمال کے پیش نظر آپ کو آستانہ عالیہ سیال شریف کا مفتی اعظم مقرر فرمایا تھا، اس عہدے کے فرائض کو آپ نے بڑی محنت اور قابلیت سے انجام دیا۔ آپ نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا اور جن تحقیق ادا کی، مثلاً عشرہ ذکوة کے موضوع پر اسلامی بیت المال اور مسئلہ سماع (قوالی) پر ضیائے شمس الانوار تالیف کیں، جو طبع ہو گئی ہیں۔ ان کے علاوہ مسئلہ علم غیب، حاضر و ناظر، امتیاز سید اکوثرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تین جلدیں بیک لفظ دینے اور دیگر موضوعات پر آپ کی تصانیف تاہنوز زیور صبح سے آراستہ نہ ہو سکیں۔

حضرت مولانا احمد دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صیح معنوں میں علمائے سلف کی یادگار تھے، کبھی خوف یا لالچ آپ کو انصاف حق سے باز نہ رکھ سکا۔ ایک سو چھپیس سال سے زائد عمر ہونے کے باوجود باقاعدگی کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے کے لئے خود چل کر مسجد میں تشریف لاتے، عالم جوانی سے آخر عمر تک نماز تہجد، اشراق اور سلسلہ عادیہ شپتہ کے مولات اہتمام سے ادا کرتے رہے۔ آپ فی الواقع صاحب کرامت بزرگ اور علمی اعتبار سے مرجع خلائق تھے۔

۴۔ رجب المرجب ۲۸، اکتوبر ۱۳۸۸ھ/ ۱۹۶۹ء بروز ہفتہ ایک بجے دن ذکر کرتے ہوئے آپ کی روح نورانی علیتین کی طرف پرواز کر گئی۔ آپ کے وصال سے اہل سنت و جماعت ایک فاضل کامل اور صاحب دل ولی اللہ سے بظاہر محروم ہو گئے۔ آپ کے جنازہ میں اطراف و اکناف کے کثرت مسلمانوں نے شرکت کی اور باچشم پریم در شمس العلوم جامع مسجد گانگی (میانوالی) میں آپ کو دفن کیا گیا، یہ امر باعث مسرت ہے کہ آپ کے فرزند ارجمند مولانا سید غلام فخر الدین مدظلہ العالی تلمیذ رشید صدر الافاضل مولانا علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جانشین ہیں، مولانا نے کریم ان کا سایہ تادیر سلامت رکھے، آمین ۱۵

۱۵ سلطان شاہ دادی، مولانا، تذکرہ اولیائے شہت، ص ۲۸۹-۲۹۰

مولانا سید احمد علی شاہ بٹالوی قدس سرہ
(پروفیسر اسلامیات کالج خطیب شاہی مسجد لاہور)

مناظر اسلام، محقق اہل سنت مولانا سید حافظ احمد علی شاہ بٹالوی حنفی نقشبندی شہنشاہی نظامی کار افتاد، بٹالہ ضلع گورداسپور (مشرقی پنجاب) میں پیدا ہوئے۔ اپنے دور کے ممتاز فضلا، مشائخ سے اکتساب فیض کیا اور تجرب علمی میں معاصرین سے ممتاز ہوئے۔

بٹالہ میں قیام کے دوران مولوی محی الدین زحیر مقلد کی کتاب "الظفر البین" کے رد میں مشہور کتاب نصر المقلدین (جس میں منکرین تقلید کے اعتراضات کے مسکت جواب لائے تھے) تحریر فرمائی، اس کتاب کو علمی دنیا میں قبولیت عامہ کی سند حاصل ہوئی۔

۱۸۸۲ء/ ۱۲۹۹ھ میں آپ لاہور تشریف لائے، ان دنوں پادری پورن چند مدرک مشن سکول لاہور نے مخالف اسلام سرگرمیاں شروع کر رکھی تھیں، سادہ لوح مسلمان اس پادری کے ہاتھوں تنگ آچکے تھے، مولانا کو پتہ چلا تو میدان میں آگئے اور مناظرہ میں پادری پورن چند کو شکست فاش دی۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے عیسائی مبلغین کے خلاف تقاریر کا سلسلہ شروع کیا، آپ اکثر لوہاری دروازہ کے باہر تقریر کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ نے "دعوة الحق" کے نام سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا جس سے علوم و خواص خوب مستفیض ہوئے۔ لاہور کے علاوہ عثمان راو پنڈی، گوجرانوالہ، انبالہ، بٹالہ اور رام نسر وغیرہ شہروں میں تبلیغ کے سلسلے میں تشریف لے جاتے اور عیسائیوں کی ریشہ دوانیوں کا قلع بچ فرمادیتے۔

۱۳۱۱ھ/ ۱۸۹۳ء میں اسلام آباد لاہور میں عربی فارسی پورہ بنیات کے پروفیسر مقرر ہوئے، لہ قیام لاہور کے زمانہ میں مولانا حافظ مشتاق احمد انیسویں کی کتاب ضابطہ تحصیل رابطہ پنکھ لکھ کر تصدیق کے مسئلہ کو بڑی وضاحت سے پیش کیا، اس

علمی بحث کو معاصرین صوفیاء اور علمائے تصوف نے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا۔
قیام لاہور کے دوران آپ کو بادشاہی مسجد کا خطیب مقرر کیا گیا، خطابت کے
فرائض کو بارہ سال تک نہایت ثنوی سے نبھایا، یہ وہ دور تھا جب بگوی علماء کے آخری
خطیب مولانا محمد شفیع بگوی اپنے وطن مالوٹ جا چکے تھے۔

حضرت مولانا پیر عبد الغفار شاہ قدس سرہ سے آپ کے بڑے گہرے روابط تھے
اکثر اوقات انہی کے پاس گزارتے، ایک بڑھنک نماز مغرب کے بعد مسلم شریعت کا
درس دیتے رہے جس سے لاہور کے بہت سے علماء مستفید ہوئے حضرت پیر صاحب مرحوم
منظور بہارہ کی گیارہویں اور بارہویں تاریخ کو ختم شریعت کرایا کرتے تھے، اس میں آپ کی
تقریر ضرور ہوا کرتی تھی، ہر سال میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر میرت جیہ پر خطاب
فرمایا کرتے تھے اور پیر صاحب آپ کی عزت افزائی کے طور پر آپ کی دستار بندی فرمایا
کرتے تھے، علم و عرفان کی ان مجالس میں آپ کے علاوہ مولانا علامہ صفح علی روحی اور
مولانا نور بخش توکلی، پروفیسر گورنمنٹ کالج ایسے صوفی بنش اور صاحب دل حضرات بھی
شرکت کیا کرتے تھے، درس حدیث کی شہرت کی بنا پر آپ مدرسہ غوثیہ لاہور کے شیخ
المحدث کہلائے۔

۱۳۴۲ھ/۱۹۲۳ء میں جمعیت الاحناف، امرتسر قائم کی گئی تو اس کی مجلس منظمہ
میں مولانا سید احمد علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بحیثیت رکن شامل تھے۔ آپ نے عقائد
اہل سنت کی ترویج و اشاعت اور غیر مقلد علماء کے کھوکھلے دلائل کی تردید میں گرانقدر خدمات
انجام دیں، معاصر علماء آپ کے کمال علم کے معترف تھے، ذیل میں آپ کی تصنیف نصر المقلدین
پر مولانا عبد العلی اسی مداسی کی منظوم تقریظ کے چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں جن معاصرین
کی نگاہ میں آپ کی فضیلت علمی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

احمد علی چوہینت مسلم یا علم نمود دادہ شکست فاش نظر را بہ نصر دیں
گردنوائے مناظرہ دار دباو کے ناوک مہین نشاہیم، معرکہ نہیں
نور ۱۰۰۷۱۰۰ صفحہ ۱۰۱ اصل بولتہ ادا آن و خطا در سیں

علامہ علوم کتاب و حدیث و فقہ فہمہ فہوم اصول و فہمہ درع دیں
وہا بیان نمود چوں باد سے مناظرہ
عاجز شدہ گر ہیجہ از ہند تا بہ چین
آپ شاعری میں علی مخلص فرمایا کرتے تھے، افسوس کہ آپ کا کلام نہیں مل سکا، آپ نے
تراجم و تصانیف کا کافی ذخیرہ یادگار چھوڑا جسے اہل علم نے وقعت کی نگاہ سے دیکھا اور بڑا
استفادہ کیا، تراجم و تصانیف کے نام یہ ہیں۔

تراجم۔

- ۱۔ نجات الانس از مولانا جامی رحمہ اللہ تعالیٰ۔
- ۲۔ تحفۃ القلوب و ہدایۃ الارواح از شیخ عثمان جالندھری
- ۳۔ مشکوٰۃ الانوار از امام غزالی قدس سرہ
- ۴۔ رسالہ حق نما از شہزادہ دارا شکوہ
- ۵۔ ہجرت الاسرار و معدن الاسرار از شیخ نور الدین ابی الحسن بن یوسف شافعی
- ۶۔ شفا شریعت، قاضی عیاض قدس سرہ
تصانیف۔

- ۱۔ سرور انظار الفانزنی نداری شیخ سید عبدالقادر۔ ۲۔ نصر المقلدین
- ۳۔ نور الشیخ فی ظلم العجمہ (مختصر پیر علی خاں شاہ خطیب کیمیا دھواں کے ایما پر لکھی گئی ڈائمنی کے زیر ہدایت تھی)
آپ نے ۱۳۴۵ھ/۱۹۲۶ء میں وفات پائی

آپ کے صاحبزادے حافظ بختیار علی ۱۳۴۱ھ/۱۹۲۲ء میں فوت ہوئے، ان کے علاوہ
اولاد کا پتہ نہیں مل سکا، حضرت مولانا سید احمد علی شاہ قدس سرہ کی نماز جنازہ حضرت مولانا سید
دیدار علی شاہ الوری قدس سرہ نے پڑھائی، مزار مبارک میاٹی لاہور کے قبرستان میں ہے۔

حضرت خواجہ احمد نبی قدس سرہ (چوہدرہ شریف)

مرشد طریقت حضرت خواجہ احمد نبی المعروف زلفاں والی مرکار، ابن مرشد العصر حضرت خواجہ فقیر محمد چوہدری ابن حضرت شیخ المشائخ خواجہ نور محمد تیرابی (قدس سرہ) چوہدرہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ حسنی حسینی سید تھے، آپ نے تمام تر روحانی تربیت والد ماجد قدس سرہ سے حاصل کی اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اجازت و خلافت سے مشرف ہو کر والد ماجد کے جانشین بنے۔

حضرت خواجہ احمد نبی قدس سرہ کے اقوال، افعال اور بکاس سنت مبارکہ کا کس جلیل تھے، شانوں تک حسین اور دلآویز نہیں رکھے ہوئے تھے اس لئے زلفاں والی مرکار کے نام سے مشہور تھے۔

تمام زندگی قریب قریب شریف سے جا کر شریعت مقدسہ کی تلقین و تبلیغ فرمائی۔ آپ کے مریدین کا حلقہ کابل، جتوں، بلوچستان، سندھ، امرتسر، بمبئی، دہلی اور اجمیر شریف تک پھیلا ہوا تھا۔ صبح و شام مہانوں کے لئے دسترخوان کھلا رہتا، اگر اتفاقاً کوئی دوست کسی مہمان کو ناہمسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا تو آپ سختی سے منع کرتے اور فرمایا کرتے تھے :-

”اللہ تعالیٰ کے حضور میں ملکی، عداوتی اور لسانی کوئی فرق نہیں ہے، وہاں تو اعمال کا فرق ہے، سب مسلمان ایک نسیب کے دانے ہیں“

احباب کو ہمیشہ تلقین فرماتے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی دلوائیں، آپ خود صبح اٹھیں تاکہ بچے بھی صبح اٹھنے کے عادی بنیں، بعض عقیدتمندوں کے اصرار پر چوہدرہ شریف سے منتقل ہو کر لاہور میں ایک نیازمند باباؤسن

کے کنوئیں پر تشریف لے آئے، وہاں ایک حجرہ میں عبادت الہی میں مصروف رہتے، بعد میں یہ جگہ دس پورہ کے نام سے مشہور ہوئی اور اس چوک کا نام پیراں والا چوک مشہور ہو گیا۔

اٹھارہ سال تک آپ یہیں رہے اور اسی جگہ آپ کا وصال ہوا۔ نماز جنازہ حضرت استاذ الحدیث مولانا سید دیدار علی شاہ قدس سرہ بانی دارالعلوم حزب الاخوان لاہور نے پڑھائی۔ حضرت خواجہ احمد نبی قدس سرہ کا مراد شریف چوہدرہ شریف میں ہے جہاں آپ کا سالانہ عرس بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔

لے فیچر روس : روزنامہ مشرق، لاہور، ۴ اپریل ۱۹۷۲ء۔

حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خاں نعیمی قدس سرہ

شیخ انصاری حضرت مولانا مفتی احمد یار خاں ابن مولانا محمد یار خاں بدایونی (قدس سرہ) شوال ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۶ء میں محلہ قلعہ کپڑہ اوجھانی (ضلع بدایوں) کے دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد فارسی درسیات پر عبور رکھتے تھے، انہوں نے جامع مسجد میں ایک مکتب جاری کیا تھا جس میں طلباء کو تعلیم دیتے تھے، غالباً حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں کچھ چھوٹی قدس سرہ کے مرید تھے۔

مولانا مفتی احمد یار خاں رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، پھر مدرسہ شمس العلوم، بدایوں میں داخل ہو کر تین سال تک (۱۹۱۶ء تا ۱۹۱۸ء) مولانا قدس سرہ بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر اساتذہ سے اکتساب فیض کیا، اسی زمانے میں بریلی شریف جا کر حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ابتدائی کتب محنت و جانفشانی سے پڑھیں، امتحان میں سب سے زیادہ فرما حاصل کیے، مولانا حافظ بخش بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ (مفتی) نے خاص طور پر ان کی تعریف کی اور انہیں انعام کا مستحق قرار دیا، ماہنامہ شمس العلوم، بدایوں میں برکیت نشانیوں کی شائع ہوئی۔

مدرسہ شمس العلوم، بدایوں کے بعد مدرسہ اسلامیہ، مینڈھو (ضلع علی گڑھ) میں داخل ہوئے اور کچھ عرصہ پڑھا، چونکہ اس مدرسہ کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے تھا اس لئے وہاں سے تعلیم ترک کر کے مراد آباد چلے گئے، اس واقعہ کا ذکر مفتی صاحب نے اپنے مجموعہ

۱۔ مولانا مفتی کوکب قاضی : میرٹ سٹاک ایجنسی اور دسمبر ۱۹۰۷ء، ص ۱۳۔ علم ہنر مولانا، ایضاً میرٹ، ص ۲۹
 ۲۔ مولانا کوکب قاضی، پروفیسر، علمی یادداشت۔
 ۳۔ مولانا کوکب قاضی، میرٹ سٹاک، ص ۲۳ تا ۲۴۔
 ۴۔ مولانا کوکب قاضی، پروفیسر، علمی یادداشت۔

کلام دیوان ساک کے ایک حاشیہ میں بھی کیا ہے۔

جامعہ نعیمیہ، مراد آباد میں داخل ہوئے، حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ کی مردم شناس نگاہوں نے جوہر قابل کو پہچان لیا اور خود پڑھنا شروع کیا، پھر بے پناہ مصروفیات کی بنا پر حضرت مولانا علامہ شقائق احمد کاپوری ابن استاد ذہن مولانا احمد حسن کاپوری قدس سرہ کو مراد آباد بلا کر مفتی صاحب کی تعلیم ان کے سپرد کر دی، ایک سال بعد مولانا احمد حسن کاپوری میرٹھ تشریف لے گئے، مفتی صاحب بھی استاد گرامی کے ساتھ رہے اور ۲۴/۱۳/۱۹۲۵ء میں درس نظامی سے فراغت حاصل کر لی، اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے تکمیل کے بعد علی زندگی کا آغاز جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے کیا جہاں مدرسے کے علاوہ فتویٰ نویسی کا کام بھی کرتے رہے۔ بعد ازاں مدرسہ کینیڈا دھوراجی، کامٹیا وار میں نو سال تک تدریس و خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے، اس کے بعد ایک سال جامعہ نعیمیہ مراد آباد اور قریباً تین سال کچھ چھپتے شریف رہے، پھر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا سید ابوالبرکات دامت برکاتہم العالیہ کے بلانے پر پاکستان شریف لائے اور بارہ تیرہ برس دارالعلوم قدام الصوفیہ، گجرات اور دس برس انجمن خدام الرسول میں فرائض تدریس انجام دیتے رہے، وصال سے چھ برس قبل جامعہ غوثیہ نعیمیہ میں تصنیف افتاء اور تدریس کا کام جاری رکھا۔

۱۹۴۶ء میں جب مرکزی انتخابات ہوئے تو مرحوم مسلم لیگ اور پاکستان کانفرنس علاقہ دیوبند میں کئی خاص طور پر بریلی اور بدایوں میں صرف مسلم لیگ کا شہرہ تھا، بدایوں کے علماء و عمائد مولانا عبدالحامد بدایونی، خواجہ غلام نظام الدین، ملا عبد الصمد مقتدری وغیرہ نے بڑا کام کیا۔

۱۔ مولانا کوکب قاضی، پروفیسر، علمی یادداشت۔
 ۲۔ مولانا کوکب قاضی، میرٹ سٹاک، ص ۲۸ تا ۳۲۔
 ۳۔ ایضاً، ص ۲۸ تا ۲۹۔

فقیہ و جہانی ہیں پودھری حاجی شمس الدین مولوی ابو الحسن ہنسی شمس الدین سید شہید اعلیٰ شیخ شوکت حسین، اریاض الدین اور شیخ عبدالرحیم وغیرہ مسلم لیگ کے سرگرم کارکن تھے۔ فقہیہ اور جہانی میں مسلمانوں کے غالباً سترہ ووٹ تھے جن میں سے پندرہ ووٹ مسلم لیگ کو ملے، ڈاکٹر محمد سعیدی نے دو ووٹ نہیں ڈالا، آخری دو ووٹ حضرت مفتی احمد یار خاں رحمانی نے لگائے، پونگ کا آخری وقت ۵ بجے تھا، مفتی صاحب ساڑھے چار بجے گاڑی سے اور جہانی پہنچے اور سٹیشن سے سیدھے پونگ سٹیشن (میں پیلو روڈ آفس) جا کر مسلم لیگ کو ووٹ دیا، مسلمان اس بنا پر بہت خوش ہوئے کہ مفتی صاحب محض دو ووٹ ڈالنے کے لئے ہجرت (پہچان) سے سفر کر کے اور جہانی پہنچے تھے چنانچہ بصوتِ جہاں آپ کو گھرایا گیا۔

حضرت مفتی صاحب اگرچہ درس و تدریس اور تبلیغ کے میدان کے آدمی تھے تاہم مختلف مواقع پر ملی اور سیاسی تحریکوں میں خدمات انجام دیتے رہے۔ تحریک پاکستان کے سلسلے میں صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے قرارداد پاکستان کی تائید کے لئے جو کوششیں کیں، مفتی صاحب ان میں شریک رہے۔ ۱۹۴۵ء/۱۹۴۶ء میں نظریہ پاکستان کی تائید کے لئے بنارس میں آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس منعقد ہوئی تو مفتی صاحب پنجاب کے علماء و مشائخ کے عظیم وفد میں شامل تھے۔

غالباً آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس کے انعقاد کے بعد بعض بااثر حضرات نے مسلم لیگ کانفرنس کے فیصلوں کی مخالفت کی اور اپنے حلقہ اثر میں اس کا تذکرہ بھی کیا۔ مسلم لیگ کے یہی خواہ اس بنا پر متفق تھے کہ صوبائی الیکشن قریب ہے، اگر حکومت حال یہی رہی تو یہ معلوم نتیجہ کیا ہو؟ تجویز کیا جا رہا تھا کہ ہدایوں کے علماء کو بلا کر جلسہ کرنا چاہئے، اتنے میں مفتی صاحب اور جہانی بیخ گئے، ان کی دونوں تقریروں نے ہذا کو ساگر بنا دیا اور صوبائی الیکشن میں مسلم لیگ کامیاب ہو گئی۔

۱۔ محمد ایوب قاسمی، پروفیسر، علمی یادداشت۔

۲۔ عبدالحی کوکب قاضی، سیرتِ ملک، ص ۱۳۔

۳۔ محمد ایوب قاسمی، پروفیسر، علمی یادداشت۔

حضرت مفتی صاحب رحمانی نے نہایت خوش اخلاق اور فزونی شخصیت تھے، سلام کرنے میں پہل کرتے، معمولات اور وقت کے اتنے پابند تھے کہ جب آپ جمعہ کے روز منبر پر بیٹھتے تو لوگ بچے بچوں کا ہاتھ ٹھیک کر لیتے تھے، پانچ دفعہ حج و زیارت سے مشرف ہوتے، ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب نے تقریباً ۴۶ سال کا عمر صرف دین میں صرف کیا، سینکڑوں علماء کو فیض یاب فرمانے کے ساتھ ساتھ تصانیف کا معنیٰ ذخیرہ یادگار چھوڑا جس سے مسلک اہل سنت و جماعت کو نہایت تقویت ملی۔
تصانیف کے نام درج ذیل ہیں:-

- ۱۔ تفسیر نعیمی، گیارہ جلدوں پر اس کے ریح آخر تک لکھی گئی۔
- ۲۔ نعیم الباری فی انشراح البخاری، بخاری شریف کا عربی حاشیہ۔
- ۳۔ مرآة شرح مشکوٰۃ اردو، آٹھ جلدوں میں۔
- ۴۔ نور العرفان فی حاشیة القرآن، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ کے ترجمہ پر تفسیری حواشی۔

- ۵۔ جہا الحق، دو جلد
- ۶۔ علم المیراث
- ۷۔ علم القرآن
- ۸۔ شان عبدالمؤمنین من آیات القرآن
- ۹۔ اسلامی زندگی
- ۱۰۔ سلطنتِ مصطفیٰ
- ۱۱۔ رحمت خدا بوسیلہ اولیاء
- ۱۲۔ رسالہ نور
- ۱۳۔ مواعظ نعیمیہ
- ۱۴۔ دیوانِ سالک
- ۱۵۔ نئی تقریریں
- ۱۶۔ وغیرہ وغیرہ

نعیم الباری اور تفسیر نعیمی کے دونوں پاروں کے علاوہ باقی تمام کتابیں چھپ چکی ہیں۔

حضرت مفتی صاحب یرناس قدس سرہ کے دو صاحبزادے یادگار ہیں:-

۱۔ مشہور خطیب مولانا مفتی ممتاز احمد

۲۔ مولانا مفتی اقتدار احمد

خدا کرے کہ دونوں حضرات مفتی صاحب کی امانتِ عظیمہ کو ملتِ اسلامیہ تک پہنچانے

زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں۔

جن دنوں حضرت مفتی صاحب میوہ ہسپتال میں تھے راقم الحروف اور مولانا غلام رسول سعیدی منظر مزاج پرسی کے لئے حاضر ہوئے، حضرت مفتی صاحب نے دوران گفتگو فرمایا "میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں مدرس تھا، میں اور مولانا مفتی امین الدین بدایونی رحمہ اللہ کئی بڑے شوقی سے قوال سا کرنے تھے، ایک دن قوال نے یہ شعر پڑھا ہے

کچھ پاس نہیں ہے پیر، کیا نذر کروں میں تیرے
اک ٹوٹا ہوا دل ہے اور گوشہ تنہائی

یہ شعر سننا تھا کہ مفتی امین الدین صاحب نے جو کچھ پاس تھا، قوال کو پیش کر دیا، حضرت صدرا فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ نے بلا کہ باز پرس کی اور فرمایا: یا تدریس ہوگی یا قوالی، حضرت کے اس ارشاد پر میں نے عرض نے کی: میں تدریس چھوڑ سکتا ہوں قوالی نہیں چھوڑ سکتا، یہ سنتے ہی حضرت صدرا فاضل جلال میں آگئے اور فرمایا:-

"احمد یار خاں! میں نہیں جھکا گستاہوں کہ قوالی سننا چھوڑ دو"

چنت نیچہ اس کے بعد آج تک میں نے کبھی قوالی نہیں سنی۔

اللہ اللہ! احترام استاذ کی ایسی مثالیں آج کہاں ملیں گی۔

حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خاں نعیمی قدس سرہ کا وصال ۳ رمضان المبارک ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء کو ہوا، نماز جنازہ مفتی معظم پاکستان حضرت مولانا ابوالبرکات سید احمد دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی، مفتی صاحب کی انگریز اہرام گاہ گجرات پنجاب میں ہے، جنازہ میں شرکت کے لئے راقم الحروف گجرات گیا، حضرت مفتی صاحب کی زیارت کی، چھ پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، اس وقت یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ ان پر موت کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔

سید ابوالکمال برق نوشاہی نے قطعہ تاریخ کہا ہے

فدائے ملت محنتِ عالم
دعید العصر درخسیر و تقریر
حکیم امت سرکارِ عالم
خطیبِ اہل سنت شیخِ تفسیر

جیانتس بود در عالم کرامت

وفاقتس از علامات قیامت

چوں بیکتا بود او اندر شرافت،

و ن تشریح برق بگو "شیخ شرافت"

مرزا سید شریف مد شرف نوشاہی نے سن نعیمی کا استخراج کیا ہے

ذکر اسم خدا شام و پگاہ

در حدیث و فقہ کس ششش نبود

صوفیان اہل حق را بود شاہ

از شرافت سال ترحیش شنوا

مخزن انوار شد مستور آہ

لے عبدالحی کوکب تاحفی، سیرت مانگ، ص ۱۳۹، ۱۴۰

- ۴۔ ترجمہ قصیدہ بردہ اردو، صفحات ۱۸۲ مطبوعہ ۱۳۲۶ھ۔
 ۵۔ امیر الکلام میں کلام الامام " " " " ۱۲۸ " " " " ۱۳۲۲ھ۔
 ۶۔ شرح اسما حسنیٰ " " " " ۲۳۸ " " " " ۱۳۲۹ھ۔
 ۷۔ سيطرة الاسلام علی المصادر العظام روحیت اردو، " " " " ۱۲۴ " " " " ۱۳۲۰ھ۔
 ۸۔ مافی الاسلام اسلامی عقائد و احکام، دو جلد، " " " " ۱۳۰۰ " " " " ۱۳۵۰ھ۔
- ان کے علاوہ بعض تصانیف فارسی دیوان چھ ہزار اشعار پر مشتمل اور دیوان عربی پانچ سو اشعار پر مشتمل، تفسیر سورہ یسین، آخری دو پاروں کی تفسیر اور خطبات عربی ابھی منتظر اشاعت ہیں۔

حضرت علامہ رومی کے فرزند ارجمند ڈاکٹر صوفی محمد ضیاء الحق، ادب عربی کے مسلم فاضل ہیں اور اپنے والدِ گرامی کے کلام کی ترتیب و اشاعت میں کوشاں ہیں۔
 حضرت علامہ اصغر علی رومی قدس سرہ کا وصال ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۴ء میں ہوا۔ آپ کا مزار کھٹالہ میں مسجد سے ملحق، برب شاہراہِ عظیم (جی۔ٹی۔ روڈ) واقع ہے۔

لے سب سے رضی، ڈاکٹر، قاری گویاں پاکستان، ۱۳۰، ص ۲۶۲ و ۲۶۳۔
 لے ایٹا، ص ۲۶۱۔

فقہ العصر مولانا مفتی اعجاز ولی خاں رضوی قدس سرہ (الابو)

استاذ العلماء فقہ العصر مولانا مفتی محمد اعجاز ولی خاں ابن مولانا سر دار ولی خاں ابن مولانا ہادی علی خاں ابن مولانا رضا علی خاں (جد امجد مولانا شاہ احمد رضا خاں قادری بریلوی) قدس سرہ امراجم ۱۱ ربیع الثانی ۲۰ مارچ ۱۳۳۶ھ/۱۹۱۴ء کو بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی قدس سرہ سے قرآن مجید شروع کیا اور حافظ عبد الحکیم قادری بریلوی سے پڑھا، پھر درسی کتابیں متوسطات تک برادر مہتمم مولانا تقدس علی خاں مدظلہ العالی شیخ الحدیث جامعہ راشدیہ، پیر گوٹھ، سندھ، مولانا مختار احمد سلطان پوری اور مولانا محمد حسنین رضا بریلوی سے پڑھیں، شرح جامی مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا بریلوی مدظلہ العالی سے اور تفسیر جلالین مولانا سر دار علی خاں سے پڑھی اور ۱۳۵۲ھ/۱۹۲۹ء میں حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا بریلوی مدظلہ العالی سے سند حدیث حاصل کی، بعد ازاں حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی قدس سرہ سے بھی سند حدیث حاصل کی، پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی قدس سرہ مصنف بیار شریعت کی خدمت میں مدرسہ سعید دیہ دادوں میں حاضر ہوئے اور تحصیل علوم کے بعد حضرت صدر الشریعہ سے سند حاصل کی سلسلہ عالیہ قادریہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی سے بیعت ہوئے اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا بریلوی مدظلہ سے سلسلہ قادریہ میں اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔

تکمیل علوم کے بعد این۔ بی۔ ٹی سکول بریلی میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا، پھر کچھ عرصہ دارالعلوم مظہر اسلام اور کچھ عرصہ دارالعلوم مظہر اسلام بریلی میں پڑھاتے رہے۔ ۱۹۴۵ء میں آپ مدرسہ سماج العلوم، پانی پت متصل حصار مولانا سید غوث علی شاہ پانی پتی قدس سرہ تشریف لے گئے۔

لے ۹ صفر ۱۸ فروری ۱۳۶۵ھ/۱۹۷۵ء، کو بریلوٹھ سندھ میں تک کا وصال ہوا۔

اور ایک سال فراغ تحصیل تک میں انجام دینے کے بعد دارالعلوم منظر اسلام بریلی میں چلے آئے تقسیم کے بعد ۲۰ دسمبر ۱۹۴۶ء کو پاکستان آکر جامعہ محمدی شریف جھنگ میں ۱۹۵۱ء تک شیخ الحدیث رہے بعد ازاں کچھ عرصہ دارالعلوم اہل سنت و جماعت جہلم میں رہے، جون ۱۹۵۴ء میں شیخ الحدیث الفتح کی حیثیت میں جامعہ نعیمیہ لاہور تشریف لے آئے اور قریباً چھ سال تک بحسن و خوبی کام کیا۔ ۱۹۶۰ء میں جامعہ نعیمیہ لاہور میں شیخ الحدیث مقرر ہوئے، ۱۹۶۳ء میں جامعہ نعیمیہ کی انتظامیہ کی جانب سے جمعیتہ علماء پاکستان سے وابستگی پر اعتراض کیا گیا تو آپ نے استعفا دے دیا۔ ۱۹۶۰ء اور جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں شیخ الحدیث مقرر ہو گئے، افسوس کہ آپ جامعہ نظامیہ میں صرف دو دن تشریف لائے تھے کہ مرض وفات لاحق ہو گیا اور جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے طلباء آپ سے مستفیض نہ ہو سکے۔

مفتی اعجاز دلی خاں قدس سرہ ۱۹۳۷ء ہی سے تحریک مسلم لیگ کی حمایت و اعانت فرماتے رہے۔ ۱۹۴۰ء میں جب لاہور میں قراؤ اور پاکستان منظور ہوئی تو آپ نے اس کی حمایت میں دارالافتاء رضویہ بریلی سے فتویٰ جاری کیا۔ ۱۹۴۵ء، ۱۹۶۱ء، ۱۹۶۲ء میں مشرقی پنجاب کا دورہ کر کے پاکستان کے لئے فضا ہمار کی ۱۹۵۲ء میں تحریک ختم نبوت میں حصہ لینے کی بنا پر ایک سو دن تک سیٹی ایکٹ کے تحت نظر بند رہے۔

آپ ابتدا ہی سے جمعیتہ علماء پاکستان کے معاون رہے، علامہ ابوالحسنات قدس سرہ کے دور میں مجلس علماء کے رکن اور علامہ عبدالحماد بدایونی کے دور صدارت میں مغربی پاکستان کے صدر رہے، حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی مدظلہ السالی کے دور صدارت میں خازن رہے، مئی ۱۹۶۱ء میں جمعیتہ علماء پاکستان صوبہ پنجاب کے صدر مقرر کئے گئے، ۱۹۶۵ء اور اسی وابستگی کی بنا پر منصب شیخ الحدیث سے استعفا دے دیا۔

۱۔ غلام مرتضیٰ مولانا، ابوالوقت المرہوم، ص ۱۱۵، ۱۱۶

۲۔ دارالرحمن، ص ۱۰، ہندوستان کے سبب گجرات رجسٹری، ذوق، ۱۹۷۵ء، ص ۲۵

۳۔ اقبال، اصفا دلی، پیرزادہ، تذکرہ علماء اہل سنت، لاہور، ص ۳۶۸

۴۔ ذکار، ص ۱۰، ہندوستان کے سبب، گجرات، ص ۲۶

۱۹۵۴ء میں حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ کے مزار انور کے قریب جامعہ گنج بخش قائم کیا، غالباً ۱۹۵۶ء میں جامع مسجد محمدیہ اسلام پورہ میں خطیب مقرر ہوئے اور وہاں دارالعلوم حادیر رضویہ قائم کیا، آپ نے گنج بخش کے نام سے ایک ماسنامہ بھی جاری کیا جو ایک سہ ماہیہ جاری رہنے کے بعد بند ہو گیا۔

مفتی اعجاز دلی خاں رحمہ اللہ تعالیٰ حسن اخلاق، ایثار و قربانی، حق گوئی، صاف دلی، بے نفسی، علم و بردباری، قوتِ حافظہ، مسائل فقہیہ کے استحضار، صلاحیت اے اور تازہ بخ گوئی ہیں اپنی مثال آپ تھے، بلاشبہ سیکڑوں علماء نے آپ سے اکتساب فیض کیا، تصانیف یہ ہیں:

- ۱۔ فت نون میرٹھ۔ ۲۔ تسبیل الواضع غلاصلہ الخواضع۔
- ۳۔ تنویر القرآن (تفسیر قرآن برعاشیہ کراچی الا بیان)
- ۴۔ ترجمہ مکتوبات شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ۔
- ۵۔ ترجمہ کشف الاسرار، مختلف کتب پر مقدمے اور بیٹیاں فتاویٰ جات۔

مفتی اعجاز دلی خاں قدس سرہ کا وصال ہوا، نماز جنازہ مفتی اعظم پاکستان مولانا سید ابوالبرکات مدظلہ العالی نے پڑھائی، میاں صاحب بہاولپور، روڈ لاہور میں مولانا غلام محمد ترم قدس سرہ کے سرہانے آخری آرام گاہ بنی، ایک صاحبزادہ پاشا صاحب اور ایک صاحبزادی یادگار ہیں، آپ اپنا نام محمد اعجاز رضوی لکھا کرتے تھے، مولانا محمد ابراہیم خوشتر مدظلہ نے تاریخ وصال کئی سہ

رخصت ہو جہان سے یہ کون ہا کمال
 جو چھل ہوئی زمین تو فلک غم سے ہے بے حال
 مفتی کی فکر دین کا جس کو رہا خیال
 "از عاقبت بخیر" ہے اس کا سن وصال ملے

۱۔ ماہنامہ ترجمان اہل سنت، کراچی، نومبر ۱۹۷۷ء، ص ۴۴

عارف کبیر حضرت علامہ مولانا محمد کبیر علی قدس سرہ العزیز (میانوالی)

عالم متبحر، عارف کبیر حضرت مولانا محمد کبیر علی بن مولانا غلام حسین بن خدیوہ (رحمہم اللہ تعالیٰ) ۱۸۸۳ء میں میانوالی میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید والدیہ سے حفظ کیا، فارسی کی ابتدائی کتابیں مولانا محمد (میانوالی) سے پڑھیں، بعد ازاں مولانا نور زمان کوٹ چاند شریف (ضلع میانوالی) سے علمی استفادہ کیا، کچھ عرصہ علی (ضلع کیمپور) میں پڑھتے رہے۔ استاد اعلیٰ مولانا احمد الدین گانگوی (میانوالی) کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، اس کے بعد ضلع ہزارہ کے مختلف علماء سے تحصیل علم کرتے رہے۔ دورہ حدیث دارالعلوم دیوبند میں کیا۔ ۲۹ ذی قعدہ ۱۳۲۲ھ ۱۹۰۵ء کو سند فراغت حاصل کی۔ آپ اسخ العقیدہ علماء اہل سنت میں سے تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظام میں حضرت خواجہ احمد میروزی قدس سرہ العزیز کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے اور اعزاز و خلافت سے مشرف ہوئے۔

تحصیل علوم سے فارغ ہوئے تو اپنے محلے (زادہ خیل) کی چھوٹی سی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے شروع کئے، جلد ہی آپ کی نیک نفسی اور جلالِ علمی کا شہرہ دور دراز تک ہو گیا، طلباء تحصیل علوم کے لئے اور عوام و خواص آپ سے ظاہری باطنی فیوض و برکات حاصل کرنے کے لئے جوق در جوق حاضر ہونے اور اکتسابِ فیض کرتے، دیکھتے ہی دیکھتے مغربی مسجد کی جگہ عظیم الشان وسیع و وسیع مسجد تعمیر ہو گئی۔ آپ کے تلامذہ، مریدین اور معتقدین کا حلقہ بہت وسیع ہے، مسائل دینیہ حل کرنے کے لئے اکثر لوگ آپ ہی کی طرف رجوع کرتے، اہل علم جو کم علمی کی بنا پر احکام شریعت سے بے خبر اور اتہال شریعت سے محروم تھے آپ کے فیضِ صحبت سے نمازی، حاجی، متبع سنت اور علم و دست بن گئے۔

آپ کو اللہ تعالیٰ نے زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت، وسعتِ ظرف، خوش خلقی، سخاوت، حق گوئی اور مخلوقِ خدا سے بے نیازی ایسے اوصاف حمیدہ سے نوازا تھا۔ ایک دفعہ میانوالی کے انگریز ڈپٹی کمشنر نے آپ کو کئی مرتبہ زمین دینے کی پیشکش کی لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ کے

۱۰ سالہ صاحبزادے، مولانا محمد کبیر علی نے ایوانِ اہلیت المرجع ص ۱۰۹ میں سن ولادت ۱۲۹۸ھ لکھا ہے۔

پس ایک برس میں حدیث شریف پڑھا کرنا تھا، ایک خادم نے درخواست کی کہ اسے نہ پڑھایا جائے کہ مبادا پڑھ کر ہمارے مقابلہ پر اتر آئے، آپ نے فرمایا "بے شک مقابلہ کرے، کیا ہمارا مذہب جھوٹا ہے؟" مذاہب باطلہ کی حج گئی میں پوری سی فرماتے تھے "اس ضمن میں کئی مرتبہ مخالفین سے مناظرے بھی کئے اور انہیں شکست فاش دی۔

شیخ المسلمین حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ سے آپ کے گہرے مراسم تھے، چنانچہ کئی دفعہ عرس مبارک میں شمولیت کے لئے گولڑہ شریف تشریف لے جاتے، مولانا فیض احمد گولڑوی لکھتے ہیں :-

"حضرت مولوی کبیر علی صاحب خطیب میانوالی (وصول ۲۶ جمادی الاول ۱۳۷۶ھ ۲۶ دسمبر ۱۹۵۶ء) حضرت خواجہ احمد میروزی کے عالمِ غفا میں سے تھے اور ہمارے حضرت (صاحبزادے) گولڑوی قدس سرہ کے ساتھ ان کا گہرا روحانی رابطہ تھا، مستند عالم تھے، تصوف، کشف اور روحانیت میں بلند مقام رکھتے تھے چوہدری اورنگ زیب صاحب ڈپٹی کمشنر سے جو ہمارے حضرت قبلہ عالم قدس سرہ کے دامن گرفتہ ہیں، ان کے خصوصی تعلقات تھے اور ان سے بعض اوقات خاص اسرار کی باتیں بھی بیان فرمادیتے، مثلاً یہ کہ آج سبن کے دوران فلاں بزرگ کی روح تشریف فرما ہوئی، گولڑہ شریف عرس کے موقع پر بھی کبھی حاضر ہوا کرتے تھے۔

ایک دفعہ عرس کی مجلس ختم ہوئی تو چوہدری صاحب سے فرمایا کہ آج روحانی مجلس میں آؤ اور بلند ہوئی کہ غوث کی عمر ایک برس اور بڑھادی گئی ہے چنانچہ پورے ایک سال بعد حضرت قبلہ عالم قدس سرہ کا وصال ہوا، ۱۰

ملفوظات

• انسان کو چاہیے کہ وہ خوف کی بجائے حیا کی بنا پر گناہ کو ترک کرے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے، گناہ کرتے ہوئے نہ ہوتے

۱۰ سالہ صاحبزادے، مولانا محمد کبیر علی نے ایوانِ اہلیت المرجع ص ۱۰۹ میں سن ولادت ۱۲۹۸ھ لکھا ہے۔

• ہر مصیبت و ابتلا میں ثابت قدم رہنا چاہئے، شریعت مطہرہ کو کبھی بھلایا نہ جاسے، اور ہمیشہ خندِ پیشانی سے رہنا چاہئے تاکہ دیکھنے والے کو انسان کی تکلیف کا احساس نہ ہو سکے۔

• اصل عزت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے حاصل کی جائے اور اسی کیلئے نزع کی جائے اس سے نفس ذلیل ہو جاتا ہے وہ عزت جو اپنے نفس کیلئے حاصل کی جائے اور خواہشات نفسانی کیلئے استعمال ہو تو قدر الہی کا ہمت مٹی ہے۔
۲۷ جمادی الاولیٰ ۲۹ دسمبر ۱۳۷۹ھ / ۱۹۵۹ء کو حضرت مولانا محمد اکبر علی رحمانہ تعالیٰ کا وصال ہوا، کیٹی بارنگ کے وسیع میدان میں آپ کے استاد محترم مولانا احمد دین گانگوی رحمانہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں میانوالی اور اس کے مضافات کے کثیر ائمہ ادویہ مندوں نے شرکت کی، ہزاروں اور آپ کی عظیم دینی یادگار اکبر المساجد کے پہلو میں بنا یا گیا جہاں ہر سال نہایت اہتمام سے آپ کا عرس منایا جاتا ہے، اس عرس میں پاکستان کے مقتدر علماء خاص طور پر فضولی زمانہ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث انوار العلوم، مٹان، ملک، لاہور، سندھ اور ساکنہ مولانا اعظم محمد بندیا لوی دامت برکاتہم العالیہ شرکت فرمایا کرتے ہیں، مولانا ابو الفتح نعمانہ بخش رحمانہ تعالیٰ مسٹر شمس معلوم جامی مظفر پور، ضلع میانوالی اور پھر ان علی شریک ہوا کرتے تھے۔

حضرت مولانا محمد اکبر علی رحمانہ تعالیٰ کی اولاد لڑکیوں میں سے دو صاحبزادے یادگار ہیں مولانا غلام ربانی سرکاری ملازمت سے منسک ہیں اور مولانا الحاج غلام جمیل بی مدظلہ ذوالفصل مدرسہ اسلامیہ امروہہ ضلع سہارنپور، اکبر المساجد (میانوالی) کے خطیب اور میانوالی کے مفتی ہیں، آپ کی نگرانی میں مجدد مدرسہ کا نظام حسن و خوبی چل رہا ہے۔ ان کے فرزند ارجمند مولانا محمد عبدالملک سلمہ ربانہ دونوں درس نظامی کی آخری کتابیں پڑھ رہے ہیں، انہیں ذہانت، شرافت و سلامت طبع کے جوہر درخشے ہیں، میں مسکابل سنت و جماعت کی ترقی کے لئے ان سے بڑی توقعات وابستہ ہیں، مولائے قدوس انہیں سلامت رکھو اور ہمیشہ از ہمیشہ دینی خدمات کی توفیق ارزانی فرمائے آمین۔

سلسلہ یہ تمام حالات انہوں نے ایک تمہی جہاں سے لیا ہے، اس تعاون پر راقم ان کا شکور گزار رہے۔

واعظ الاسلام مولانا سید محمد اکرام الدین بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ

مولانا سید محمد اکرام الدین جمید عالم دین اور مقبول زمانہ واعظ تھے، اسی لئے آپ کو "واعظ الاسلام" کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی قدس سرہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور خلافت سے مشرف ہوئے، حضرت شیخ نے ۱۳۵۰ھ / ۱۹۳۱ء میں درج ذیل الفاظ میں اجازت مرحمت فرمائی :-

اللہ اکبر
از فضل حسن

اما بعد الحمد للہ میاں خواجہ اکرام الدین بخاری کمربند ایس فقیر است
اجازتِ طریقہ نقشبندیہ و قادریہ و ادم کہ ہر دماں تعلیم نماید، ثم
السلام والدعاء۔

نیز حضرت مولانا عمر ضیاء الدین عثمانی خالیدی کردی رحمانہ تعالیٰ نے بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں اجازت عطا فرمائی، اجازت کے الفاظ یہ ہیں :-

اما بعد فقد شرفنا الحبيب الاكرم ولا يحز الانخم
غرة جباه اصحاب اليقين بهجة جبهة اصحاب
التكئين العالم الفاضل خواجہ محمد اکرام الدین
البخاری الشهير بواعظ الاسلام، والى ان قال اجزناه
نيابة عن المشايخ الكرام في الطريقة العلية النقشبندية
القادرية قدس الله تعالى اسرار ساداتهم السنية
ونفعا من بركاتهم البهية اجازة مؤثرة بالنصيحة
والتربية والتعليم۔

مولانا کرام الدین کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت اور بزرگان دین کی عقیدت سے معمور تھا۔ ۱۳۱۴ھ/۱۸۹۶ء میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور آپ کی شان میں ہر یہ سنقیدت پیش کیا اور استغاثہ دستداد کی چند اشعار ملاحظہ ہوں :

بدگاہ جنابت آمدہ یا شاہ جیلانی
غریب ہے نوافذہ ام بیمار در گویت
آپ شعر و سخن کا بہترین ذوق رکھتے تھے اور آخرت مخصوص کرتے تھے۔ ان کے کلام میں زیادہ تر نعت و منقبت کا پہلو نمایاں ہے، درج ذیل مشہور قصیدہ نعتیہ آپ ہی کے فکر عالی کا نتیجہ ہے :

بڑی الفت میں مرثا شہادت اسکو کہتے ہیں
تھی کو دیکھنا تیری ہی سنا تجھ میں گم ہونا
ریاضت نام ہے تیری گی میں آنے جانے کا
بنایا مشرکوں کو عاشق تو حید یکدم میں
ادھر ایسا ہوا شہ کا ادھر بخشے گئے غامی
نہے طغیانیں کہ دریا سبھی کے پہلے بھول گ
سگے گاہ جیلان بھگوتی کرے تو شاہوں
ترا مفتون جان دہ ترا عاشق ترا شیدا
فارسی کلام ملاحظہ ہو :-

فیض جنوں زینتہ صہبا برابر است
بے در عشق بیچ کے قرب حق نیات
یک لحظہ توجہ خاطر بابل حق
ذکر دوام صیقل زنگار باطن است
آخر دے کہ واقف امر عشق شد
یک خون دل بعل مصفا برابر است
یک ذرہ غم بہ جملہ اشیا برابر است
با فیض صبح و شب یلدا برابر است
دل صاف گشت با دن بشار برابر است
اور اہشت و دامن صحرا برابر است

آپ اپنے خطبات میں اصلاح عقائد اور بد مذہبوں سے اجتناب پر بہت زور دیتے تھے چنانچہ ایک خطبہ میں فرماتے ہیں :

ہے جب تک دم میں رہا ہائی عقیدہ پاک کھاپنا
مسلمانو! بچو ہر وقت تم بہرودہ باتوں سے
کوئی منکھہ شیوں سے کوئی گتہ ہے میں علی
کوئی مرزائی و پائی کوئی چکر اوی لیکن
تمامی اولیا اللہ تھے اسلئے سب سنی پر

ان کے دور میں مرزائے قادیانی کے دعویٰ کا بہت زور شور سے پروپیگنڈہ کیا جا رہا تھا علامہ اسلام کی ہمنوائی میں مولانا نے عقائد اہلسنت کے تحفظ اور مرزائی کے بلند بانگ حاوی کے رد میں بڑی مرگرمی کی اور بد مذہبوں پر تقریریں فرمائی جو باحسن و بجا چنانچہ تالیف فیض جاری ملقب بہ ہدیۃ انجاری کے ایک خطبہ جس میں مسئلہ نبوت کا دل لہو پر لیا فرمایا ہے پہلے فرماتے ہیں :-

"بجملہ خطبہ نبیات غیرہ میں دعویٰ نبوت و ہدیۃ کا بہت چرچا ہو گیا ہے
چنانچہ مریدان غیر قادیانی کہ بڑے ہوسے سے میرا کو دسی کا آنا و عینی موجود ہونے کو
ثابت کرنے میں مرگرم ہیں اگرچہ تمہید علیہ السلام لوشکر سالی میں صاورد ہے کہ:
ومن یرى الوحى والنبوة (احد بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)
سلم غیر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فانہ بصیر کا فر ا۔ (تمہید بر ص ۱۱۱)
(فیض جاری ص ۱۱۱)

جو شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لئے دسی اور نبوت کا اعتقاد کرے، وہ کافر ہے۔"

افسوس کہ نہ تو آپ کے فریاد حالات مل سکے اور نہ تاریخ و فائنات معلوم ہوئی، یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ لاہور میں آپ کا مزار کس جگہ ہے۔

سلف یہ تمام حالت فیض جاری سے لئے لکھے ہیں۔ (مرتب)

امام العارفین حضرت خواجہ عبداللہ بخش تونسوی قدس سرہ العزیز

سلسلہ چشتیہ کے زیر نیاں حضرت خواجہ عبداللہ بخش تونسوی بن حضرت خواجہ گل محمد بن حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی ماہ ذوالحجہ (۱۳۲۱ھ/۱۸۲۶ء) میں تونسہ شریف میں پیدا ہوئے دینی تعلیم کے لئے حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی نے آپ کو مولانا محمد امین کے سپرد کیا۔ انہوں نے قرآن مجید کے علاوہ فارسی نظم اور عربی صرف و نحو کی تعلیم دی، پھر حدیث کا درس دیا، بالخصوص تربیت خود حضرت پر چٹان نے فرمائی۔

ابتدائی زمانہ میں آپ شاہانہ شان و شوکت سے رہتے تھے، جب اپنے اصل مقام پر فارغ ہوئے تو پانی ٹوٹی، نیلا تہ بند اور معمولی کپڑے زیب تن فرماتے تھے۔ جدا جدا کے فیض تربیت سے نماز اور روزے کی محبت بچپن ہی میں حاصل ہو گئی تھی۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت سے لگاؤ اتنا کر پہنچ گیا۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی آپ کے دینی جذبے سے بے حد خوش ہوتے تھے چنانچہ آپ نے اپنی حیات ظاہری ہی میں دلائل الخیرات شریف کا پڑھنا آپ کے سپرد کر دیا تھا اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ شجروں پر ہماری طرف سے تم ہی دستخط کر دیا کرو۔ حضرت خواجہ اللہ بخش نے اس فرمان پر یہاں تک عمل کیا کہ حضرت پر چٹان کے بعد بھی شجروں پر حضرت شاہ سلیمان کا نام ہی لکھا کرتے تھے لہ

جب آفتاب تونسہ شریف حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی قدس سرہ کے روپوش ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ نے حاضر ہو کر قدموں میں رکھ دیا اور عرض کیا :-

”میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے

فقیروں کے ہوتے میرے کنار ہوں“

یہ سن کر حضرت شیخ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور فرمایا **وَقَفَّتْ قَبْرِ مَنْ رُوِيَ** اور جان

جاں آفرین کے سپرد کر دی شاہ غلام نظام الدین فرزند کالے صاحب نے حضرت خواجہ عبداللہ بخش کے سر پر دستار باندھ کر انہیں سجادہ شریف پر بجا دیا لہ

حضرت خواجہ اللہ بخش رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبدالمجید کی طرح پوری زندگی سے خلق خدا کی راہنمائی فرمائی اور سلسلہ کی شاعت میں اپنی تمام خداداد صلاحیتوں کو صرف فرمایا۔ آپ نے سجادہ نشین ہونے کے بعد ہندوستان کے مختلف شہروں کا سفر کیا اور بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دی، بیکانیر میں ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہوئے۔ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضر ہوئے، ۱۸۵۴ء میں اجمیر شریف جا کر حضرت خواجہ بزرگ کے مزار پر حاضری دی اور دس روزہ اجمیر شریف میں قیام فرمایا، یہاں بھی ہزاروں لوگ حلقہ ارادت میں داخل ہوئے، پھر کشن گڑھ، جے پور، راجپوتانہ سے ہوتے ہوئے دہلی پہنچے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی اور حضرت خواجہ خضر الدین نذست اسرارم کے مزارات کے علاوہ سلسلہ چشتیہ کے دوسرے اولیاء کے مقابر پر بھی حاضری دی۔

قیام دہلی کے دوران بہادر شاہ ظفر نے حاضر ہو کر شرف قدمبوسی حاصل کیا، بڑے بڑے امیر کبیر بھی آپ کی قدمبوسی کے لئے حاضر ہوئے اور محلات کی بیجاگت مرید ہو گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب اپنے عقائد کی تشہیر شروع کی تو آپ نے اپنی جگہ ٹھہر کر نہایت سختی سے تردید فرمائی اور کوشش کی کہ مسلمانوں کا دینی احساس بیدار ہو جائے تاکہ اس قسم کی گمراہ کن تحریکوں سے متاثر نہ ہوں، حالانکہ ابھی تک مرزا جی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ

آپ کو تعیبات سے بہت دلچسپی تھی، آپ کی بنوائی ہوئی عملات شکر کے تقریباً نصف حصہ

بھیجی جاتی ہیں، ان عمارتوں میں زیادہ تر مساجد، مدارس، کونٹینر اور مراٹھیں ہیں۔

آپ بلند اطلاق کے مالک تھے، ایک دفتر آپ کے دربار میں حاضر ہونے والا آپ کے اخلاقِ حمیدہ کے اعلیٰ لغزشوں میں سے کہ جاتا تھا۔ مسلمان تو مسلمان ہندو تک آپ کے اخلاقِ عالیہ سے مستفید ہوتے تھے۔

حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی کے حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی سے بڑے مفصلانہ تعلقات تھے، ایک دفتر حضرت شمس العارفین نے ان کے بارے میں فرمایا: "انہوں نے نبی شرافت و کرامت کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت میں سب سے آگے بڑھ کر قربِ الہی حاصل کیا۔"

آپ کی تین فضیلتیں بہت ہی نمایاں تھیں:

- ۱۔ آپ نے عرب شریف سے ایک قاری صاحب کو بلا کر اپنے مکان پر بٹھرایا تاکہ علاقہ کے لوگ قرآن پاک کی قرأت کی تصحیح کر لیں، چنانچہ بے شمار افراد فیضِ قرآنی سے مستفین ہو گئے۔
- ۲۔ ۱۲۹۹ھ میں زیارتِ حرمین شریفین کے لئے گئے تو پچیس افراد آپ کے ہمراہ تھے اس سفر میں آپ نے اپنے رفقاء اور حرمینِ مطہرین کے خدام پر ساٹھ ہزار روپے صرف فرمائے۔

۳۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی قدس سرہ کے وصال کے بعد بہت سے لوگوں کو تشریحِ عقلی کہ مریدین کی تربیت کون کرے گا اور وابستگانِ آستانہ کی ضروریات کا انتظام کون کریگا؟ جب حضرت خواجہ اللہ بخش سجادہ نشین ہوئے تو وہ حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی کی توجہ سے تمام اوصاف میں سب سے سبقت لے گئے۔

"پس چون دریں وقت بظرفورہ بلیم معدوم میگردد کہ ظہور حضرت خواجہ تونسوی اکون شدہ است۔ سبحان اللہ! جنین سجادہ نشین از سجادگان پیش بظہور نیامده باشد" لے

حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ نے ایک مرتبہ فرمایا:

"خواجہ اللہ بخش صاحب کی نظر میں اہل دنیا کی ذرہ برابر وقعت نہ تھی، آپ بے حد غریب لگتے تھے، دنیا داروں کو بہت حقیر جانتے تھے، خواجہ اللہ بخش جیسا کوئی فقیر دیکھنے سننے میں نہیں آیا۔" لے

آپ کے تین فرزند تھے، حضرت خواجہ حافظ محمد موسیٰ حضرت خواجہ حافظ احمد اور حضرت خواجہ حافظ محمود رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے مریدین اور معتقدین حدیثاً سے باہر ہیں شمس العلماء مولانا عبدالحق خیر آبادی آپ ہی کے مرید تھے۔

۲۹ جمادی الاولیٰ، ۱۳۰۱ھ (۱۹۱۱ء) کو حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی حرمِ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، تاریخ وصال یہ ہے:

چراغِ جہاں بجھ گیا ہے لے

۱۳ ۲ ۱

سلطنتِ عثمانیہ، پرولیسر: تاریخِ سنیچ سنیٹ، ص ۲۱، جواد مطوظات طبع، ص ۱۳۲

لے ایفا ص ۲۳

فخر الدین مولانا علامہ ابو الفتح محمد اللہ بخش قدس سرہ (واں بچپاں)

مناظر اہل سنت فخر الدین حضرت مولانا علامہ ابو الفتح محمد اللہ بخش بن مولانا فضل احمد بن مولانا سید رسول بن میاں شیخ احمد (قدت اسرارہم) ۲ محرم ۱۲۰۲ھ (۱۸۳۸ء/۱۹۲۹ء) بروز بدھ موضع شادیہ ضلع میانوالی میں پیدا ہوئے، والد ماجد سے قرآن پاک حفظ کیا اور مقامی سکول میں مڈل تک تعلیم حاصل کی، صرف دستخط کی ابتدائی کتابیں عمدہ توفیق (میانوالی) میں اپنے وقت کے مشہور مدرس حافظ محمد احمد سے پڑھیں، حافظ صاحب دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، ان کی کوشش کے باوجود مولانا اللہ بخش کا ذہن سلیم اعتقادی طور پر ان سے ہم آہنگ نہ ہو سکا، پھر قسمت نے باوری کی تودور حاضرہ کے سب سے بڑے فیض رسالہ مدرس حضرت مولانا حافظ عطا محمد شہتی مدظلہ لا قدس کی بارگاہ میں دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام میاں شریف حاضر ہوئے اور معقول و منقول کی منتہی کتب پڑھ کر محدث اعظم پاکستان مولانا ابو الفضل مودرار احمد قدس سرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صحاح ستہ کا درس لے کر ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۶ء میں تیار فضیلت اور سند فراغت حاصل کی لہ

مفتا کی پختگی تو تک لدین حضرت مولانا عطا محمد شہتی دام ظلہ کے فیض نگاہ سے حاصل ہو چکی تھی، حضرت محدث اعظم پاکستان کے فیض صحبت سے ایمان کو جلا ملی اور مسلک اہل سنت کی صحیح تعبیر مسلک امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ سے تعلق خاطر اور مستحکم ہو گیا، سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت خواجہ نظام الدین تونسوی قدس سرہ سے بیعت ہوئے اور فیوض و برکات سے مستفیض ہوئے۔

فاریغ تحصیل ہونے کے بعد ایک سال مدرسہ احسن المدارس مرکزی جامع مسجد راوی پٹنہ اور ایک سال جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں قابل تاشش تدریسی خدمات انجام دیں، قیام

لاہور کے دوران جامع مسجد میدان روڈ میں خطیب رہے، ۱۹۵۹ء میں واں بچپاں (میانوالی) کے مشہور درس منشی رئیس ملک مظفر خان بہادر رحمتہ تعالیٰ شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی مدظلہ العالی کی رضامندی اور محدث اعظم پاکستان مولانا مودرار احمد قدس سرہ کی اجازت سے پرچیت خطیب مدرس اور منتہی آپ کو واں بچپاں لے گئے۔

واں بچپاں کا ریگزار ایک عرصہ تک مولوی حسین علی (مولف بلند الخیران) کے دور میں الوہیت و رسالت کی تفصیل کی باہر سوم کی زد میں رہا، حضرت پر مہر علی شاہ گونڈوی قدس سرہ کی تشریف آوری نے فوں کاری کے اس ماحول پر شدہ جذبہ لگائی تھی، بعد ازاں مولوی حسین علی کے شاگرد مولوی غلام حسین باکس سال تک نسبت کا لبادہ اڑھ کر جامع مسجد مظفریہ واں بچپاں میں خطیب رہے، شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی مدظلہ العالی کی نگاہ انتقانت نے انہیں بے نقاب کر کے علیحدگی پر مجبور کر دیا، یہ بھی ان بزرگان دین کی نوجہات کا نذرہ تھا کہ مولانا محمد اللہ بخش رحمتہ تعالیٰ کی آمد سے فضیلت ال بچپاں گلستان خیت بن گیا، ان کے روح پرور بیانات بل دل کے لئے نہیم سحری ثابت ہوئے، حاجی صلوة و سلام کے کیفیت اور نئے گونجے گئے، میلاد شریف کے جلوس سے عید کا سماں بندھنے لگا، واں بچپاں کی تاریخ میں آجی وفد آپ کے زیر اہتمام یوم رضامنا گیا۔

مولانا محمد اللہ بخش رحمتہ تعالیٰ کو تدریس و تقریر کی طرح مناظرہ میں بھی یدِ خطرے حاصل تھا، واں بچپاں پہنچنے کے چند روز بعد ہی مولوی غلام حسین کو چیلنج کیا کہ میدان میں اگر مسلک اہل سنت کی حقانیت پر گفتگو کر لیں لیکن وہ ہزار اہلینان دلائے کے باوجود بھی سامنے نہ آئے، امر کو دھا کے مولوی محمد امیر سے موضع اترا ضلع سرگودھا کے قریب ایک دیہات میں مسند علم غیب پر گفتگو کی اور دلائل قاہرہ سے اہل سنت کا موقف ثابت کر کے عظیم الشان فتح حاصل کی، جب یہ اطلاع محدث اعظم پاکستان مولانا مودرار احمد قدس سرہ کو پہنچی تو انہوں نے نہایت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو ابو الفتح کا لقب اور دست فضیلت تاج العشق عطا فرمائی، اس کے علاوہ حضرت محدث اعظم لاہوری کے ایما پر موضع دانگ (مستحق کنڈیاں) میں دیوبندی عام مولوی عطا محمد سے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں پر ایسی زور دار گفتگو کی

کو فریقِ مقابل تباہ مقابلہ نہ لاتے ہوئے چلتے بنے اور جاتے ہوئے کچھ کتابیں بھی چھوڑ گئے۔
 مولانا ابوالفتح محمد بخش رحمہ اللہ تعالیٰ تمام علماء و مشائخ اہل سنت سے گہری عقیدت اور خصائصہ و ابطار رکھتے تھے، خاص طور پر استاذ گرامی ملک المدین حضرت مولانا محمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ کی عقیدت و خدمت میں کوئی بھی ان تک مدھیچہ تھا، ایک عرصہ تک معمول رہا کہ ایک جمعرات حضرت استاذ گرامی کی خدمت میں بندیاں حاضر دیتے اور ایک جمعرات والدین کی خدمت میں موضع شادیہ حاضر ہوتے، حضرت استاذ گرامی مدظلہ العالی بھی انہیں بے پایاں شفقتوں سے نوازتے۔

مولانا محمد بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کے تدریسی کمال اور اخلاقِ جمیلہ کا اثر تھا کہ پاکستان کے گوشے گوشے سے طلبہ کھینچے چلے آتے تھے، افتخارستان تک کے طلبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کتاب فیض کرتے، علومِ دینیہ سے بہرہ ور کرنے کے ساتھ ساتھ مسلکِ اہل سنت کی خدمت کا والہانہ جذبہ طلبہ کے دل و دماغ میں اتار دیتے، بندیاں تشریف لاتے تو کچھ وقت ہمیں بھی عنایت فرماتے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا سراج احمد قدس سرہ فرمایا کرتے تھے :-

مولانا! درسی کتب پر شروع و حواشی لکھنے کی طرف ضرور توجہ دیجئے، کچھ نہیں تو سر روز ایک دو سطریں ہی لکھ لیا کریں! انشا، اللہ العزیز ایک وقت آئے گا کہ مکمل کتاب بن جائے گی!

حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد قدس سرہ نے ایک مکتوب میں آپ کو تحریر فرمایا:
 "مولانا! آپ کو مدارجِ خلیا عطا فرمائے اور خدمتِ درس و تدریس و خدمتِ خطابت و امامت و خدمتِ مذہبِ اہل سنت میں خوب ترقی و قبولیت عطا فرمائے، آمین! " لے
 کیا یہ کہ امت نہیں کہ اس دعا کا ایک ایک لفظ آپ کے حق میں پورا ہوا اور آپ نے

ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دیں، آپ نے مختصر عرصے میں مدین کی اچھی خاصی تعداد تیار کر لی۔
 بحمدہ تعالیٰ آپ کے تلامذہ ملک پاک کے متعدد مدارس میں قابلِ قدر خدمات انجام دے رہے ہیں، چند تلامذہ کے نام یہ ہیں :-

- ۱۔ مولانا پیر محمد چشتی شیخ الحدیث جامعہ معینیہ پشاور۔
 - ۲۔ مولانا حاجی محمد علی ہستم دارالعلوم رسولیہ شہریازیہ لاہور۔
 - ۳۔ مولانا محمد عبدالوہاب بن منظر اسلام مولانا محمد نگر چھروی، (حال ٹھکینڈ)۔
 - ۴۔ مولانا محمد طفیل، کراچی۔
 - ۵۔ مولانا غلام نبی ناظم اعلیٰ دارالعلوم حامدیہ، کراچی۔
 - ۶۔ مولانا غلام دستگیر افغانی مدرس دارالعلوم مجیدیہ، کراچی۔
 - ۷۔ مولانا منظور الحق، کراچی۔
 - ۸۔ مولانا بشیر احمد جمیلی، پیک سواری، آزاد کشمیر۔
 - ۹۔ مولانا حافظ محمد ابراہیم ناظم اعلیٰ شمس العلوم مظفریہ رضویہ، وال بھچراں۔
 - ۱۰۔ مولانا حافظ غلام محمد صدر مدرس اشاعت العلوم، چکوال۔
 - ۱۱۔ مولانا گل رحمن مدرس ضیاء العلوم جامعہ رضویہ، اروا پینڈھی۔
 - ۱۲۔ مولانا فضل سبحان ہستم دارالعلوم قادریہ، بند اوہ مردان۔
- دیگرہ وغیرہ

۲۱ ستمبر کو ہڈا سا بخار ہوا، اگلے دن ۵ رمضان المبارک، ۲۲ ستمبر (۱۳۹۴ھ) کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا، مولانا ابوالفتح محمد بخش قدس سرہ کی سٹ دی ۱۹۶۴ء میں میانوالی کے علمی گھرانے میں ہوئی، آپ کی اولاد بیس سات اور نو سال کی دو بچیاں اور ایک صاحبزادہ عزیز القدر رضوان المصطفیٰ سلمہ اللہ تعالیٰ کے عمر چار سال یا دو گار ہیں۔

مولانا سید شریف احمد شرافت نوشاہی مدظلہ نے قطعہ تاریخ وصال کہا سے

مولوی اللہ بخش مرد کمال بود فاضل، بخاندان محبوب

کرد تبیین ملت اصناف اہل باطل از شدہ مرعوب

مستفهم خاص ہد ہد ابر علوم ہم مدرس بدس خوش اسلوب

مشتر فیض او بدو ال پھراں داخل خلد گشت آن مطلوب

سال ترحیل و سے شرافت بست

باتم گفت "تائید المرغوب" لہ

۱۳ ۹۳

سے تفصیل منہرہ راقم الحروف مولانا علامہ ابوالفتح محمد اللہ بخش رحمہ اللہ علیہ "سنا مر ترجمان اہل سنت کراچی

مئی ۱۹۷۵ء، ص ۳۳ کا ہے۔

حضرت مولانا حافظ سید الہی بخش نوشاہی قدس سرہ
مفتی بظہر حق، ساہنپال شریف (گجرات)

حضرت مولانا حافظ سید الہی بخش مولانا حافظ سید نور اللہ شاہ مفتی رسول گنگوہی (م ۱۲۲۹ھ)

ابن حافظ سید محمد حیات ربانی (م ۱۱۴۳ھ)، ۱۱۸۲ھ/۶۸۷۸ء میں ساہنپال شریف (گجرات)

میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت والد ماجد کے علاوہ علم مکرم مولانا سید ضیاء اللہ (م ۱۲۳۳ھ)

سے پائی۔ علوم متداولہ کے ساتھ ساتھ طب، کتابت اور دعوتِ اسلام و عملیات میں بھی ممتاز

حاصل کی۔ آپ سلسلہ عالیہ نوشاہیہ قادریہ میں اپنے والد ماجد سے بیعت تھے۔ ان کے

علاوہ حضرت سید فتح الدین بن سید محمد عظیم نوشاہی (م ۱۲۲۴ھ) سے ظاہری طور پر اور

حضرت سخی شاہ سلیمان نوری قادری (م ۱۱۱۳ھ) بھلوال اور حضرت نوشہ گنج بخش قادری قدس سرہ

سے روحانی طور پر تفسیض ہوئے۔

حضرت مولانا الہی بخش نوشاہی سلسلہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ کے اور ادا و ذکر

پوری پابندی سے ادا کرتے اور آداب شریعت کا پورا پورا لحاظ کرتے۔ آپ کے زمانہ سجادگی

میں حضرت نوشہ گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کو دریا کے چناب کے سیلاب سے نقصان

پہنچنے کا خطرہ لاحق ہوا تو آپ نے ۱۸ شوال ۱۲۳۴ھ/۱۸۲۲ء کو حضرت نوشہ کا تابوت شریف

سکالا اور دریا سے دو میل کے فاصلے پر دفن کروایا۔ آپ کی تصنیف دو نیم مطبوعہ کتابیں یادگار ہیں۔

۱۔ اروضۃ الزکیۃ فی الحقائق العلمیہ (نظم و نثر سے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔)

۲۔ مفتاح العلاج (طبی مجربات)

آپ کے تین صاحبزادے تھے:

۱۔ مولانا حافظ سید قل احمد نوشاہی ثانی (م ۱۲۸۶ھ)

۲۔ سید غلام احمد المعروف - ٹٹے شاہ (م ۱۳۱۸ھ)

۳۔ سید نصیر - ٹٹے شاہ لاہوری (م ۱۳۳۳ھ)


۶ رمضان المبارک ۵۰ دسمبر (۱۲۵۳ھ/۱۹۳۷ء) کو حضرت مولانا الہی بخش قادری
 کلام پاک کہ جسے "تھے" کہ "من فتنہ تفلینہ" غلبت فتنہ کثیرہ باذن اللہ، ایک بیچ کر زبان کرگ
 گئی آپ کے فرزند کبیر مولانا حافظ ظل احمد نے تباہ کنہ وائٹ ریج الصابریں پڑھتے ہی اپکا وصال ہو گیا۔
 آپ کے فرزند کبیر حضرت مولانا حافظ سید ظل احمد نوشاہی (۱۲۱۲ھ/۸-۱۷۹۷ء) میں پیدا
 ہوئے، مادہ تاریخ ولادت "مجموعہ قدیم" ہے، ظہری تعلیم والد ماجد مولانا الہی بخش اور جہلم
 مولانا نور اللہ شاہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے حاصل کی، بعد ازاں اپنے بھوپھی راہبھائی مولانا سید غلام قادر
 سے تمام علوم کی تکمیل کی، فن کتابت اپنے نانا مولانا محمد غوث سے حاصل کیا، آپ علم و عمل میں
 اپنے آبا و اجداد کے صحیح جانشین تھے، چالیس سے زیادہ تصانیف کا ذخیرہ یادگار چھوڑا،
 آپ کے دو صاحبزادے تھے مولانا سید محمد امین نوشاہی (م ۱۳۱۰ھ) اور مولانا سید محمد شفیع
 (م ۱۳۱۱ھ)۔ ۲۳ ربیع الثانی، ۳۱ اگست (۱۲۸۶ھ/۱۸۷۰ء) کو وقت متحد آپ کا
 وصال ہوا۔

مولانا حافظ سید ظل احمد نوشاہی کے فرزند کبیر مولانا سید شاہ محمد امین نوشاہی دہراد
 عالی ۲۵ ذیقعدہ (۱۲۴۱ھ/۱۸۲۶ء) کو پیدا ہوئے، تاریخی نام "مخار" قرار پایا آپ
 نے اپنے آبا کے مسلک کو بحسن و خوبی نبھایا، آپ کے تین صاحبزادے تھے :
 ۱- مولانا حافظ سید روح اللہ (م ۱۲۹۲ھ) ۲- پیر سید قاضی شاہ (م ۱۳۳۷ھ)
 ۳- مولانا حافظ محمد شاہ (م ۱۳۳۷ھ)
 آپ کا وصال ۱۸ جہاد سے الاغرے، ۸ جنوری (۱۲۱۰ھ/۱۸۹۳ء) کو ہوا۔
 ان تمام حضرات کے مزارات قبرستان نوشاہیہ، ساہنپال شریعت، ضلع گجرات
 میں ہیں۔

ملہ تربیت و ترویج نوشاہی دہراد
 تربیت و ترویج ۲۲ نومبر ۱۹۳۷ء
 ملہ تربیت و ترویج نوشاہی دہراد

سناظر اسلام حضرت مولانا امام الدین قادری رضوی قدس سرہ کو ٹولی لوہاراں لکھیٹ

نامرکت، ہی بدعت حضرت مولانا ابو ایاس امام الدین قادری رضوی ابن حضرت مولانا
 سید الرحمن قدس سرہ کا ٹولی لوہاراں ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، بلیل القدر اساتذہ سے
 علوم و بینہ کی تحصیل کے بعد علی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ
 کے دست مبارک پر جمعیت ہوئے اور مسلک عالیہ قادریہ میں فداقت و اجازت سے مشرف
 ہوئے، لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کے دونوں بڑے بھائی مولانا علامہ سید عبدالقادر محمد شہید
 کوٹلوی و رفیقہ اعظم مولانا محمد شریف کوٹلوی قدس سرہ بھی اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ضعیف مجاز
 تھے، لہٰذا حضرت مولانا امام الدین قدس سرہ کی مہر و نعت تھی۔



آپ نے تمام مہر فرق باطلہ کے فداقت
 تفریری و تحریری طور پر جہاد کیا، آب جانی کے
 بہترین شاعر تھے علمی مسائل آیات منہ انبیہ
 عادت مبارکہ و عبادات فقہیہ بڑی عمدگی
 سے نظم کے ناسب میں ڈھال دیتے تھے، آپ نے تصانیف جلیلہ کا ذخیرہ یادگار چھوڑا
 لیکن آپ کے اعزاز و اقرار کے اس کی حفاظت و ناسعت کی طرف توجہ نہیں دی۔
 چند تصانیف کے نام یہ ہیں :-

- ۱- فصرۃ الحق المعروف بتبیغ نعمانہ برگردن و باجیرا و دو باجیرا، (تقلید، علم غیب، حیلہ، اسقاط،
 کفنی، کھنا اور احتیاط النظر وغیرہ مسائل پر سیر حاصل بحث، پنجابی اشعار میں صفحات ۸۲،
 مطبوعہ مفید عام پریس سیالکوٹ، سن تالیف ۱۳۲۸ھ)
- ۲- احتیاط النظر (اس میں یہ ثابت کیا کہ نصاریٰ کی حکومت میں احتیاط النظر رضوی چاہئے،

مخالفین کے اعتراضات کے مسکت جوابات ۴، مطبوعہ سیم پریس برنسٹر، اس کے
مخبر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ کی سند خلافت و اہانت بھی رحمت
۲۰ ہدایتا شہید (دار دو، دو حصے)

۴۰ انڈیا کالج لونی بیان المولد مسعود (مطبوعہ، کل صفحات ۴۸، نظم خیالی)

نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ ہوں

سب تفسیر نبی محمدوں رب دما شان پیرا	علم غیب کھلا باسنوں و کر کیا سب نھرا
رب پیسے ناں سے نال دکھایا	نزد اللہ سے سقیم و دھکے تو یسہ نہ آیا
سناں جون سال غیب ستائیں	دیکھا اللہ سے دیکھ کر کیا ہے رب سائیں
اسی خاص تیر خطا ہر علقاں و لے جان	غیبی علم ہی لوں مسمی ہر دم شکر کماون نہ

۵ ربیع الثانی ۲۰ اگست ۱۳۸۱ھ / ۱۹۶۱ء کو حضرت مولانا ابوالباس امام الدین قدس
سرہ العزیز کا وصال ہوا۔

آپ کے پوتے جناب رضا مصطفیٰ پیشی معروف صاحب قلم میں لیکن انہوں نے کہ کوشش
بسیار کے باوجود رقم الحروف ان سے حضرت کے تفصیلی حالات حاصل نہ کر سکا لہذا انہی
معلومات کو پیش کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ آخر میں وہ سنا اجازت پیش کی جارہی ہے
جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے مولانا امام الدین کو عطا فرمائی تھی، یہ سند
رسالہ احتیاط النظر میں چھپ چکی ہے۔ اسی مطبوعہ سند کا عکس ہدیہ قاری میں ہے۔

۱۰۰۰ مولانا ابوالباس امام الدین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام علی رسولہ محمد و
آلہ صحبہ اجمعین **امابعد** پس عرض کرتا ہے سیکین امام الدین متوطن کوئی دوا
مغزبن ضعیف سیالکوٹ کہ جو مجھے سند قرآن و حدیث اور اجازت سلسلہ قادریہ اعلیٰ حضرت عالم
سنت ناظم ملت مفتی شریعت حامی طریقت صاحب حجت قاہرہ مؤید سنت زاہرہ مجدد
وہ صخرہ مولانا مولوی احمد رضا خان صاحب حنفی قادری برکاتی بڑی
دام ظلہ و عترتہ فضلہ سے حاصل ہے دو بیسہ یہاں درج کیجاتی ہے ہر خاص و عام سے بڑھ کر
اطمینان حاصل کریں سند یہ ہے۔



الحمد لله حد من لا احد له * وسند من لا سند له * وافضل الصلوة
واكمل السلام علی سید الکرام وسند الانام منہ سلسل الانبیاء
العظام وعلی اللہ وصحیرہ رعاة علمہ ووعاة ادبہ وبعد فقد سألنی مجمع الفضائل منبع
الافاضل حامی السننہ والدین وماحی البدعة والفسدین المولوی محمد امام الدین جلد
اللہ کاسمہ امام الدین اجازة ما ارویہ عن مشائخ الکرام سیدنا ومرشدنا مولانا
سندی کنزی و ذخری بیومی وغدی سیدنا الشاہ ان الوسولی الاحمدی رضی اللہ عنہ
بالرضی السہمدی سیدک ووالدک خاتم المحققین وامام المدققین حضرت امیر المولوی محمد
مفتی علیخان نقاند البریلوی قدس سرہ التقوی عن ابیہ انکریم العارف باللہ سیدنا
المولوی رضا علیخان قدس سرہ وشیخ العلماء بالبلد الامین الامام المحدث الفقیہ
الامین سیدنا المولوی سید احمد بن زین دحلان المکی قدس سرہ المکی عن الشیخ عثمان
ابو میاطی ومولانا الامام المصمم سراج البلد الحکرام عبدالرحمن ابن المولوی عبداللہ السہمدی
مفتی الحنفیہ بحمدہ اللہ تعالیٰ عن المولوی جمال بن عبداللہ بن عمر مفتی الا

حناف و مولانا السید الصالح حسین صالح جمل الذیل شیخ الخطباء و امام الشافعیہ بالبند
 الحرمیة رحمہ اللہ تعالیٰ عن المولیٰ عابد السندي و مولانا حفید مرشدی و صاحب سجادة
 الکریمیة سیدنا الشاه ابی الحسنین احمد انوری قدس سرہ المعوی و لصوری عن الشاه عنی حسین
 المراد آبادی فاجزته بكل ما تمحلی روایتہ عن المشایخ المحدثین من نقرات العظیم و احادیث البنی
 الکریم علیہ و عنی اللہ افضل الصلوٰة و التسلیم من صحیح و سنن و مسنید و جوامع و معلجیم و کذا
 اجزته بالسلسلۃ العلییۃ الفارسیۃ البرکاتیز بشرطها المعلوم عند ذوی هذه العلوم و اوصیہ
 ان یحییٰ بتواجدہ علی مذهب اهل السننہ و الجماعۃ و یتجنب جمیع اهل البدع و الشذاعة مثل
 کما فی الغیریۃ و الروافض و الوهابیۃ الکنگوییۃ الدیوبندیۃ و الشیطانیۃ و الکنز ابینہ و الفارسیۃ
 و الباہیۃ و المتصوفۃ المبطلۃ الا بخاریۃ الحولیۃ و معتدی المفضلۃ و المفسفۃ و اعداء
 التقليد و سائر الوهابیۃ الاسمعیلیۃ و الامحاقیۃ و غیرہم من الضالین المضللین اعاذنا
 اللہ و ایاہ و المسلمین عن شرہم الاعمین و لیتوجہ ما استطاع الی رد مکاتہم و سد
 مفاسدہم فان هذا اجل مناصب العلماء و افضل ما ورتوا من الانبیاء علیہم الصلوٰة
 و السلام و انشاء وان یجیلی ظاہرہ و باطنہ بحلی اتباع السننۃ السننیۃ و یجیدہا عن نفس
 الفسوق و الرذائل الدنیۃ و ان لا ینسانی من دعائہ الصالح فی الملون بالعضو و العافیۃ
 فی الدین و الدنیا و الاخرۃ و تمام العافیۃ و دوام العافیۃ و الشکر علی نعافیۃ و ان تکون
 رحمة لنا کافیۃ و لاستقامنا الظاہرۃ و الباطنۃ شافیۃ و لا عدائنا دافعۃ نافیۃ و ان یقینی
 ربی و ایاہ و المسلمین من درک الشقاء و محمد النبلا و شماتۃ الاعلاء و سوء القضاء و ان
 یجعلنی و ایاہ من العالمین العلماء و محافظین حوزۃ الملة البیضاء و السننۃ الغراء و ان
 ینتقم لنا جمیعاً بالحسفی و یقضی لنا بقضاء احسن المعنی و ان ذاع لہ ہذا الذک و الحمد لہ
 خیر ہلالہ و افضل الصلوٰة و اکمل السلام علی سیدنا الامام محمد و آلہ و صحبہ الکرام
 الی یوم القیام۔ امین۔ کتبہ عبدالمنذوب احمد رضا البریلوی عن عبد بھمن المصطفیٰ البنی الامی صلی اللہ علیہ
 علیہ وسلم۔ فی ۲۰ شوال الکریم سنۃ ۱۲۸۸ ھ۔ یوم الاربعاء۔



کتابت محمد الدین ساکن قریہ البرکات و ضلع سیالکوٹ

حضرت مولانا امام الدین نقشبندی رائے پوری قدس سرہ

پہر مرتبت حضرت مولانا امام الدین ابن مولانا کریم النبی (قدس سرہ) صاحب غائبنا ۴ ۱۲۸۳ھ
 ۱۸۶۷ء میں ایک عادل ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد صاحب سے حاصل
 کی پھر مختلف فاضل سے استفادہ کرتے ہوئے فقیہ اعظم مولانا محمد شریعت خلیفہ اعلیٰ حضرت
 امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی خدمت میں کوٹلی لوہاراں حاضر ہو کر مجلہ علوم و فنون کی تعلیم
 حاصل کی۔ تکمیل علوم کے بعد رائے پور اخوانان ضلع سیالکوٹ کو مرکز بنا کر تبلیغ دین
 کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سلسلہ نقشبندیہ میں امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ
 محدث علی پوری قدس سرہ سے بیعت ہوئے اور پھر کچھ عرصہ کے بعد اہانت و مخالفت
 سے نوازے گئے۔

حضرت امیر ملت قدس سرہ کے ارشاد کے مطابق آپ نے سلسلہ تبلیغ کو تیز کر دیا اور
 قریہ قریہ پہنچ کر عوام کو دین مبین سے روشناس کرائے۔ اس سلسلے میں متحدہ
 پنجاب کے علاوہ بنگلور، میسور، ممبئی، احمد آباد اور مدراکس تک دور سے فرماتے رہے
 پھر مرشد کامل حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر آپ نے ہاتھ
 انوار الصوفیہ (سیالکوٹ) کی ادارت اور جامع مسجد متصل گھنڈہ گھر سیالکوٹ چھاپائی
 کی خطابت کے فرائض سنبھال لئے جنہیں تمام علم بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔

آپ ہمیشہ نماز باجماعت ادا کرتے، آنے والے مہمانوں اور طلبہ پر عدد درجہ
 شفقت فرماتے، علماء و صوفیاء اور سادات کرام کی دل و جان سے تعظیم و توقیر کیا کرنے
 بندگان دین کے مزارات پر حاضر می اور اس میں شمولیت کو ترقی و درجات کا ذریعہ سمجھتے
 بد مذہبوں سے سخت نفرت رکھتے تھے، تین دفعہ حج و زیارت کی سعادت سے مشرف
 ہوئے بہرہ و مرث حضرت امیر ملت قدس سرہ کی بیروی میں ضلع سیالکوٹ کے چنے چنے

کا دورہ کر کے قیام پاکستان کے نئے راہ ہمواری اور عوام و خواص کو مسلم لیگ کی تائید و حمایت پر آمادہ کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مساجدین کی آباد کاری کے نئے شب و روز کام کرتے رہے۔

نصف صدی سے زیادہ عرصہ رشاد و ہدایت میں گزار کر حضرت مولانا امام الدین رائے پوری قدس سرہ ۸ شعبان ۱۲۰ اپریل (۱۹۵۲/۱۳۷۳) کو عازمِ خلدیہ ہوئے۔ نماز جنازہ حضرت سید حافظ محمد حسین شاہ سجادہ نشین علی پور شریف نے پڑھائی۔ آپ کا مزار رائے پور اسی ماں کی مسجد کے صحن میں ہے۔

سید محمد رفیع مصطفیٰ جتوئی ، روزنامہ مساوات، لاہور ، ۱۴ اگست ۱۹۷۵ء۔

فاضلِ جلیل مولانا شیخ محمد امان اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ

مولانا شیخ محمد امان اللہ بن مولانا ناصر الدین رحمہما اللہ تعالیٰ چک عمر ضلع گجرات میں پیدا ہوئے، زیادہ تعلیم والد ماجد اور علم محکم مولانا مخدوم عام سے پائی، مزید تعلیم کے لئے کچھ عرصہ کورسال ضلع جہلم میں رہے، اس عرصہ میں آپ کے بڑے بھائی مولانا شیخ عبداللہ (پکٹھن) آپ کی جدائی سے متاثر ہو کر فراقیہ اشعار کہتے رہے جو ایک کتاب میں جمع کئے جاسکتے ہیں۔

مولانا شیخ محمد امان اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دور کے منجھ عالم اور عربی و فارسی کے اچھے شاعر تھے، آپ نے جواہر جہلم کے بارے میں ایک عربی رسالہ لکھا تھا جسے علمائے نگاہِ تحسین سے دیکھا، یہ رسالہ پروفیسر قریشی احمد حسین، پروفیسر زین العابدین کا لچ گجرات کے کتابخانہ میں محفوظ ہے۔ مولانا شیخ محمد امان اللہ کو خاندانی تنازعات اور مقدمات کی وجہ سے علم و ادب کی خدمت کا موقع نہ مل سکا، وہ نہ معلوم کیسے کیسے جواہر بارے سے یادگار چھوڑتے۔ ۲۹ صفر، ۱۳۱۰ اگست (۱۹۹۳/۱۳۱۲) بروز جمعہ صبح کے وقت مولانا شیخ محمد امان اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہوا اور چک عمر ضلع گجرات میں مدفون ہوئے۔ آپ کے فرزند ارجمند مولانا سلام اللہ شائق نامور عالم دین ہوتے ہیں۔



سید قریشی احمد حسین، پروفیسر، گجرات کی تمدنی تاریخ (قلمی)

واقف امر جمع حضرت مولانا الحاج ابوالفتحان پیر سید امانت علی شاہ نظامی قدس سرہ

پیر طریقت حضرت مولانا ابوالفتحان پیر سید امانت علی شاہ نظامی ابن حضرت پیر سید برکت علی شاہ چشتی صابری قدس سرہ ماہ ۲۰ صفر المظفر یکم اپریل (۱۳۲۲ھ/۱۹۰۱ء) بروز پیر موضع گلوئی سیدان ڈاک خانہ کوٹ سیٹی خاں تحصیل ڈیرہ ضلع فیروز پور (انڈیا) میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب ۳۵ واسطوں سے حضرت امام موسیٰ کاظم قدس سرہ سے جا ملتا ہے۔

چھ سال کی عمر میں والد ماجد کے ہمراہ کپور تھلہ چلے گئے اور پندرہ برس کی عمر میں اپنے تایا زاد بھائی حضرت پیر سید امانت علی شاہ (خلیفہ ہماز حضرت خواجہ معظ دین مراد لوی خلیفہ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی قدس سرہ) کے دست مبارک پر سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں بیعت ہوئے۔ بیعت کے بعد ظاہری اور باطنی علوم حاصل کئے اور درجہ کمال کو پہنچے۔ ایک دفعہ عرس کے موقع پر مقررین پر وقت نہ پہنچ سکے تو آپ کے مرشد حضرت پیر سید امانت علی شاہ قدس سرہ نے فرمایا "امانت علی! آج آپ ہی وعظ کیجئے" آپ نے معذرت کی کہ میں نے کبھی تقریر نہیں کی، لیکن مرشد کے اصرار پر اٹھ کھڑے ہوئے، تائید غیبی شامل ہوئی اور وعظ کا رنگ ایسا جما کہ سامعین مجروحیت رہ گئے، پھر کیا تھا، آپ نے باقاعدہ وعظ و تقریر کا سلسلہ شروع کر دیا اور آپ کے مواعظ کا شہرہ دور دور تک پہنچی۔ مرشد کمال نے آپ کو خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا۔

پیر صاحب کو وعظ و ارشاد میں بیحد طویل حاصل تھا۔ اکابر بزرگان دین کی طرح آپ بھی وحدۃ الوجود کے قائل تھے، نہ صرف قائل بلکہ بہت بڑے مبلغ بھی تھے۔ آپ اپنے اکثر و بیشتر خطبات میں اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے بیان فرماتے، پیرایہ بیان استقدر دلنشین ہوتا کہ ایک عام آدمی بھی اس دقیق مسئلے کو سمجھ لیتا، شہنوی شریف پر ناقابل یقین حد تک عبور تھا، جب آپ شہنوی شریف کے اشعار اپنے مخصوص انداز میں پڑھتے تو سامعین کیفیت مستی سے سرشار ہو جاتے۔ آپ کی تقریر امر و تصوف کی آمیزندہ ہوتی تھی۔

پیر سید امانت علی شاہ عابد شب زندہ دار بزرگ تھے، نماز تہجد باقاعدگی سے ادا کرتے اور شریعت مطہرہ کی پیروی کو ہر وقت پیش نظر رکھتے، سخت سے سخت تکلیف کی حالت میں کبھی نماز قضا نہ ہونے دیتے، ہر جمعرات حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور ایک عرصہ تک ہر روز چندی جمعرات کو حضرت ذوالقرنین گنیشکو قدس سرہ کے آستانہ عالیہ پر حاضری دیتے رہے۔ بزرگان سلسلہ اور مشائخ کے عرس بڑے اہتمام سے مناتے۔

۱۹۰۳ء میں جامع مسجد عبدگاہ (جامعہ نعیمیہ) گڑھی شاہو، لاہور کی انجمن کی استدعا پر آپ نے ہونے تشریف لائے۔ ۱۹۰۳ء میں گنیش مغلوں نے لاہور کے چند اصحاب کے سپہم اصرار پر جامع مسجد شاہ کمال کی خطابت قبول فرمائی اور مسجد کے قریب آستانہ بیت اللہان میں قیام پذیر ہوئے، یہ مسجد سے مختصر تھی، آپ کے تشریف لانے کے بعد خاصی وسیع و عریض اور خوبصورت بن گئی۔ آپ تادم و اسپس اسی مسجد میں اپنے ارشادات و مواعظ سے دلوں کی دنیا کو منور کرتے رہے۔ حضرت پیر صاحب شعر و سخن کا عمدہ ذوق رکھتے تھے اور نظامی مخلص کرتے تھے۔

۱۹۵۰ء میں اہل و عیال سمیت حج و زیارت کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ آپ نے بار بار راستہ میں منظم جہیز عقیدت پیش کیا جس کے چند اشعار درج ذیل ہیں :-

السلام سے مستاد و منتقی	السلام سے مقتدا و پیشوا
السلام سے واقف علم لادن	السلام سے راز دار امر کن
السلام سے مظہر نور و وجود	السلام سے مظہر علم و شہود
السلام سے ناظر قلب حقیر	این نظامی گندگار و فقیر

۱۹۵۸ء میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا، چند اشعار ملاحظہ ہوں :-

السلام سے مطلع انوار چشت	السلام سے رہبر اہل بہشت
السلام سے ساتی جاہم کست	السلام سے از جمال یار مست
السلام سے پیکر حسن و جمال	السلام سے ماحی کفر و ضلال
ہو قبول اب تو نظامی کا سلام	آپ کا ہے یہ غلامان غلام

اردو میں بھی آپ نے طبع آزمائی کی ہے لیکن آپ کو کسی دنیا دار کی مدح و ثنا سے فوٹ نہیں ہونے دیا، امرت بزرگان دین سے اظہار عقیدت کے لئے اشعار کو وسیلہ

بنایا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس مرہ کی منقبت میں فرماتے ہیں کہ
 رہا عمر بھر ہی مجھ کو تیرے نام کا سہارا
 اسی طرح رات گزری اسی طرح دن گزارا
 سخی اور بھی میں بیشک یہ جہاں چچان مارا
 ہوا سنگتوں کا آخر تیرے در پہ ہی گزارا
 کھر اور برسے ہوں در پر مجھ بھی بیک خداوارا
 یہ بے لاج بھی تمہاری ہے فقیر بھی تمہارا
 تیرے در پہ سے ہیں گئی شاہ اور گدا بھی
 چہ شود اگر نوازی ز رنگاہ ایں گدا را
 ذرا دیکھ اے نظامی کہاں خاک بوس تو ہے

ترہی ہے بلند قسمت! جسے عروج پر ستارا

حضرت فرید الدین گنج شکر قدس مرہ کی شان میں فرماتے ہیں کہ

رہے آستان سلامت رہے و قرار شاہی
 کہ تھا کام پر ہے یہ ہماری کج کلامی
 تیرے در پر ہر گون میں شاموں کی تاج شاہی
 تیرے فقر پر تصدق ہے ہزار بادشاہی
 تیرا غرہ فریدی ہے قبول بارگاہ میں
 مرے کان میں جلتی یہ حد سے صبح کا ہی

ذرا دیکھ اے نظامی یہ ہے درگہ فریدی

کہیں بڑ رہی ہے جنت کہیں بڑ رہی ہے شاہی

آپ کے مرید اور خلیفہ جناب سید محمد اشرف بخاری آپ کے مواعظ و خطبات کو قلباً
 کر لیا کرتے تھے، یہ خطبات مختلف عنوانات کے تحت چھپ چکے ہیں مثلاً تیس خطبات پر مشتمل
 ذکر و فکر، کلمہ طیبہ، آئینہ معرفت، تصویر شیخ، حقیقت جامع، دعوت حق، شب قدر، شب
 معراج، رویت بلال، سائنس اور مذہب اور مقام ولایت وغیرہ وغیرہ۔
 حضرت پر صاحب کے مریدین اور معتقدین کا صدقہ فضا وسیع ہے آپ کے چند
 خلفاء کے نام یہ ہیں -

- ۱۔ صوفی عبدالرحیم دیوانہ، مولف حق کی پیمان، بھوگوال، ہانپا پورہ لاہور۔
- ۲۔ حاجی صوفی محمد عالم، شہداد پور ضلع ساکھڑ، سندھ۔

۳۔ میاں وارث علی

۴۔ میاں سخاوت علی، موضع پھیرون، تحصیل وضع لاہور

۵۔ سید محمد اشرف بخاری، محلہ حسین پورہ، آبادی کہار پورہ لاہور

۶۔ محرم الحرام ۷۰، مارچ (۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱ء)، بروز جمعہ انجمن صبح پر سید امانت علی شاہ
 رحمہ اللہ تقاضے اپنے محبوب حقیقی سے جاملے نماز جنازہ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت پر سید
 کرامت علی شاہ چشتی نظامی مدظلہ نے پڑھائی، مزار آستانہ بیت الامان گنج مغلیہ پورہ، لاہور
 میں ہے، مزار شریف پر خوبصورت گنبد تعمیر ہو چکا ہے۔

حضرت مولانا سید شریف احمد شرافت نوشاہی مدظلہ العالی نے قطعہ تار تاج

وصال کہا ہے کہ

جناب پیر امانت علی وحید زماں
 رفیق مجلس آل فخر انبیا آمد
 چو سال طلت شیخ زماں ترف جنت
 شہید عشق امانت علی ندا آمد لہ

لے بر تو رعایت جناب سید محمد اشرف بخاری زید محمد کی علمی وادداشت سے لئے گئے ہیں۔

مجاہد اسلام مولانا پیر سید امین الحسنات قدس سرہ (ماہی شریف)

نامت و مجاہد اسلام حضرت مولانا پیر سید امین الحسنات قدس سرہ ابن حضرت پیر عبدالرؤف قدس سرہ ۱۳۴۱ھ/۱۹۲۳ء میں مانجی شریف تحصیل نوشہرہ ضلع پشاور میں پیدا ہوئے۔ گیارہ سال کی عمر میں والد گرامی کے وصال کے بعد سجادہ نشین قرار پائے۔ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں معلومات حاصل نہ ہو سکیں، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے بیباک، نڈر اور روشن دماغ رہنا تھے۔ دین و ملت کی محبت نے انہیں پیکر سیما بنا دیا تھا۔ ان کی انتہائی آرزو تھی کہ اسلامی حکومت ہو، اسلامی آئین نافذ ہو اور مسلمان نبی و اسلامی قدر کو اپنا کر ترقی و کامرانی کے راستے پر جاوے۔ یہاں نظر آئیں، انہی جذبات کے تحت ۱۹۴۵ء میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور پھر ایک پاکستان میں کاربائے نمایاں انجام دئے۔ خان عبدالغفار خان، ڈاکٹر غلام پور کاٹنگر سی لیڈروں کا پوری ہمت سے مقابلہ کیا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ صوبہ سرحد (جسے کانگرس کا ناقابل شکست گروہ سمجھا جاتا تھا) میں مسلم لیگ اور قیام پاکستان کے مطالبہ کو مقبول عام بنانے میں آپ کا بڑا دخل تھا۔ مانجی شریف نہایت بااثر گدی تھی اور صوبہ سرحد قبائلی علاقوں اور سرحدی ریاستوں کے ہزاروں افراد آپ کے مرید تھے، آپ نے سرحد کے غیور مجاہدوں کو پوری کوشش سے نظریہ پاکستان کی تائید و حمایت کے لئے تیار کیا۔

مفتی محمد شفیع دیوبندی (کراچی) نے ایک انٹرویو میں آپ کی خدمات کو ان الفاظ میں مزاج عقیدت پیش کیا ہے۔

”علماء کے ساتھ سابق پیر مانجی شریف اور پیر زکریا شریف نے بڑی تندی سے کام کیا اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی تائید و حمایت سے صوبہ سرحد کی سیاسی فضا میں بے نظیر و نما ہوا جو بنظر ناممکن نظر آتا تھا۔“

حضرت پیر صاحب قدس سرہ کی دعوت ہی پر قائد اعظم نے پہلے پہل سرحد کا دورہ کیا اور دورہ سرحد کے دوران کئی روز تک آپ کے ہاں قیام کیا، اسی طرح آپ ہی کے ایثار پر قائد اعظم نے مجاہد آزادی مولانا عبدالحماد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو صوبہ سرحد میں بھیجا جنہوں نے طوفانی دورے کر کے نظریہ پاکستان کو اجاگر کیا، ۱۹۴۵ء میں آپ نے علماء کا ایک وفد مولانا محمد گل کی قیادت میں جمہوریت اسلامی آل انڈیا سٹی کا نفرنس کے ناظم اعلیٰ حضرت صدرالفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ کی خدمت میں بھیجا جس نے حضرت صدرالفاضل سے نظریہ پاکستان پر تفصیلی گفتگو کی، ۱۱ اپریل ۱۹۴۶ء میں آپ نے آل انڈیا سٹی کانفرنس بنارس میں شرکت کی اور اس جوش ایمانی سے اڑھائی گھنٹے تقریر فرمائی کہ عوام و خواص عیش عیش کراٹھے اپنے دوران تقریر فرمایا۔

”میں نے قائد اعظم سے وعدہ لیا ہے کہ اگر انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، یا اسلام کے خلاف کوئی نظام جاری کرنے کی کوشش کی تو آج جس طرح ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور آپ کی قیادت کو مان رہے ہیں، کل اسی طرح اس کے برعکس ہو گا۔“

رئیس لشکرین مولانا سید محمد محدث کچھو چھوی نے ۱۳۶۵ھ/۱۹۴۶ء میں اجیر شریف میں آل انڈیا سٹی کانفرنس کے اجلاس میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔

”پاکستان کے معنی اسلامی، قرآنی آزاد حکومت ہے، مسلم لیگ سے ہمارے سنی کانفرنس کی مجلس عاملہ کے رکن حضرت سید شاہ امین الحسنات صاحب سجادہ نشین مانجی شریف (سرحد) نے لکھا لیا ہے۔“

آل انڈیا سٹی کانفرنس کے علماء و مشائخ کے خصوصی اجلاس میں نظریہ پاکستان کی توثیق و تائید میں نہایت سرگرمی سے قرارداد پاس کرائی۔

۱۳۶۴ھ / ۱۹۴۸ء میں جب صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ نے پاکستان کا دورہ فرمایا تو حضرت پیر صاحب ماسکی شریف ملاقات کے لئے لاہور تشریف لائے، حزب الاضافت، لاہور کے دفتر میں چار گھنٹے تک بند کر کے میں گفتگو ہوتی رہی، اس گفتگو میں حضرت صدر الافاضل پیر صاحب ماسکی شریف، حضرت سید محمد محدث کچھوچھوی، تاج العلماء مولانا مفتی محمد نعیمی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا سید ابوالبرکات اور مولانا مفتی قادمین الدین نعیمی (مدیر سواد اعظم، لاہور) شریک ہوئے، اس موقع پر حضرت پیر صاحب نے حضرت صدر الافاضل پر زور دیا کہ آپ دستور اسلامی کا ایک خاکہ مرتب کر دیں پھر ہم قائد اعظم سے منوا کر رہیں گے لیکن افسوس کہ اس کے تین ماہ بعد حضرت صدر الافاضل کا وصال ہو گیا، ادھر قائد اعظم کی بھی رحلت ہو گئی اور آئین اسلامی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔

۱۹۵۲ء میں چین میں امن کانفرنس منعقد ہوئی جس میں پیر صاحب ماسکی شریف کو بھی مدعو کیا گیا تھا پیر صاحب اشتراکی نظام کو دیکھ کر اس کی خوبیوں اور خامیوں کو جاننا چاہتے تھے، اس لئے پاکستانی وفد میں چین تشریف لے گئے۔ ۹ اکتوبر ۱۹۵۲ء کے اجلاس میں لاؤس، روس، چلی، پانامہ، میکسیکو، انڈونیشیا، ویت نام اور ہندوستان کے مندوبین نے تقریریں کیں، ہندوستانی اور پاکستانی وفدوں نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں ایک مشترکہ فارمولا پیش کیا جسے بالائتفاق منظور کر لیا گیا، پاکستان کی طرف سے پیر صاحب ماسکی شریف، سردار شوکت حیات، اعظما، الرحمن اور میر عبد القیوم نے دستخط کئے، فارمولا میں کہا گیا تھا کہ:-

" ہندوستان اور پاکستان کے مابین جو بھی تنازعات ہیں ان کا فیصلہ امن اور دوستی سے ہونا چاہئے اور یہ حق باشندگان جموں و کشمیر ہی کو حاصل ہے کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ آپ کریں۔" ملے

ملے (ملتان) شیدا، نیامین (مغربی) مطبوعہ ہونیورسٹی پبلسٹی، لاہور، ۱۹۵۵ء، ص ۱۱۲۔

۱۹۴۷ء میں لیگ وزارت سازی کے سلسلے میں انتشار کا شکار ہو گئی تو پیر صاحب نے تمام جموں کو اپنی رہائش گاہ پر بلا کر اختلاف ختم کر دیا اور متفقہ طور پر اس دقت کے پیرسٹر (موجودہ وزیر داخلہ) خان عبدالغفور خاں کی حمایت کا اعلان کر دیا (اس قلمی فیصلے اور اعلان کا کھس آئندہ صفحات میں پیش کیا جا رہا ہے) نتیجہ یہ ہوا کہ لیگ کا نمائندہ کامیاب ہو گیا، خان عبدالغفور خاں کی کامیابی میں پیر صاحب کا زبردست ہاتھ تھا۔

حضرت پیر امین الحسنات رحمہ اللہ تعلقے کے بے پناہ سیاسی اثر و رسوخ سے مرعوب ہو کر مخالفین نے یہ افواہ اڑادی کہ پیر صاحب وزارت کے خواہش مند ہیں، یہ بات آپ نے نوابزادہ لیاقت علی خاں کو لکھ بھیجی، اس کے جواب میں ۹ فروری ۱۹۴۸ء کو خان لیاقت علی خاں نے لکھا:-

"آپ کا عنایت نامہ موصول ہوا، اس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ فریئر کے صوبہ میں اس چیز کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ میرے فریئر کے قیام کے دوران میں آپ نے وزیر بننے کی خواہش ظاہر کی، یہ پروپیگنڈا بالکل بے بنیاد ہے اور ان لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے دوست نہیں سمجھے جاسکتے۔

آپ کو معلوم ہے کہ جب وزارت بنائی جا رہی تھی تو آپ سے درخواست کی گئی تھی کہ آپ اس میں شریک ہوں اور وزارت کے عہدے کو قبول کریں، آپ نے اس وقت اپنی معذوری کا اظہار کیا تھا، اس مرتبہ جب میں آپ سے فریئر میں ملا تو میں نے پھر اسی امر کا آپ سے ذکر کیا تھا مگر آپ نے حسب سابق اپنی معذوری کا اظہار کیا، ان حالات میں کسی شخص کا اس قسم کا غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈا کرنا سخت قابل افسوس ہے، آپ کو اس کا خیال نہیں کرنا چاہئے۔

آپ قوم کی اور اسلام کی خدمت بغیر کسی لاپرواہی کے کر رہے ہیں اور ہر شخص آپ کی دیانت داری اور حقیقی خدمت سے واقف ہے، آپ مجھے

مخلص کام کرنے والے قوم کے لئے باعثِ فخر ہیں۔

آئندہ صفحات میں نواب زادہ لیاقت علی خاں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اس خط کا عکس شامل کیا جا رہا ہے، یہ خط نہ صرف نواب زادہ صاحب کی قلمی تحریر ہونے کی بنا پر غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے بلکہ پیر صاحب مانگی شریف کی ملکی و قومی خدمات کو پاکستان کے پہلے وزیرِ اعظم کے ذریعہ دستِ خراجِ تحسین کی تاجی دستاویز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس دستاویز کو بہتر طور پر محفوظ کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہوا ہے۔ ہمیں یہ یکتا و نایاب قلمی اور اخباری بیان (قلمی) جناب قاری عبدالرشید (لاہور) سے توسط محرمی محمد موسیٰ امرتسری مدظلہ العالی کے لئے راقم ذمہ نون کا شکر گزار ہے۔

۱۹۵۵ء میں حضرت پیر صاحب مانگی شریف ارباب سیاست کی زیرِ قلمی بخش ووش کی بنا پر سیاست الگ ہو گئے اور وقتِ اسلامی کی روحانی پیشوائی فرماتے رہے، اس وقت آپ ہمیں نہیں نہیں آج قوم کو پھر کسی امین انسان کی ضرورت ہے جو قوم کی صحیح رہنمائی کرے اور قوم کی کشمکش کو گردابِ بلا سے باہر نکلے۔
۵ جنوری ۱۹۶۰ء کو مانگی شریف سے کیمپ پر جاتے ہوئے فتح جنگ کے قریب آپ کی کار حادثہ کا شکار ہو گئی ڈرائیو موقع ہی پر جاں بحق ہو گیا، پیر صاحب کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، مشرقی ہسپتال راولپنڈی میں علاج ہوتا رہا لیکن کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، ۲۹ جنوری ۱۹۶۰ء کو مجاہد اسلام پیر صاحب مانگی شریف کا وصال ہو گیا، دوسرے روز لاکھوں عقیدتمندوں نے نمازِ جنازہ ادا کی اور آپ کو مانگی شریف میں دفن کر دیا گیا، آپ کی شہادت نے بحیثیتِ نمائندہ صدر پاکستان جنازہ میں شرکت کی اور قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی، ۲۹ جنوری کو بطور سہانہ شین آپ کے بڑے صاحبزادے جناب روح الامین کی دستار بندی کرائی گئی جس میں سوات کے پشاور اور دلی صدر و علماء اور ممتاز شہریوں نے شرکت کی، مولانا غلام معین الدین نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے (مدیر سواد اعظم لاہور) نے تازہ ترخ وصال کہی۔

”اے اہلِ اہلِ میدانِ پیر صاحب مانگی شریف“

۴۹

سلسلہ برنامہ عاتق سواد اعظم پورہ دہشتارہ ہر جنوری ۱۹۶۰ء سے لے گئے ہیں، البتہ جو معلومات دوسرے مقامات سے لائیں۔ ۱۳۱۰ء سے لے لیا ہے۔ شرفِ قادری۔

PRIME MINISTER
PAKISTAN

کراچی
۹ نومبر ۱۹۶۰ء

محذومی ریکوری پیر صاحب

السلام علیکم

آپ کا مسائلت نامہ وصول ہوا، اس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ غیر نئیر

کے صوبہ میں اس چیز کا بیورو ہیڈنگ کیا بارائے کہ میرے غیر نئیر کے قیام کے دوران میں

آپ نے وزیرِ بخنے کا فریضہ لایا کہ۔ یہ بیورو ہیڈنگ بالکل بے بنیاد ہے اور ان لوگوں کا طرف سے کیا

بارائے پاکستان کے نہت بیس بھے باکتھے۔

آپ کو سلوچ ہے کہ جب وزارت بنا جا رہی تھی تو آپ سے درخواست کی

تھی تو کہ آپ ایسی فریب جن سر وزارت کے عہدے کو قبول کریں، آپ نے اس وقت اپنی

حضور کا اظہار کیا تھا۔ اسی وجہ سے جب یہ آج سے غیر نئیر میں ملا کر میں نے پورا

رکھا آپ سے ذکر کیا تھا۔ مگر آپ نے جسے سابق اپنا سفردہ کا اظہار کیا۔ ان حالات

میں کسی شخص کا اس قسم کا اظہار بے بنیاد بیورو ہیڈنگ اگر اس وقت قابلِ افسوس ہی

آپ کا اسکا خیال یہی کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ جوتے ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے ذاتی منافع کے لئے ہر طرح کا سود پھینک کر دنیا میں کھلی گزرتے ہیں کرتے۔

آپ تو ہم کو نہ اصلاح کا مذمت بجز کسی لالچ کے کر رہے ہیں۔ اور ہر شخص آپ کا دیانت داری نہ جیتی مذمت سے ڈانت ہے۔ آپ جیسے عملوں کا حکم کرنے والے تو ہم کیسے ہاٹتے نظر ہیں۔

ایسے آپ بیز تقابلیت ہو گئے۔

مخلص
یادت ملحقہ

خدمت شریف بناب ہیر صاحب مائیک فرنیٹ
نسخ پشاور

ہم ہندوہ ذیل ممبران اسمبلی ہیکل کے دلوں سے غلط
فہمی دور کر کے لئے ہندوہ ذیل بیان خنفتہ طور پر
افساروی دنیا کو دیتے ہیں۔ سمجھ دو توں سے ہیکل
دنیوں میں یہ افواہ عام گشتت کر رہی تھی
کہ ہیکل پارٹی میں وزارتی کش مکش کے وجہ زبرد
اختلاف رونما ہو گیا ہے۔ فیالحق یہ غیر صحاب
صفت ہیر صاحب مانگی شرف کے گوش گذار ہو گیا
جسے مذہبوں آج رہی جا رہی کش مراد میں
سب جبرون کو بلایا۔ اور ایسے سائے مکمل
حقیقتات کو دیکھ کر جو کچھ کھو چکا وہ امتداد
نارہمی میں موجود تھا۔ نہایت مستعدگی کے ساتھ
اختلافات کے جبرط کو مکمل طور پر نکال دیا
یا وہی کے ہر ایک ممبر نے صحاب ہیر صاحب مانگی
شرف کے اور شادوست کو بستر کش منظر
کمرے تمام رقصند می سعادت کو سب سے نکال دیا

اور تمام کے تمام ممبران صاحبک ماضی مشور شکر
پر گئے۔ نیز بیکٹر عبد القیوم خان کی
قیادت پر مکمل اعتماد ظاہر کیا۔

علی حسن علی
PhD A.B.S
M.A. A
ایم۔ ایس۔ اے

محمد زین - ریح - ریلوے
محمد رفیع - ریح - ریلوے
Hudud Latif
کراچی

مولانا مفتی محمد امین الدین بدایونی قدس سرہ

حضرت مولانا مفتی محمد امین الدین ابن جناب سراج الدین بدایونی ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۴ء
میں موضع ندائل تحصیل سہسوان ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے۔ سکول میں پانچ جماعت تک پڑھنے
کے بعد علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ کچھ عرصہ دادوں کے ایک دینی مدرسے میں پڑھتے
رہے، پھر علامہ نعیمی مراد آباد حضرت صدرالفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام علوم و فنون کی تکمیل کے بعد حضرت صدرالفاضل سے درس
حدیث لیا، سلسلہ چشتیہ مینا پور میں حضرت پیر سید دانش علی شاہ صوفی پوری کے دستِ حق پرست
پر بیعت ہوئے۔ مفتی صاحب عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ فنِ نبوت میں بھی کمال رکھتے تھے
تحصیل علوم کے بعد کچھ عرصہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد اور دارالعلوم حنفیہ رضویہ امرتسر
میں مدرس رہے۔ امرتسر ہی میں تھے کہ ملک تقسیم ہونے سے قبل فسادات شروع ہو گئے اور
آپ رخصت لے کر وطن چلے گئے اور وہاں جڑی تندہی سے ہجرت کرنے والوں کی امداد کی اور
انہیں بسلاست پاکستان پہنچانے کے لئے تمام کوششیں کیں۔

۱۹۴۹ء کو اہل و عیال سمیت پاکستان تشریف لے آئے۔ ابتداء دارالعلوم ندوۃ العلماء
(گجرات) میں مدرس رہے، پھر جلال پور، پیر والا تحصیل شجاع آباد چلے گئے جہاں آپ نے تعمیر
مسجد کے علاوہ ایک دینی مدرسہ قائم کیا۔ اسی دوران آپ نے تحریکِ ختمِ نبوت میں بھرپور حصہ لیا۔
کچھ عرصہ بعد کامونگی کے احباب خصوصاً جناب الحاج محمد لطیف چشتی کے اصرار پر کامونگی تشریف
لے آئے مفتی صاحب کی تقریر پر مغز اور عالمانہ ہوا کرتی تھی جس سے اہل علم بھی متاثر ہوئے
بیزرہ سکتے تھے۔ مفتی صاحب کی ہنس مکھ اور نہایت پر غلوں شخصیت سے ہر شخص مسحور ہو کر رہ جاتا
تھا، حلقہ احباب کی علمی صحاب کا حلقہ تلامذہ بھی بہت وسیع ہے۔

مفتی صاحب کا ذاتی کتب خانہ بہت اعلیٰ قسم کا تھا اور آپ کتابوں کو نہایت حسن و

طوبی سے رکھتے تھے۔ کاموکی منڈی سے لاہور گھر کے لئے سودا سلف خریدنے آئے تو سیدھے مولوی شمس الدین مرحوم تاجر کتب نادرہ کی دکان پر پہنچ جاتے، یہاں نادر کتا ہیں دیکھتے ہی طبیعت میں جاتی تو کتا بوں کا بندل بندھوا کر گھر کی راہ بیٹے سہ
۷ ہر جہادی الاغری ۶۰ دسمبر (۱۳۸۱ھ/۱۹۶۱ء) کو آپ کا وصال ہوا، آپ کے وصال پر اپنے تو اپنے، بیگانے بھی سوگوار ہو گئے۔

سہ یہ تمام حالات حضرت مفتی محمد امین الدین کے ذمہ اور عبت مدرسہ نزم مولانا محمد صابر سہلے فرام کئے، مولانا محمد صابر سہلے اپنے والد ماجد کی طرح راسخ العقیدہ اور مسلک اہل سنت و عمت کی خدمت کا بے پناہ جذبہ رکھتے ہیں، مولانا کے کیم نہیں تھے متفق صاحب کا صحیح ہائشہیں ہائے، دین

حضرت مولانا اول خاں رحمہ اللہ تعالیٰ

حضرت مولانا اول خاں رحمہ اللہ تعالیٰ تقریباً ۱۲۸۷ھ/۱۸۷۰ء میں بمقام دھوبیاں (مردان) پیدا ہوئے، پچیس بی بی میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تحصیل علم کے لئے آپ نے دور دراز کا سفر کیا اور انا فضل زمانہ سے استفادہ کر کے تمام علوم خاص طور پر صرف، نحو، فقہ، منطق اور اصول میں شہرہ آفاق ہوئے، علم اصول میں کمال مہارت کی وجہ سے اصولی بابا کے لقب سے مشہور ہوئے، آپ بتیر (سوات) جانے کے ارادے سے شہباز گڑھ (مردان) ہی پہنچے تھے کہ وہاں کے علم دوست اصحاب نے وہیں قیام کرنے پر اصرار کیا چنانچہ مولانا نے شہباز گڑھ میں سکونت اختیار کر کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔

طریق تعلیم یہ تھا کہ نصف شب کے بعد چٹھانا شروع کر دیتے اور صبح کی نماز تک اسباق پڑھاتے رہتے اور دن کو کھیتی باڑی کر کے اپنی معاش کا سامان مہیا کرتے، گرمیوں کی داتوں میں اگر کچھ اسباق رہ جاتے تو وہ کھیتوں میں جا کر چٹھاتے، یہ طریقہ آپ نے تقریباً چالیس برس تک جاری رکھا، دو گورنمنٹ فیات کے باوجود شرح حامی، شرح حسامی اور نورالانوار پر حواشی لکھے جو طبع نہ ہو سکے، کابل، تندھار، دیر، بنیر اور پشاور کے بہت سے علماء نے آپ سے استفادہ کیا، ۳ ذی قعدہ/۲۵ دسمبر (۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء) پیر کی رات کو حضرت مولانا اول خاں رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا سہ

مولانا سید ایوب علی رضوی قدس سرہ

فدائے رضویت مولانا سید ایوب علی رضوی ابن سید شجاعت علی بن سید تراب علی بن سید بر علی (قدست سرار ہم) بریلی شریعت (صوبہ تریپوش بھارت) میں پیدا ہوئے۔ مڈل سکول میں مڈل کرنے کے بعد فارسی کی تعلیم حاصل کی، کچھ عرصہ اسلامیہ سکول بریلی میں پڑھاتے رہے پھر جب اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی قدس سرہ سے بیعت کا شرف حاصل ہوا تو اپنے آپ کو ہار گاہ رضویت کے لئے وقف کر دیا، لکھائی کا جو کام آپ کے سپرد کیا جانا اسے حسن اہتمام سے انجام دیتے، رمضان شریعت میں بحری اور افطاری کے نقشے مرتب فرماتے، دیگر علوم کے علاوہ حساب میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ سے خوب خوب استفادہ کیا۔

مولانا سید ایوب علی رضوی، ڈاکٹر ضیاء الدین، وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بریلی شریعت حاضر ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”کسوڑا شریعتیہ متوالیہ کی قوت کا تذکرہ آیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی وہی فرمایا کہ تیسری قوت تک ہے، اس پر حضور (اعلیٰ حضرت قدس سرہ) نے میرے (مولانا سید ایوب علی رضوی) اور قناعت علی کی طرف شاہ کر کے فرمایا کہ میرے یہ دو بچے بیٹھے ہیں انہیں جس قوت کا آپ سوال دے دیں یہ مل کر دیں گے، ڈاکٹر صاحب تغیر ہو کہ ہم دونوں کو دیکھنے لگے“

سید صاحب کے بارے میں مولانا بغداد شریعت، نجات اشرف اور بیروہ میں بزرگان دین کے مزارات پر حاضری سے مشرف ہوئے، تین دفعہ حج و زیارت کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے اسی سال تک مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے وصال کے دو

بعد بریلی شریعت میں رضوی کتب خانہ قائم کیا اور اعلیٰ حضرت کے متعدد رسائل شائع کئے، امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے وصال کے بعد ان کے سوانح حیات مرتب کرنے کی تحریک آپ ہی نے شروع کی تھی، حیات اعلیٰ حضرت مؤلفہ ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری قدس سرہ کے اکثر و بیشتر واقعات آپ ہی کی روایت پر مبنی ہیں۔ مولانا ظفر الدین بہاری لکھتے ہیں :-

”ہم رضویوں کو جناب حاجی مولوی سید ایوب علی صاحب رضوی بریلوی کا شکر گزار ہونا چاہتے کہ اس کی طرف سب سے پہلے توجہ فرمائی اور برادرانہ طریقیت کو توجہ دلائی، ان کی تحریک سے بعض احباب نے کچھ عادات ان کے پاس لکھ لیجئے اور زیادہ حصہ خود سید صاحب موصوف نے لکھا، جب ان کو میرے حیات اعلیٰ حضرت لکھنے کی خبر ہوئی تو جو کچھ مواد ان کے پاس تھا، سب مجھے عنایت فرما دیا“

مولانا سید ایوب علی رضوی، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے فیض صحبت سے مدد و جودنا شروع تھے، تقویٰ و پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے معاملات میں استقدار محتاط تھے کہ جب تک ایک ایک پیسے کا حساب نہ چکا دیتے، مطلق نہ ہوتے، ۱۹۵۰ء/۱۳۷۰ء میں پاکستان آکر لاہور میں قیام پذیر ہو گئے، یہاں بھی رضوی کتب خانہ قائم کر کے متعدد رسائل شائع کئے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا سید ابوالبرکات مظلہ العالی اور محدث اعظم پاکستان مولانا مزار احمد لاہوری قدس سرہ کے دل میں آپ کی بجز قد و منزلت تھی آخری چیز ال اپنے جامعہ رضویہ لاہور میں گزارے۔

قدرت نے آپ کو شعر و سخن کا پاکیزہ ذوق عطا کیا تھا، حمد و نعت اور منقبت ایسے محبوب موضوعات پر عام فہم اور دلنشین انداز میں اظہار خیال کیا کرتے تھے، مجموعہ کلام بارخ خود دس کے نام سے دو حصوں میں طبع ہو چکا ہے، ایک حصے کا مزید مواد تھا جو شائع نہ ہو سکا، اس کے علاوہ شفاۃ التجدی علی دیار القدریۃ العربیہ (۱۳۶۸ھ) مظلوم اور فقیہ زائرین (حجاج اور زائرین کے لئے ہدایات کا مجموعہ) وغیرہ رسائل شائع ہو چکے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ بعض کتب مفت

میں کی ہنگامہ پرور فضا سے انکار کیا اور باؤس کے قریب چوچو گرد و رام متصل ریلوے لائن امرتسر
مولانا جان محمد سرگودی کی مسجد میں چلے آئے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا، مولانا
کی کوششوں سے مسجد کی تعمیر ہوئی اور جنگل میں منگل کا سماں پیدا ہو گیا، مولانا بخیر عالم و قابل قدر
مردہ طریقت تھے، تمام عمر مجر دسپے رعبے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ غیر شرعی میٹ کے کسی شخص کو آپ
کے پاس حاضر ہونے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔

اسی دوران محکمہ ریلوے نے ایک ٹن کا نقشہ پاس کر کے مسجد کو خالی کرنے اور قبیلہ دل جگر بیٹے
کا ٹنس دیا تو مولانا نے صاف انکار کر دیا اور مسجد کو منہدم کر کے لائن بچھانے کی اجازت نہ دی۔ آخر کار
محکمہ ریلوے گھٹے ٹیکے پر مجبور ہو گیا اور انہیں یہ نقشہ تبدیل کرنا پڑا، ۲۵ شعبان المعظم، ۱۹ فروری ۱۹۳۴ء
۱۹۲۹ء بروز بدھ بوقت نماز مشائخ آپ کی وصال ہوا، اسی مسجد میں آپ کا مزار بنا جو مسجد مولانا تاج الدین
کے نام سے مشہور ہے، نماز جنازہ امام اہلسنت مولانا سید دیدار علی شاہ قدس سرہ نے پڑھائی، ہزاروں غلام
جنازہ میں شریک ہوئے، مفتی اعظم پاکستان مولانا سید ابوالبرکات سید محمد قادری، غلام العالی غازی
کشمیر مولانا ابوالحسنات سید محمد احمد قادری، پیر غلام حسنین نامی غازی علم الدین شہید کے علاوہ بیشتر
علمائے کرام اور عزیزین شہر شامل تھے، وصال سے پہلے آپ نے اپنے مدفن کی نشاندہی کر دی تھی۔
اس جگہ بام قابل ذکر ہے کہ جب غازی علم الدین شہید کو میاں لوالی جیل میں اٹھری
ومیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ میری نعش اس چار پائی پر
قبرستان لیبائی جائے جس پر مولانا تاج الدین کا جنازہ اٹھا تھا، بدنام زمانہ گستاخ رسول
راجپال کو قتل کرنے سے پہلے غازی علم الدین شہید کہا کرتے تھے۔

”زندگی ہو تو ایسی ہو اور جب ازہ ہو تو ایسا ہو!“

امیرت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری قدس سرہ

حضرت پیر سید جماعت علی شاہ ابن سید کریم شاہ علی پوری، ۱۲۵۰ھ/۱۸۳۱ء میں علی پور
سیدان ضلع سیالکوٹ (پنجاب) میں پیدا ہوئے۔ آپ نجیب الطرفین سید اور سادات شیراز کے
حضرت سید محمد یامون العروت بہ قطب شیرازی کی اولاد و امجاد سے تھے، آپ کا سلسلہ نسب
۳۸ واسطوں سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ نے
حضرت حافظ شہاب الدین کشمیری سے علی پور سیدان میں قرآن پاک حفظ کیا، ابتدائی کتب
مولانا عبدالرشید علی اور مولانا عبدالوہاب امرتسری سے پڑھیں، مولانا غلام قادر بھیروی، مولانا
فیض الحسن سہارنپوری سے کتب فیض کیا، کانپور میں مولانا محمد علی مونگیری ناظم ندوۃ العلماء
سے بھی استفادہ کیا، علامہ زماں مولانا احمد حسن کانپوری سے علمی استفادہ کیا، مولانا قاری
عبدالرحمن پانی پتی سے بھی فیضیاب ہوئے، حدیث شریف کی سند مولانا عبدالحق مہاجر مکتی
سے حاصل کی، حضرت مولانا فاضل الرحمن گنج مراد آبادی نے بھی حدیث کی سند عطا فرمائی
سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ فقیر محمد المعروف بابا جی علیہ الرحمہ (چوہہ شریف) کے
مرید ہوئے اور قلیل مدت کے بعد غلاف و اجازت سے مشرف ہوئے،

آپ نے تبلیغ اسلام کے سلسلے میں گرانقدر خدمات انجام دیں، اسلام کا پیغام متحدہ
ہندوستان (متحدہ پاک و ہند) کے کونے کونے تک پہنچایا، عیسائی مشنریوں اور آریہ سماج کی
ریشہ دوانیوں کو ناکام بنایا، ہزار ہا عیسائیوں اور ہندوؤں کو مشرف بہ اسلام کیا، شہسختی تحریک

۱۔ سید حسین شاہ، پیر سید، تذکرہ شہادت، شعبہ ۱۳۹۳ء/۱۹۷۲ء، لاہور، ص ۲۵۔

۲۔ ایضاً، ص ۳۰۔

۳۔ محمد رفیع، لاہور میں اولیائے نقشبندیہ کی مرگرمیاں، ص ۶۱۔

۴۔ سید حسین شاہ، پیر سید، تذکرہ شہادت، ص ۳۰-۳۱۔

۱۔ محمد رفیع، مورخ لاہور، ماہنامہ رضیائے حرم، لاہور (اکتوبر ۱۹۷۳ء)، ص ۷۷-۸۱۔

مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک کے خلاف بھرپور جدوجہد کی اور اگرہ میں تبلیغی مرکز قائم کر کے
 حوٹانی دور سے کئے۔ مرزا کے قادیانی کے دعویٰ باطل کی زبردست کردید کی، شاہی مسجد لاہور
 میں مرزا کی موت کی پیش گوئی کی جو حوت بخت صحیح ثابت ہوئی (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو
 اسکا ویب علی الفاویہ، حصہ دوم، مصنفہ حضرت مولانا محمد عالم آسی امرتسری)

آپ کی سیاسی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ تحریک ترک موالات اور تحریک ہجرت
 (۲۱-۱۹۲۰ء) کے نقصانات سے مسلمانوں کو پوری طرح باخبر کیا۔ ۱۹۳۵ء میں مسجد شہید گنج کی
 تحریک کے وقت شاہی مسجد لاہور میں دلوردا انگیز تقریر کی جس کی بنا پر آپ کو امریت کا خطاب
 دیا گیا آپ کے لاکھوں مریدین پاک و ہند اور دیگر ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔

آپ نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور تمام مریدین کو مسلم لیگ کی حمایت
 کرنے کی پُر زور تلقین کی۔ ۱۹۳۹ء میں جب کانگریس وزارت سے مستعفی ہوئی تو قائد اعظم نے
 جمعہ ۲۳ ستمبر (۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء) کو یومِ نجات منانے کی اپیل کی، اس موقع پر آپ نے نماز جمعہ کے
 بعد ملی پور سیدان میں دورانِ تقریر فرمایا :-

” دو جہدے ہیں ایک اسلام کا، دوسرا کفر کا، مسلمانو! تم کس جہدے
 کے نیچے کھڑے ہو گے؟ حاضرین نے باوا زبند جواب دیا کہ اسلام کے، پھر آپ
 نے دریافت فرمایا کہ جو کفر کے جہدے سے کھڑا ہو تو کیا تم اس کے جنازہ کی
 نماز پڑھو گے؟ حاضرین نے انکار کیا، پھر آپ نے استفسار فرمایا کہ کیا تم اس
 کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو گے؟ حاضرین نے ہاں اتفاق کیا نہیں
 بر گز نہیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس وقت اسلامی جہدہ مسلم لیگ
 کا ہے، ہم بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور سب مسلمانوں کو مسلم لیگ
 میں شامل ہونا چاہئے“

دینی مدارس کی امداد اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے۔ ۱۹۱۰ء میں سلطان عبدالحمید کی اپیل پر

آپ نے حجاز بیوسے فنڈ میں اپنے متوسلین کی طرف سے پچھلا کھرو پے جمع کرائے۔ ۱۹۱۱ء میں علی گڑھ
 کالج کو یونیورسٹی بنانے کی غرض سے نواب وقار الملک نے امداد کی اپیل کی اور یقین دلایا کہ انگریزی
 کے ساتھ دینیات کی تعلیم لازمی ہوگی اور یونیورسٹی کی مساجد میں پنجوقتہ نمازوں کی معافی تمام طلبہ
 پر لازمی ہوگی، آپ نے کئی لاکھ روپیہ اپنے حلقہ ارادت سے جمع کروایا لے

علما اقبال آپ کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ انجمن حمایت اسلام لاہور
 کے جلسہ کی صدارت کر رہے تھے کہ علامہ اقبال آکر آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا کہ بزرگوں
 کے قدموں میں بیٹھنا سعادت ہے، آپ نے فرمایا اقبال جس کے قدموں میں بیٹھا ہے اور
 کیا چاہئے؟ ایک موقع پر پیر صاحب نے ازراہ عنایت فرمایا، ڈاکٹر صاحب! آپ کا یہ
 شعر بھی یاد ہے :-

کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا
 نگاہ مردوموں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

اس پر علامہ اقبال نے کہا :-

” میری نجات کے لئے یہی کافی ہے کہ آپ کو میرا یہ شعر یاد ہے“

آپ کے مریدین اور خلفاء میں زیادہ تر جدید تعلیم یافتہ طبقہ شامل ہے۔ آپ نے بے شمار
 حج کئے، کم و بیش پچاس مرتبہ دربار رسالت میں حاضری دی، سینکڑوں مسجدیں تعمیر کرائیں، متعدد
 مدرسے جاری کئے۔ ۱۹۰۴ء میں انجمن خدام الصوفیہ کی بنیاد لاہور میں رکھی، اس انجمن نے
 دینی اور ملی کارہائے نمایاں انجام دئے، کئی رسائل آپ کی سرپرستی میں شائع ہوتے رہے،
 ماہنامہ انوار الصوفیہ لاہور (جو ان دنوں قصور سے شائع ہوتا ہے) اور ماہنامہ لمعات الصوفیہ
 سیالکوٹ پر آپ کی خاص نظر عنایت تھی، اس دور میں یہ رسائل بڑے وسیع مضامین پر مشتمل
 ہوتے تھے۔

۱۷۱۰ء میں سید ا موفیائے نقشبند، ص ۳۵۴

۱۷۱۰ء میں سید ا موفیائے نقشبند، ص ۳۵۴

آل انڈیا سٹی کالفرنس بنارس میں بحیثیت سرپرست شریک ہوئے، غرض آپ کے کارہائے نمایاں آپ ذر سے لکھنے کے قابل میں لیکن غنوس اس طرف خلعت خواہ توجہ نہ دی گئی لہٰذا آپ کی سخاوت اور دریا دلی کا کیتا علم میں چرچا تھا، کوئی سائل آپ کے دربار سے غالی نہ جاتا تھا، خاص طور پر عربوں کی بہت عزت و تکریم کرتے چنانچہ اہل عرب آپ کو ابو العرب کے لقب سے یاد کرتے تھے۔

حضرت پیر سید جماعت علی شاہ قدس سرہ نے پناہ دینی اور ملی مسائل کی وجہ سے تصنیف و تالیف کی طرف توجہ نہ دے سکے، تاہم چند رسائل آپ سے یادگار ہیں:-

- ۱- ضرورتِ شیخ، قرآن و حدیث اور بزرگانِ دین کے اقوال سے بیعت کی اہمیت کا بیان کیا گیا ہے۔
- ۲- یارانِ طریقت، بیعت کے روحانی فوائد۔
- ۳- اطاعتِ مرشد۔

۴- مرید صادق، مرید کی تعریف اور پیر و مرید کے تعلق کی وضاحت (یہ رسائل طبع ہو چکے ہیں) علاوہ ان تصنیفاتِ تجدد پر ایک مقالہ تحریر فرمایا جو ماہنامہ انوارِ اصفیہ فیہ کیا لکھتے ہیں شائع ہوا۔ ایک رسالہ فیضائے مدنیہ طبع پر لکھا جو ۱۹۱۰ء میں انوارِ اصفیہ لاہور کے شمارہ ۱۱ میں شائع ہوا لے یارانِ طریقت کی ابتدا میں حافظ علی بیعتی کی ایک نعت شائع ہوئی تھی، چند شعراء ملاحظہ ہوں:-

کسی کو مرض سے شفا چاہئے	ہیں تو مرض لا دوا چاہئے
مدینہ کہاں اور یہ عاجز کہاں	پہنچنے کو بخت رسا چاہئے
وہ مانیں نہ مانیں انہیں اختیار	ہمیں رات دن التجا چاہئے
محبت محبت تو کہتے ہیں سب	محبت کو سماں بڑا چاہئے
شرعیہ کے آگے جو گردن جھکی	طریقت پر دل مبتلا چاہئے

ملہ الحمد للہ! جناب پروفیسر محمد طاہر قادری (مدد شہید اردو) پبلشر، یونیورسٹی ہلے اس طرف توجہ دی اور ایک ضخیم سوانح مبارک مدن فرمائی ہے (مستور) اس کے علاوہ حضرت پیر سید حمید حسین شاہ مدظلہ نے "تذکرہ شریعت" مرتب فرمایا ہے جو مئی ۱۹۷۲ء میں شائع ہو چکا ہے۔
 گے حمید حسین شاہ، پیر سید، تذکرہ شریعت، م ۲۳-۲۴۔

جو آنکھوں میں آنسو تو لب پر ہوا آہ موافق یہ آب د ہوا چاہئے۔
 ہو منہ زرد، لب خشک آنکھیں ہوں تر دم سرد، آہ رسا چاہئے۔
 ادھر لب کس میں یا نبی! یا نبی! ادھر دل سے نام خدا چاہئے۔
 جو موت آئے تو زندگی بن کے آئے قضا کی زالی ادا چاہئے۔
 دم خاتمہ بھی ہو لب پر یہ بات مجھے خاتمہ انا نبیاء چاہئے۔

جو قسمت سے ایسی محبت ملے
 تو حافظ کو پھر اور کیا چاہئے لے

امیر ملت، ابو العرب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ قدس سرہ کا وصال ۲۶ ذیقعدہ ۲۶۱ اور ۲۷ کی (دھیانی شب) ۳۰ اگست (۱۳۷۰/۱۹۵۱ء) جمعرات اور جمعہ کی (دھیانی شب) کو ہوا۔ آپ کا مزار انور علی پور سیدیاں میں مرجعِ خلائق ہے، ہر سال نہایت شان و شوکت سے آپ کا عرس ہوتا ہے جس میں ہزاروں مریدین شرکت کرتے ہیں۔

ملہ جماعت علی شاہ، امیر ملت پیر سید، یارانِ طریقت، م ۲

امام الاصفیاء حضرت سیدہ جماعت علی شاہ لاثانی علی پوری قدس سرہ

منبع خیر و برکت، پیکر شد و ہدایت حضرت سیدہ جماعت علی شاہ لاثانی بن حضرت سیدہ علی شاہ قدس سرہ ۲۱ ماہ ساون ۱۹۱۶ء بمکرمی (۱۲۶۶ھ/۱۸۶۰ء) حجۃ المبارک کے روز بمقام علی پور سیدیاں پیدا ہوئے۔ آپ عینی سادات میں سے تھے۔ آپ کے اجداد میں ایران کے نامور بزرگ حضرت نظام الدین شاہ میرزاوی رحمہ اللہ تعالیٰ ولی کامل گزرے ہیں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاثانی قدس سرہ بچپن میں کم گو اور تنہائی پسند واقع ہوئے تھے۔ عام بچوں کی طرح کھیل کود میں بہت کم حصہ لیتے تھے۔ آٹھ نو برس کی عمر میں مولانا عبدالرشید علی پوری سے علوم کا درس لینا شروع کیا۔ کلام مجید پڑھنے کے بعد فقہ، حدیث اور تصوف کی چیدہ چیدہ کتابیں پڑھیں۔

دیے تو آپ تمام اسباق توجہ اور محنت سے پڑھتے تھے لیکن تصوف سے زیادہ شغف تھا کہ اولیاء کرام اور صوفیاء عظام کے سوانح اور حالات کا مطالعہ بہت مرنو غیاظ تھا۔ تصوف اور بزرگان دین کے اس تعلق نے آپ کے دل میں عشق الہی کی شمع فروزاں کر دی۔ اب آپ کو مرشد کامل کی جستجو ہوئی تاکہ روحانی پیاس کو معرفت کے آبِ ذلال سے تسکین دی جاسکے۔

تلاش مرشد میں آپ کئی دفعہ چورہ شریف حضرت خواجہ فقیر محمد المعروف باباجی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب دل پوری طرح مطمئن ہو گیا تو گھر سے بیعت کا ارادہ لے کر لاہور پہنچے کیونکہ آپ کو معلوم ہوا تھا کہ حضرت باباجی لاہور میں تشریف فرما ہیں۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ موضع پٹیا لہ تشریف لے گئے ہیں چنانچہ آپ لاہور سے پٹیا لہ پھر

سکھ انڈیکو پٹیا ، فرورد سنہ لاہور ، ۲ ص ۵۱۸۔

سکھ محمد سلیم نقشبندی، مولانا ، ضیائے لاثانی ، (غیب کو پو، نشاط آباد، لائل پور) ص ۱۸۔

موضع دھنوکھل (ادیر آباد) اور وہاں سے سیالکوٹ پہنچے اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے بہت جلد مدارج سلوک طے کرتے ہوئے اس مرتبہ پہنچے کہ خلافت سے نواز دئے گئے سہ آپ کے دل میں اپنے شیخ کی بے پناہ محبت تھی چورہ شریف کے علاقے کا کوئی شخص بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس کا بے حد احترام فرماتے اور شفقت سے نوازتے۔

علی پور شریف میں دو ایسے باکمال بزرگ آرام فرما ہیں جو ہنہام ہونے کے علاوہ حضرت خواجہ فقیر محمد چورہ ہی قدس سرہ کے مرید اور خلیفہ تھے اس لئے حضرت خواجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانی صاحب کا امتیازی لقب عطا فرمایا تھا، بعد ازاں آپ کی ترقی درجات کے پیش نظر لاثانی کا لقب عطا فرمایا۔ مرشد کامل نے اپنے جس مرید کو لاثانی کا لقب عطا فرمایا ہو اس کا ثانی کون ہوگا؟ سہ

حضرت لاثانی قدس سرہ اتباع شریعت، اخلاق عالیہ، مریدین کی اصلاح و تربیت، سادگی اور بے نفسی میں بے نظیر تھے۔ پنج وقتہ نماز باجماعت، تہجد، اشراق پوری پابندی سے ادا کیا کرتے تھے، اوراد و وظائف سفر و حضر میں باقاعدگی سے پڑھتے اور ہر معاملے میں سنت نبوی کی پیروی کو پیش نظر رکھتے تھے، فلق خدا کی اصلاح کے لئے آپ کے فرمودات آج بھی کامیابی کی دلیل ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے:-

- سب سے بڑی کمیساگری یاد حق ہے۔
- جس جگہ سے آداب شریعت اٹھ جائیں وہاں سے فقر کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔
- درویش کے لئے دو چیزیں بربادی کا باعث ہیں: حرص دنیا اور نامحرم عورتوں سے تعلق۔
- تین چیزوں کی عین نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات، تشریح سلوک اور آداب تک دیئے تو آپ کے فیض صحبت سے ہزاروں افراد مستفیض ہوئے، بڑے بڑے علماء

سکھ محمد سلیم نقشبندی، مولانا ، ضیائے لاثانی ، ۲ ص ۲۴۔

سکھ ارشاد احمد ہاشمی ، ماہنامہ سلسل ، تذکرہ ان دلیہ مجددیہ (خاص نمبر، جنوری، فروری ۱۹۶۲ء) ص ۴۲۔

سکھ محمد سلیم نقشبندی، مولانا ، ضیائے لاثانی ، ۶۲ ص ۶۱۔

آپ سے بیعت ہوئے لیکن جن حضرات کو آپ نے فلعتِ خلافت سے نوازا، ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے، چند خلفاء کے نام یہ ہیں :-

- ۱۔ مولانا سید چلغان علی شاہ ، مراڑہ شریف ۔
- ۲۔ مولانا میاں احمد دین لنگاہی ، سیالکوٹ ۔
- ۳۔ مولانا محمد شفیع ، موضع بڑھنڈہ ضلع گودا سہیو ۔
- ۴۔ صوفی محمد الدین مدراسی ۔
- ۵۔ پیر محمد شریف ، فتووال ۔
- ۶۔ مولانا حکیم عبدالغنی ، موضع الہڑ ضلع سیالکوٹ ۔
- ۷۔ مولانا فضل الہی ، دغیریم سہ ۔

۱۶ شعبان المعظم، یکم اکتوبر (۱۳۵۸/۱۹۳۹ء) کو آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا آپ کا مزار پورا نوار علی پور سیدان میں مرجع انام ہے، ہر سال عرس پر ہزاروں عقیدتمند حاضر ہوتے ہیں اور فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں مکہ قطعہ تاریخ وصال درج ذیل ہے سہ

ثانی صاحب اُن امام المتقین	رہنمائے ہایدین و زایدین
چو پہ عقبتی نفل از دنیا نمود	جملہ احبابش شدہ اندوگین
گفت ہائفت بروصالتش از سما	کعب اہل فہم در خسلد بریں مکہ

۱۳ ۵۸

سہ محدث نقشبندی، مولانا : ضیائے ثانی ص ۸۳-۸۴

سہ امین الدین سید حکیم : موفیائے نقشبند ، ص ۳۵۰

سہ محدث نقیب، مولانا : انوار الثانی، مطبوعہ مجازی پرنٹنگ (۱۳۶۳) ص ۱۹۰

مرجع الفضلاء والا کا بر حضرت مولانا حافظ محمد جمال الدین طسانی مدظلہ

تاج الاسفیا امام الاولیاء حضرت مولانا حافظ محمد جمال الدین بن محمد یوسف ابن حافظ عبدالرشید (قدست سرارہم) تقریباً ۱۱۶۰ھ/۱۷۴۷ء میں طتان شریف میں پیدا ہوئے سہ اپنے دور کے اجداد فضلاء سے علوم و فنون کی تحصیل کی۔ آپ دو طالب علمی ہی میں علم و فضل، ذکاوت و قطانت میں تمام طلبہ پر فوقیت رکھتے تھے، جو بھی آپ سے مباحثہ کرتا اسے ناکامی کا منہ دکھینا پڑتا۔ کتاب دائرۃ الاحول تک علم حاصل کیا تھا کہ آپ کو شرح صدر حاصل ہو گیا اور جذبۂ الہیہ اس قدر غالب ہوا کہ عبادات و ریاضات میں منہمک ہو گئے سہ مرشد کامل کا شوق پیدا ہوا، اسی تلاش میں حضرت شیخ رکن الدین طسانی قدس سرہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، ہر روز ایک قرآن کریم غم کرتے اور پیر کامل کیسے دعا مانگ کر موجد ایک رات حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نور محمد مہاروی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارشاد ہوا: فوراً مہار شریف حاضر ہوئے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں مرید ہو گئے حضرت حافظ صاحب کو اپنے شیخ سے عشق کی حد تک محبت تھی، سفر و حضر میں حاضر خدمت رہتے اور دُعا کرنے کی خدمت انجام دیتے سہ

ایک دفعہ حضرت شاہ فخر دہلوی قدس سرہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ طتان میں حضرت خواجہ بہاء الدین زکریا مہاروی قدس سرہ کی عظمت کے سامنے کسی ولی کا نظریہ کام نہیں کرتا اور دوسرے سلسلے کا کوئی بزرگ وہاں کسی بیعت نہیں کرتا۔ حضرت شاہ فخر رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ عالم مہاروی قدس سرہ کو فرمایا :-

سہ محدث نقیب، مولانا : انوار الثانی، مطبوعہ مجازی پرنٹنگ (۱۳۶۳) ص ۱۹۰

سہ محدث نقیب، مولانا : انوار الثانی، مطبوعہ مجازی پرنٹنگ (۱۳۶۳) ص ۱۹۰

سہ خلیف احمد نظامی : تارخ حیات نقیب (بھارت منقبا محبوبین) ص ۵۹۹-۶۰۱

ابنک ملتان حضرت بہار الحق کی ولایت تھی لہذا وہاں کسی دوسرے ولی کا تصرف کارگر نہیں ہونا تھا۔ اب ملتان ہمارے حوالہ کر دیا گیا ہے۔ اب ضروری ہے کہ تم وہاں اپنا کوئی مرید بھیجو اور کہو کہ حضرت شیخ بہار الدین کی خانقاہ میں جا کر حقوق کو مرید کرے اور اپنا تصرف جاری کرے۔

چنانچہ حضرت خواجہ ہمدانی نے دہلی سے واپس آ کر حضرت مولانا حافظ محمد علی الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کو ملتان بھیج دیا، انہوں نے مولانا خدا بخش کو خانقاہ حضرت شیخ بہار الحق میں بیٹھ کر مرید کیا۔

حضرت حافظ صاحب علم و فضل کے بجز غار تھے، دقین سے دقین مسائل کو اس طرح بیان کرتے کہ کند ذہن طلبہ بھی باسانی سمجھ لیتے۔ مسک و صدۃ الوجود پر جرت انگیز عبور رکھتے تھے۔ شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی اور مولانا جامی کی کتابوں کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ لغات الانس، ہشتنوی شریف، لوائح جامی، اشغۃ اللغات اور قصص حکم نہایت ہی پسند تھیں، خاص طور پر قصص حکم کے فصیحی سے تو یہاں تک محبت تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ذکر بھی کر دیتا تو سمجھوم جانتے تھے آپ نہایت باافلاق شخصیت کے مالک تھے، بچوں کے ساتھ مدارجہ شفیقت سے پیش آتے، غریبوں کی دجلونی کو بہت اہمیت دیتے، اگر کسی غریب کے ہاں دعوت پر تشریف لے جاتے تو خوشی کے آثار آپ کے چہرہ پر ظاہر ہوتے۔

ایک دفعہ روزہ سے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو مدعو کیا، آپ اسی طرح تشریف لے گئے، کھانے کے وقت روٹی کے لقمے توڑ کر رکھتے رہے اور پاس بیٹھے ہوئے احباب کھاتے رہے حتیٰ کہ چند ہجرا میوں کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ آپ نے

کھانا نہیں کھایا۔

حضرت حافظ صاحب علامہ وقت اور شیخ طریقت ہونے کے ساتھ ساتھ مدبر و حق اور مد میدان بھی تھے۔ آپ کے دور میں پنجاب سکھوں کے تسلط میں آچکا تھا، سکھوں نے کئی مرتبہ ملتان پر حملہ کیا لیکن آپ کی زندگی میں ملتان پر قابض نہ ہو سکے۔ ایک رات آپ کو معلوم ہوا کہ سکھ ملتان کا محاصرہ کر کے حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ خبر ملتے ہی آپ شمشیر و سناں سے مسلح ہو کر جوانوں سے بھی آگے نکل گئے اور ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کیا۔ محاصرہ سے پہلے بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے تاکہ کافروں کے حملے سے محفوظ رہیں، اس پر حضرت حافظ صاحب نے فرمایا:

”اب عام ابتلاء کا دور ہے اور جہاد فرض عین ہو چلا ہے

اس وقت ہم کہیں نہیں جائیں گے، اب ہمارے لئے دو ہی محمود

انجام ہیں کہ ہم غازی ہوں گے یا شہید“۔

حضرت حافظ صاحب خوف و ہراس سے نا آشنا تھے، تیرا ملازی میں اس قدر ماہر تھے کہ دوسروں کو یہ فن سکھایا کرتے تھے۔

آپ بہت لطیف مزاج تھے، عمدہ لباس زیب تن فرماتے، آپ کی انگوٹھی پر ان اللہ جمین و تحمید الجہال“ نقش تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ طرقت عادت یہ ہے کہ نفس کی عادات مثلاً شکم سیری، بے فائدہ گفتگو اور عبادات میں سستی کو خوراک کی کمی، خاموشی اور ریاضت سے توڑ دے، نیز فرمایا کرتے تھے جو امر بھی ظاہر ہو ہی سمجھنا چاہئے کہ یہ درحقیقت اللہ عزوجل کا فعل ہے اور ماؤ شامرف دہم ہے۔

سکھ عبدالعزیز پر ہمدانی، علامۃ العصر، گلزار جاوید ص ۱۰

سکھ خلیق احمد نظامی، ہمدانی، تاریخ شاہچ پشت ص ۹۰۳-۹۰۴

سکھ عبدالعزیز پر ہمدانی، علامۃ العصر، گلزار جاوید ص ۱۰

سکھ ایضاً ص ۱۹-۲۱

سکھ خلیق احمد نظامی، ہمدانی، تاریخ شاہچ پشت ص ۵۹۸-۵۹۹

سکھ عبدالعزیز پر ہمدانی، علامۃ العصر، گلزار جاوید ص ۸

حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سلاسل اربعہ میں مجاز تھے لیکن سلسلہ عالیہ شیعہ سے زیادہ اُنس رکھتے تھے اس لئے اکثر و بیشتر اسی سلسلہ میں مرید کیا کرتے تھے ملے
۵۔ جہادی الاولیٰ ۲۹۰ مئی (۱۲۲۶ھ/۱۸۱۱ء) کو آپ نے وصال فرمایا اور ملتان میں
مخواسزا حضرت اہدی ہوئے، کسی نے تاریخ وصال کسی سے

خرد رسالہ وصالش چو جست وجوئے کرد

نہائے داد سر و شتم کہ یافت خوب وصال" ملے

آپ کے بعد حضرت مولانا محمد بخش ملتانی مصنف رسالہ توفیقہ (توحید کے موضوع پر) سجادہ نشین ہوئے۔

حضرت حافظ صاحب کے مریدین کا حلقہ بہت وسیع تھا ملے آپ کے خلفاء
عظام کے اسماء گرامی یہ ہیں :-

- ۱۔ علامہ الدہر مولانا عبدالعزیز پرباری (صاحب نبراس شرح شرح عقائد و کتابیں)
- ۲۔ مولانا زاہد شاہ۔
- ۳۔ مولانا غلام حسن۔
- ۴۔ مولانا قاضی عیسیٰ خان پوری۔
- ۵۔ مولانا عبید اللہ ملتانوی۔
- ۶۔ مولانا حامد۔
- ۷۔ مولانا غلام فرید (غیر ہم رحمہم اللہ تعالیٰ)

ملے عبدالعزیز پرباری، علامہ العصر : گلزار عالیہ ص ۱۸۔

ملے ضیق احمد نظامی پروفیسر تاریخ شاہچشت ص ۶۶۔

ملے ایضاً ص ۶۶۔

فاضل اجل مولانا سید چراغ شاہ گجراتی قدس سرہ العزیز

مولانا سید چراغ شاہ ابن سید محمد شاہ موضح بوکن مضافات گجرات میں ایک غریب
سید گھرانے میں ۱۲۳۸ھ/۱۸۲۲ء کے لگ بھگ پیدا ہوئے، اہل عمر میں حضرت بابا جگوشاہ
رحمہ اللہ تعالیٰ جن کا مزار مبارک موضح ملوکو گھر المعروف ڈبرہ بابا جگوشاہ میں مرجع خاص عالم
کے ارشاد پر سیانکوٹ چلے گئے اور اساتذہ الاساتذہ مولانا غلام مرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس میں
مشرک ہو گئے صرف چند سال میں مرید علوم پر عبور حاصل کر کے دستاویز فنیت حاصل کر لی استاذ
مکرم کے وصال کے بعد ان کی جگہ مسجد کبوترال والی میں درس قرآن و حدیث دینا شروع کیا
اور تاحیات تشنگان علوم و دینیہ کو اپنے فیض سے سیراب فرماتے رہے۔

مولانا صاحب قلم بزرگ تھے، ان کی بیشتر تصانیف اختلاف کی بے پرواہی سے ضائع
ہو چکی ہیں البتہ مکرمی سید نور محمد قادری دہلوی (ذمیرہ حضرت موصوت) کے پاس بڑے سائز کے
ایک ہزار صفحات پر مشتمل ایک قلمی مباحث موجود ہے جس میں آپ نے اختلافی مسائل مثلاً شفاعت عبادت
استعانت، علم غیب، بدعت اور تقلید وغیرہ پر فاضلانہ بحث کی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں
بعض نادر تحریریں محفوظ ہیں مثلاً :-

- ۱۔ عضو سید نافورث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجادہ نشین سید محمد صالح قادری سے لیکر
سیدنا آدم علیہ السلام تک شجرہ نسب،
- ۲۔ مناقب الانصاریا، آج شریعت کے بزرگوں کا تذکرہ، مرتبہ مولانا عبداللہ نو مسلم راہروی
تم آجی۔

ملے اقبال کلاسٹا اعداد و احوال مدرسہ اہل حق کے نام ایک مکتوب میں لکھتے ہیں: "امری غزلیت کے زمانہ میں یہاں دو درگاہیں تھیں
ایک مسجد کبوترال والی جس میں مولوی غلام قحطی صاحب جو نہایت باساقانہ، صاحب اثر و شہرت و دولت بزرگ تھے اور دوسری ایک تھالیہ
بزرگ و اعلیٰ کا کوئی اور وہ انہی میں سے نہیں سمجھا" (تقریب مکاتیب نمبر ۱۰ ص ۵۰۵ (۱۹۵۷ء))

۳۔ مولانا جان محمد لاہوری کی ایک تقریر ، وغیرہ وغیرہ

معاصرین میں سے حضرت مولانا قاضی سلطان محمد، مولانا غلام حسن ساہووالہ، مولانا غلام حسین ساہووالہ اور ادیب یگانہ علامہ محمد حسن فیضی ساکن بھبین (منبع جہلم) کے ساتھ آپ کے گھر سے مخلصانہ روابط تھے۔

۱۳۰۴ھ/۱۸۸۲ء میں آپ کا وصال ہوا، مولانا محمد حسن فیضی نے عربی میں اور مولانا غلام حسین نے فارسی میں خوب اور پُر درد مرثیے کہے، مولانا غلام حسین نے موصوف کے نام مبارک چہرے شاہ کی مناسبت سے "بے اوجہانے بے چراغ" (۱۳۰۴ھ/۱۸۸۲ء) تاریخ وصال کی تاریخی شعر درج ذیل ہے۔

تو کب کلکم ز دردم بے اوجہانے بے چراغ

پس 'بیرضی الحق عنہ' نیز 'تاریخ شہار

آپ کے پانچ صاحبزادے تھے جن میں سے مولانا حافظ سید عبداللہ شاہ، مولانا سید نور اللہ شاہ سیالکوٹی اور حکیم سید ظہور اللہ شاہ اپنے دور کے ممتاز افاضل تھے۔

۱۲۷۔ یہ تمام حالات مکتب سید نور محمد قادری مدظلہ موکت 'اعلیٰ حضرت کی ساس بیروت' اور 'اعلیٰ حضرت کی شہوی پریک نظر' نے فراہم کیے ہیں۔

مجاہد ملت حضرت مولانا سید جلالی قدس سرہ

حضرت مولانا سید جلالی ابن حضرت مخدوم سید امیر حمزہ نقوی جلالی دہلوی رحمہما اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سید جلالی ابن حضرت مخدوم سید امیر حمزہ نقوی جلالی دہلوی رحمہما اللہ تعالیٰ ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۴ء میں دہلی میں پیدا ہوئے، حضرت مخدوم ناصر جلالی (م) رمضان المبارک ۱۳۸۵ھ آپ کے بڑے بھائی تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت قدس سرہ سے ملتا ہے۔ گیارہ برس کی عمر میں مولانا قاری حافظ سید محمد امام علی گاہ شاہی، دہلی سے قرآن پاک حفظ کیا بعد ازاں مدرسہ عالیہ جامع فخری دہلی میں تمام علوم کی تکمیل کی، مدرسہ طیبہ دہلی سے سند حکمت حاصل کی۔ اپنے برادر بزرگ کے ساتھ مل کر جماعت اخوان الصفا قائم کی متعدد جہاد مثلاً ہاشمہ حق، شعلہ ویکل، اتحاد سڑوہ جاری کئے، ۱۹۳۵ء میں کراچی سے ہاشمہ زبان ہند جاری کیا۔

۱۹۳۶ء میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اپنا تین من و دوں تحریک پاکستان کی کامیابی کیلئے وقف کر دیا، اتحاد عالمی نامی کے زبردست داعی، مجلس اتحاد عالم اسلامی کے صدر اور جمعیت علماء پاکستان کے سرپرست تھے، قیام پاکستان کے بعد ہاشمہ زبان جاری کیا، اور آخر میں ہاشمہ علم و عرفان نکالا۔ حضرت مولانا سید جلالی متذکرہ نسب کے مصنف تھے، تفسیر قرآن کریم اور بخاری شریف کی شرح آپ سے یادگار ہے، مجلس جہان علماء اقبال کے صدر تھے، علماء اقبال کے بارے میں لکھی گئی ہیں سپر وکلر فرامین قنوی مولانا دوم کے تقریباً ۱۰۰ صفحات پر پڑے ویکشن انداز میں اس کی شرح فرماتے تھے، بحرین طیبین کی زیارت سے شرف ہوئے، ہماکب اسلامیہ کا دورہ کیا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے محب اور لیاہ کلام کے پیروکار اور امام نزاری رحمہما اللہ تعالیٰ کے فلسفے کے دلدادہ تھے۔

۱۲۸۔ مئی ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء میں کراچی میں آپ کا وصال ہوا۔

زبدۃ الاصفیاء حضرت مولانا صوفی حامد علی قدس سرہ

(البیہ، ضلع مظفر گڑھ)

حضرت مولانا صوفی حامد علی قدس سرہ اپنے دور کے بہترین مدرسین میں شمار ہوتے تھے، موجودہ دور میں تقویٰ و پرہیزگاری کے اعتبار سے سلف صالحین کا نمونہ تھے۔ آپ کے ابتدائی حالات معلوم نہ ہو سکے، راقم نے سیال شریف میں آپ سے نحو میر پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، ان جیسے اہناک سے پڑھاتے ہوئے بہت کم اساتذہ کو دیکھا گیا ہے۔

حضرت مولانا صوفی حامد علی قدس سرہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت پیر بادام ظلہ العالی سے بیعت اور تفضیل تھے۔ طویل عرصہ تک سیال شریف میں پڑھاتے رہے پھر غالباً ۶۱ یا ۶۲ھ یا ۱۹۶۲ء میں لیتہ ضلع مظفر گڑھ میں جامعہ نعمانیہ رضویہ کی بنیاد رکھی، تدریس کے لئے بہترین مدرسین کا انتظام کیا، گرد و نواح کے متلاشیان علم دین جوق در جوق آنے لگے اور محو طے ہی عرصہ میں یہ مدرسہ ایک مشالی درس گاہ بن گیا۔

۱۹ رجب، ۱۶ جولائی (۱۳۹۶ھ/۱۹۷۶ء) بروز جمعہ حضرت استاذی المکرم مولانا صوفی حامد علی قدس سرہ کا وصال ہوا اور لیتہ میں آپ کی آخری آرام گاہ بنی۔ اب وہ محلہ جہاں آپ نے مدرسہ قائم کیا تھا، حامد آباد کے نام سے معروف ہے آپ کے بھتیجے مولانا محمد قبال سلسلہ رہے ہونما اور ذریعہ نوجوان ہیں، خدا کرے وہ جامعہ نعمانیہ رضویہ کی بقا اور ترقی کی کوششوں میں کامیاب ہوں۔

جناب فدا حسین فدا مظہر نے قطعہ تاریخ وصال تحریر کیا ہے

ذکر کمال علم و فضل کے دل آج بول نکلیں ہوئے جو حضرت حامد علی میں ہر سے رخصت انہیں مجرب تعداد میں رسول ہاشمی و اللہ! حریف اہل باطل تھے وہ الحق قاطع بدعت

وہ پابند شریعت بھی تھے اور اہل طریقت بھی انہیں ہر حال میں مطلوب تھی اسلام کی حرمت علوم دین میں چیتا تھے وہ بیشک بزم عالم میں نہاں ہر دل میں جہان کے کمال و عمل کی عظمت پھینکی رحمت للعالمین از لطف ربانی بننے کی بقعہ انوار بیزواں آپ کی تربیت

سن ترحیل میں ان کے فدا غلطان ہوتے ہی
نمایا پر عرش سے آئی، کو صوفی ملک خصلت

۱۳ ۶ ۹۶

صوفی باصفاء ڈاکٹر صاحب علی بن حرمین برق قدس سرہ

حضرت ڈاکٹر صاحب علی بن حرمین برق بن حضرت حاجی محمد رمضان لدھیانہ میں پیدا ہوئے، اپنے وقت کے ممتاز افاضل سے علم حاصل کیا، فزنجی محل (لکھنؤ) دیوبند اور جامعہ ازہر مصر کے فاضل تھے۔ کچھ عرصہ سلم یونیورسٹی علی گڑھ میں بھی رہے۔ عربی، فارسی، اردو اور انگریزی میں ایم۔ اے کیا، پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی، چاروں زبانوں میں بلا تکلف گفتگو فرماتے۔ طبقہ مشائخ میں موجودہ دور میں اس قدر پرمیسا لکھا شامدی کوئی ہو حضرت صوفی محمد حسین مراد آبادی شیخ و مرشد حضرت شاہ سراج الحق چشتی کے مرید تھے لیکن تربیت ان کے مرید حضرت مولانا صوفی انور علی شاہ صاحب (پہلی بھیت) نے فرمائی جو بفضلہ تعالیٰ ابھی تک بقید حیات ہیں، آپ نے دنیا کے بہت بڑے علاقے کی سیاحت کی، قیام پاکستان کے بعد لاکھوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر پاکستان تشریف لے آئے اور نارملی (لاہور آرٹ پریس) کے قریب قیام کیا، آخری دنوں میں دینی رام روڈ منتقل ہو گئے۔

آپ سلاسل سنتہ (قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، صابریہ، مسروریہ، قلندریہ اور اویسیہ) میں مجاز تھے۔ اس قدر باکمال ہونے کے باوجود تمام عمر چٹائی پر بیٹھ کر گزار دی، آپ کو اہل دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا، ہر وقت ذکر خدا و مصطفیٰ (صل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں رطب اللسان رہتے۔ ایک دفعہ راقم الحروف حاضر ہوا تو فرمایا مولوی! اس وجود کا کیا اعتبار جس کے پہلے بھی عدم ہوا اور بعد بھی عدم، یعنی حقیقتہً وجود و موجود تو صرف اس کی ذات ہے جو کم بزل اور لا بزال ہے۔

علمائے اہل سنت سے انس اور محبت رکھتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا کہ مولانا احمد رضا خاں بریلوی عاشق رسول اور مرد مجاہد تھے، وقت آیا تو بتاؤں گا کہ وہ کیا تھے، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد لہوری نسبت طریقت میں آپ کے بیٹھے (یعنی شاہ سراج الحق چشتی کے مرید) تھے جو حضرت صوفی محمد حسین مراد آبادی کے غلیظہ و مرید تھے، ان کا ذکر تہری

محبت سے فرماتے تھے، ایک دفعہ فرمایا "سردار واقعی سردار ہے، انہوں نے مختصر عرصے میں بہت بڑا کام کیا ہے" ایک مرتبہ برادر محترم مولانا محمد عبدالغفار ظفر نقادری کو میرے متعلق فرمایا کہ یہ اگر مولانا محمد سردار احمد کامریہ نہیں ہو سکا تو اسے ان کے کسی غلیظہ مجاز کامریہ کو یاد دلاؤ۔

حضرت ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں مختلف قسم کے لوگ حاضر ہوتے تھے، آپ ان سے ایسی گفتگو فرماتے کہ انہیں تسلیم کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا، شدید کتب فکر کے مولوی اسماعیل ملاقات کے لئے آئے تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا "مولانا ایک شخص اپنی ماں کو گالی دیتا ہے اس کے متعلق کیا فتوے ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بڑا بے ادب ہے، گستاخ ہے وغیرہ وغیرہ! ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ذرا سوچئے تو سہی کہ جو لوگ اپنی ہمت تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گستاخی کرتے ہیں، ان پر بہتان طرازی کرتے ہیں ان لوگوں کی کیا پوزیشن ہے؟ مولوی صاحب سے خاموشی کے بغیر کوئی جواب نہ دین سکا۔

ایک صاحب پہلی دفعہ ملاقات کے لئے آئے اور حسب عادت کہنا شروع کیا کہ دیکھے بعض لوگ کہتے ہیں "یا غوث اعظم دستگیر" اور انبیاء و اولیاء کے لئے علم غیب ثابت کرتے ہیں، یہ سب شرک ہے، ڈاکٹر صاحب نے نہایت اطمینان سے تمام گفتگو سنی اور فرمایا میں نبی نہیں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہوں لیکن تمہاری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، بھانج کو بغیر نکاح کے لئے پھرتے ہو اور پھر انبیاء و اولیاء کے علم پر تم کرتے ہو، ذرا ہوش سمجھا لیا کہ بات کرو، وہ صاحب چپ چاپ اٹھ کر چل دئے۔

راقم نے آپ کی پہلے سال میں زیارت کی لیکن اس وقت بھی آپ کا حافظہ اس قدر تیز تھا کہ اردو اور فارسی کے سب سے بڑا لاشعرا آپ کو یاد تھے۔ آپ ایک ماہر طبیب تھے، طبی نسخے لکھتے تو بلا تکلف کئی کئی آدمیوں کو کھو دیتے۔ مریدین کا حلقہ کافی ہے، انہیں اعمال و اذکار کی تعلیم دیتے۔ آپ کی گفتگو میں لطیف مزاح اور بذلہ سخی کی چاشنی بھی درجہ اتم موجود ہوتی تھی جسے صرف پڑھے لکھے لوگ ہی محسوس کرتے تھے اور غفلت نہ ہوتے تھے۔

۲۰ ذی الحجہ ۲۰۰۱ (۱۳۸۴ھ/۱۹۶۸ء) بروز بدھ آپ کا وصال ہوا اور بہاول پور روڈ میاں صاحب میں دفن ہوئے، نماز جنازہ برادر محترم جناب مولانا محمد عبدالغفار ظفر نقادری

نے چڑھائی

دھال سے چند دن قبل کھانا پینا ترک کر دیا تھا اور صرف جو شاندرے کے بھپارے
پاکتھا فرماتے۔ ایک دن آپ کے صاحبزادے جناب محمد اکرم الحق نے عرض کیا کہ کچھ توت اول
فرمائیں، آپ نے فرمایا تیس سال بعد خدا خدا کر کے میں نے اپنے پیٹ کو طعام سے پاک کیا ہے
اب پھر اس سے ٹوٹ کر بنا چاہتے ہو؟

آپ شعر و سخن کا پاکیزہ ذوق بھی رکھتے تھے، ایک رباعی درج ذیل ہے۔
ہے مشق دلا بوترابی ہی نہیں یہ سے تند ہے گللابی ہی نہیں
کافر ہے جو علی کو خدا کہتا ہے پی کے جو نہ بیکے وہ شرابی ہی نہیں

سہ یہ تمام حالات برادر محترم مولانا محمد عبدالغفار ظفر القادری ندیم پورہ (لاہور) نے فراہم کئے۔

مولانا محمد حبیب اللہ نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ مولانا تفسیر نعمانی

پنجابی زبان کے مشہور شاعر و مفسر مولانا محمد حبیب اللہ بن نظام دین کبیر ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ء
میں ضلع امرتسر کے گاؤں کبیر میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی، سکول میں ملل تک اردو، فارسی
اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد مختلف اساتذہ سے فارسی، صرف اور نحو کی کتابیں پڑھیں
ترجمہ قرآن مجید، تفسیر اور طب پڑھی، پولیس میں بھرتی ہو گئے، اٹھارہ سال تک کانسٹیبل، پری کانسٹیبل
ہیڈ مہر اور تھانیدار کی حیثیت میں کام کرتے رہے، محکمہ پولیس کو چھوڑ کر عتقار عام کا کام کرتے رہے
پھر امرتسر میں دکان کھولی اور قیام پاکستان کے بعد یک ۵/۸۶ء ہارون آباد میں سکونت
پذیر ہو گئے سہ

مولانا محمد حبیب اللہ نعمانی پنجابی کے قادر الکلام شاعر اور کثیر المتصانیف مصنف تھے،
رساۃ تقلید میں انہوں نے بعض ایسی باتیں لکھ دی تھیں جو ناواقف پڑھنے اور حقائق کے خلاف
تھیں، اس لئے مولانا نبی بخش حلوانی نے تفسیر نموی اور بعض دیگر رسائل میں ان پر سخت گرفت فرمائی
مولانا نعمانی سلیم الطبع اور حق پرست شخصیت تھے لہذا بروایت مولانا اللہ داتا مغلطہ (درا قہم کے والد
گرامی) انہوں نے ان غلط باتوں سے رجوع کر لیا۔

برادر محترم مولانا محمد عبدالغفار ظفر الصابری (لاہور) کے نام مولانا کے بعض مکاتیب
جو انہوں نے دھال سے کچھ عرصہ پہلے (۱۹۵۰-۵۳ء) میں لکھے تھے اور مولانا کے اپنے ہاتھ سے
لکھے ہوئے ایک مخطوطہ سے (جو درا قہم کے پاس محفوظ ہے) پتہ چلتا ہے کہ مولانا صحیح العقیدہ اور
متصلب سستی تھے، مولانا کو ایم نے توفیق عطا فرمائی تو ان پر کسی وقت الگ مقالہ لکھا جائے
گا انشاء اللہ العالیٰ العزیز۔

سہ انسائیکلو پیڈیا ملبورن فریڈمنز لاہور۔

مولانا کی تصانیف کے نام یہ ہیں (مطبوعہ)

- ۱- حسیب التفسیر المعروف بتفسیر نعمانی (تقریباً ۲۲ پیارے)
- ۲- گلزار موسیقی
- ۳- گلزار صیغی
- ۴- گلزار آدم
- ۵- گلزار یوسف (حسن القصص، قصص النبیین)
- ۶- مجموعہ خطبات
- ۷- مجموعہ خطب اسلامیہ
- ۸- تفسیر سورہ والضحیٰ
- ۹- اکرام المصطفیٰ
- ۱۰- غیر مطبوعہ تصانیف :-
- ۱۱- تفسیر سورہ فاتحہ ، وغیرہ وغیرہ۔
- ۱۲- تفسیر سورہ فاتحہ ، وغیرہ وغیرہ۔
- ۱۳- تفسیر سورہ فاتحہ ، وغیرہ وغیرہ۔
- ۱۴- تفسیر سورہ فاتحہ ، وغیرہ وغیرہ۔
- ۱۵- تفسیر سورہ فاتحہ ، وغیرہ وغیرہ۔
- ۱۶- تفسیر سورہ فاتحہ ، وغیرہ وغیرہ۔
- ۱۷- تفسیر سورہ فاتحہ ، وغیرہ وغیرہ۔
- ۱۸- تفسیر سورہ فاتحہ ، وغیرہ وغیرہ۔
- ۱۹- تفسیر سورہ فاتحہ ، وغیرہ وغیرہ۔

۱۸- اخبار الغیب ، ترجمہ و شرح قصیدہ حضرت نعمت شاہ ولی رحمتہ تعالیٰ

۱۹- تفسیر سورہ فاتحہ ، وغیرہ وغیرہ۔

۱۶ رجب ۲۲، مارچ ۱۳۷۳/۱۹۵۴ء بروز سوموار صبح آٹھ بجے آپ کا وصال ہوا۔

حکیم محمد صادق چک ۵/۸۶ آر ہارون آباد آپ کے فرزند ہیں اور طب کرتے ہیں۔

ملک مکتب جناب حکیم محمد صادق نام ہادم مولانا محمد عبدالغفار ظفر الصابری ، لاہور پور

طیبیہ حانی و حسانی حضرت مولانا حکیم خادم علی سیالکوٹی قدس سرہ

حضرت مولانا حکیم خادم علی قدس سرہ العزیز کو ملی بوباراں ضلع سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ ماہ علوم دینیہ اور طب میں فخر روزگار تھے، شعر و شاعری میں کمال رکھتے تھے۔ حضرت حکیم صاحب حافظ قرآن اور ظاہری علوم میں باکمال ہونے کے ساتھ ساتھ باطنی علوم میں بھی بلند مقام رکھتے تھے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ حافظ محمد عبدالکریم قدس سرہ (دادا لہندی) کے مرید ہوئے اور خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے اور ان کے وصال کے بعد حضرت امیرت محمد علی پوری بھی ملتا پائی۔ حضرت حکیم صاحب قادر الکلام خطیب تھے، ان کی تقریر اور منظوم کلام میں بلا کا موزن تھا، انہوں نے شریعت و طریقت، طب و حکمت اور علم و ادب کی گرانقدر خدمات انجام دیں، آپ کا کلام حکمت و موعظت اور پند و نصیحت کا قابل قدر خزینہ ہے، آپ کی متعدد تصانیف شائع ہو کر مقبول ہوئی و خواص ہو چکی ہیں، افسوس کہ ہمیں کوشش کے باوجود ان کے تفصیلی حالات مہل سکے۔

حضرت حکیم صاحب نے اپنے فیض کرامت پر طب کا پردہ ڈال رکھا تھا، ہزاروں افراد حاضر ہوتے اور اپنی ظاہری و باطنی بیماریوں کا علاج کروا کر واپس جاتے۔ آپ کا حلقہ ارادت بہت وسیع ہے جس جگہ آپ قیام فرماتے اس سڑک کا نام حکیم خادم علی دوڑ لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حکیم صاحب فریب پرور اور وفار شاعر بزرگ تھے۔ حکیم عبداللہ سکھ مذہب چھوڑ کر آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، ان کی وفات کے بعد آپ طویل عرصہ تک ان کے مطب واقع اڑھ شہناز پر تشریف لے جاتے رہے اور مریضوں کو نسخے لکھ کر دیتے رہے تاکہ حکیم عبداللہ مرحوم کا مطب چلتا رہے اور ان کے بچوں کی کفالت ہوتی رہے تاکہ

سلسلہ زندگی انکا حکیم آفتاب احمد قریشی نے آپ کا سن ولادت ۱۸۶۶ء لکھا ہے (مطبوعہ لاہور، اکتوبر ۱۹۷۱ء ص ۴۲)

ملک بروایت مولانا محمد عام سیالکوٹی، حال تقیم لاہور۔ عہد ہدایت ہادم جناب محمد صادق قسوی مذہب۔

جو بکھا کرتے تھے سہ

حضرت حکیم غلام غلام علی صاحب قدس سرہ کا وصال ۳ جمادی الثانیہ ۱۲۱۲ گریگوریہ (۱۹۴۱/۱۳۶۱) بروز جمعہ ۲۰ اکتوبر
سے نامکافرو نے نازیبا در میں شرکت کی سیالکوٹ میں آپ کا مزار پر انوار تعمیر ہو چکا ہے جہاں
عقیدت مند آج بھی اسی محبت سے حاضر ہوتے ہیں اور فیضیاب ہو کر لوٹتے ہیں۔
آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا حکیم عبدالرحمن مظلمہ آپ کے جانشین ہیں اور
طب و حکمت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔



سہ آفتاب احمد قریشی، ریدہ انکا، مولانا علی، اکتوبر ۱۹۴۱ء، ص ۵-۶۔

سہ آفتاب احمد قریشی، ریدہ انکا، مولانا علی، اکتوبر ۱۹۴۱ء، ص ۶۔

حضرت مولانا حافظ دوست محمد لکھی قدس سرہ

حضرت مولانا حافظ دوست محمد ابن حضرت خواجہ غلام نبی لکھی (قدس سرہ ماہ ۱۲۶۶ھ/۱۸۴۹-۵۰ء) میں لکھنؤ شریعت (مبلغ تعلیم) میں پیدا ہوئے۔ ابھی آپ شیرخوار ہی تھے کہ عارف بیکانہ
حضرت خواجہ غلام نبی الدین قصوی دامم الضوی قدس سرہ نے آپ کو ایک مکتوب میں تحریر فرمایا:
"مولوی حافظ دوست محمد کو دعا"

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حافظ بھی ہوئے اور مولوی بھی تکمیل علوم کے
بعد تین سال تک والد ماجد سے کسب لہک کیا اور سلسلہ مجددیہ کے مقامات کی تکمیل کر کے مرشد
شرعی میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے پیارے خلافت و اہانت سے مشرف ہوئے۔
والد ماجد حضرت خواجہ غلام نبی لکھی قدس سرہ کے وصال کے بعد مسند ارشاد پر فائز ہوئے
اور حق و صداقت کی جانب خلق خدا کی رہنمائی فرمائی، سز باہ اور مساکین کو الطاف خیرانہ سے
نوازتے اور اہل دنیا سے کچھ غرض نہ رکھتے، صاحب حال ہوتے ہوئے کمال اخلاص سے
کام لیتے، اہل حاجت حاضر ہوتے اور آپ کی نگاہ التفات سے کامیاب ہو کر لوٹتے۔

۱۸ ذوالحجہ ۸۰۱ھ اپریل (۱۳۱۸ھ/۱۹۰۱ء) کو آپ کا وصال ہوا اور لکھنؤ شریعت میں اپنے
والد ماجد کے پہلو میں مجرا سزاقت ہوئے۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند ارجمند حضرت خواجہ
محمد عبدالرسول قدس سرہ ہادی خلق بنے لیکن عین عالم شباب میں ۲۹ سال کی عمر میں، مسکن
المہارک، ۲۰ اگست (۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء) کو راجہ کی دارالآخرت ہوئے سہ اس وقت حضرت
خواجہ محمد عبدالرسول کے پوتے حضرت خواجہ محمد مطلوب الرسول مدظلہ العالی سلف کے طریقے
پر چلتے ہوئے تبلیغ و ارشاد میں مصروف ہیں مولائے کریم مترشدین پران کا سایہ تادیر سلامت رکھے۔

امام الحدیث حضرت مولانا سید محمد دیدار علی شاہ ادری قدس سرہ العزیز

مرجع الفقہاء والحدیث مولانا ابو محمد سید محمد دیدار علی شاہ ابن سید نجف علی ۱۲۴۲ھ / ۱۸۵۶ء بروز پیر محلہ نواب پورہ ادریس پیدا ہوئے، آپ کے عم محکم باخدا بزرگ مولانا سید نثار علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا:

"بیٹی! تیرے ہاں ایک بزرگ کا بیوہ ہو گا جو دین مصطفویٰ کو روشن کرے گا"

اس کا نام دیدار علی رکھنا تھے

آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے آبا و اجداد مشہد سے ہندوستان آئے اور ادریس قیام پذیر ہوئے۔

آپ نے صرف دو نحو کی ابتدائی کتابیں ادریس مولانا قمر الدین سے پڑھیں، مولانا کرم اللہ خاں سے دینی میں درسی کتابوں اور دورہ حدیث کی تکمیل کی، فقہ و منطق کی تحصیل مولانا ارشد حسین رام پوری سے کی، سند حدیث مولانا احمد علی محدث سہارنپوری اور حضرت مولانا شاہ غنسل الرحمن گچ مراد آبادی سے حاصل کی، حضرت شیخ الاسلام پیر سید مہر علی شاہ گورکھ پوری اور مولانا وصی احمد محدث سوہتی آپ کے ہم درس تھے۔

آپ سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت مولانا فضل الرحمن گچ مراد آبادی کے مرید اور خلیفہ تھے، سلسلہ چشتیہ میں حضرت مولانا سید علی حسین کچھوچھوی اور سلسلہ قادریہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کے خلیفہ معجاز ہوئے تھے

حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ اور صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی

لے نظام ہرنیو، ۱۰ ص ۱۱۷

لے عبدالمجیب کوکب، کاغذی، اخبار جمعیت دہور (۴ فروری ۱۹۵۸ء) ص ۳

لے اقبال احمد لدنی ہرنیو، تذکرہ علمائے اہل سنت و جماعت لاہور، ص ۲۶۶-۲۶۷

کے درمیان بڑے گہرے دوستانہ مراسم تھے، ایک مرتبہ حضرت صدر الافاضل نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کا ذکر کیا اور ملاقات کی رغبت دلائی، حضرت سید احمد ثانی نے فرمایا:

"بھائی مجھ ان سے کچھ حجاب سا آتا ہے، وہ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور سنا ہے طبیعت سخت ہے"

لیکن حضرت صدر الافاضل دوستانہ روایت کی بنا پر بریلوی سے ہی گئے، ملاقات ہوئی تو حضرت مولانا نے عرض کی حضور مزاج کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا:

"بھائی کیا پوچھتے ہو پٹھان ذات ہوں، طبیعت کا سخت ہوں؟"

کشف کی یہ کیفیت دیکھ کر مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر عقیدت نیاز مندی سے جھکا دیا اس طرح بارگاہِ رضوی سے نہ توٹنے والا تعلق قائم ہو گیا ہے

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ قدس سرہ اور آپ کے قابل مدد فرزند مفتی اعظم پاکستان مولانا سید ابوالبرکات مظاہر العالی کو تمام کتب فقہ حنفی کی روایت کی اجازت فرمائی تھی اور اجازت و خلافت عطا فرماتے ہوئے تمام ادراد و وظائف کی اجازت فرمائی، تکمیل علوم کے بعد ایک سال مدرسہ شاعت العلوم، ایچیو میں ۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۶ء میں ادریس قوت الاسلام کے نام سے ایک دارالعلوم قائم کیا، پھر تشریف لاکر جامعہ اسلامیہ میں تدریس فرمائی

۱۳۲۵ھ / ۱۹۱۴ء میں مولانا ارشد حسین رام پوری کے ایثار پر اگرہ میں شاہی مسجد کے خطیب اور عینی کی حیثیت سے تشریف لے گئے۔ ۱۳۳۰ھ / ۱۹۲۲ء میں دوبارہ لاہور تشریف لائے اور مسجد وزیرخان میں خطابت کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ۱۳۴۳ھ / ۱۹۲۵ء میں مرکزی انجمن حزب الاحناف قائم کی اور دارالعلوم حزب الاحناف کی بنیاد رکھی جہاں سے سیکڑوں علماء و فضلاء اور مدرسین پیدا ہوئے، آج پاکستان کا شاید ہی کوئی شہر یا دیہات ہوگا جہاں حزب الاحناف کے

لے اقبال احمد لدنی ہرنیو، ہرنیو، تذکرہ علماء اہل سنت و جماعت، ص ۲۶۸-۲۶۹

لے دیدار علی شاہ، امام الحدیث، مقدمہ میرزا ادریس چشتی، ص ۸۰

لے نقوش، لاہور، ص ۹۲۶

فارغ التحصیل علماء دینی خدمات انجام دے رہے ہوں لہ

حضرت کی ذات ستورہ صفات ممتدح تصارت نہیں ہے ہاکی اور حق گوئی آپ کی طبیعت ثانیہ بن کی تھی، مفاہمتوں کے طوفان آپ کے پائے ثبات کو جنبش زد سے سکے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں مرعوب نہ کر سکتی تھی، علم و فضل کے تو گویا سمندر تھے، کسی سے لے کر گنگو مشروع کرتے تو گھنٹوں بیان جاری رہتا۔ سورہ فاتحہ کا درس ایک سال میں ختم ہوا، آپ کے خلوص و ایثار، زہد و تقویٰ، سادگی اور اخلاق عالیہ کے مخالف و موافق سمجھی محض تھے، سنییت اور خنیفیت کے لحاظ اور فریغ کے لئے آپ نے نہایت اہم خدمات انجام دیں، غازی کشمیر مولانا سید ابوالحسن قادری صدر جمعیت علماء پاکستان (رحمۃ اللہ تعالیٰ) اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا ابوالبرکات سید احمد شیخ احمدیث دارالعلوم حزب الاحیاء لاہور دست برکاتہم العالیہ آپ ہی کے فضل و کمال کے عکس جلیل ہیں، آپ عربی، اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، آپ کے دیوان پنجی کلام پر شاہد ہیں۔

ہندوپاک میں آپ کی خشک تدریسی کاوشوں کی ہدوت بے شمار تلامذہ نے آپ سے علوم دینیہ کی تعلیم پائی، آپ کے صاحبزادگان کے علاوہ چند تلامذہ کے نام یہ ہیں :-

۱. مولانا ارشد علی اوری مرحوم
۲. مولانا کن الدین اوری نقشبندی
۳. مولانا محمد اسلم جلال آبادی
۴. مولانا عبدالمنق ولایتی
۵. مولانا عبدالرحمن ولایتی
۶. مولانا سید فضل شاہ (پنجابی)
۷. مولانا ضیض اللہ شاہ بوتی مردان
۸. مولانا امی اسلم بہا و پوچی
۹. مولانا عبدالقدیم ہزاروی
۱۰. مولانا سید منور علی شاہ
۱۱. مولانا محمد رمضان بوجستانی
۱۲. مولانا غلام محی الدین کافانی
۱۳. مولانا محمد رمضان لسبیدی، سندھ
۱۴. مولانا شفیق الرحمن پشاور
۱۵. مولانا فضل حسین، معین الدین پور، گجرات
۱۶. مولانا عبدالعزیز، الگوں
۱۷. مولانا زین الدین اوری
۱۸. مولانا عبدالقدیم اوری
۱۹. مولانا عبدالرحیم اوری
۲۰. مولانا عبدالجلیل مالدھری

۲۱. مولانا محمد شوٹ ملتانئی۔

۲۲. مولانا محمد زبیر الدین مدظلہ العالی شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ ضویہ لاہور۔

۲۳. مولانا ابوالخیر محمد نور اللہ نسیمی مدظلہ العالی بانی و مہتمم دارالعلوم تحفینہ فریدیہ بصیر پور۔

۲۴. مولانا عبدالعزیز پور سے والا۔

آپ نے فقہانہ تصانیف کا ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے، بعض تصانیف کے نام یہ ہیں :-

۱. تفسیر میزان الادیان (تفسیر سورہ فاتحہ) ۷۔ علامات و بابہ
۲. ہدایۃ الغوی در رد و ردواض
۳. رسول الکلام
۴. تحقیق المسائل
۵. ہدایۃ الطریق
۶. سلوک قادریہ
۷. علامات و بابہ
۸. فضائل رمضان
۹. فضائل شعبان
۱۰. الاستغاثۃ من اولیاء اللہ عن الاستغاثۃ من اللہ
۱۱. دیوان دیدار علی ناری
۱۲. اردو

۲۲ رجب المرجب ۲۰۱۱ کو ۱۳۵۵ھ / ۱۹۳۵ء کو اپنے رب کریم کے دربار میں حاضر ہوئے اور جامعہ مسجد اندرون دہلی دروازہ لاہور میں دفن ہوئے، مولانا ابوالحسنات رحمۃ اللہ نے قلم تالیف وصال کا جس کا تاریخی شعر یہ ہے :-

حافظ ہیں سر کوئی اعدا پر شریعت
دیدار علی یافتہ دیدار حسن را
۱۳ ۵۲

۱۷۔ یہ کتاب بروی رشید احمد گنگوہی سے ہیں جنہی اصل کے سلسلے میں خط و کتابت کا مجموعہ ہے جن میں گنگوہی صاحب عاجز آگئے تھے۔

استاذ العلماء سراج الفقہاء مولانا سراج احمد خان پوری قدس سرہ

سراج الفقہاء حضرت مولانا سراج احمد خان پوری بن حضرت مولانا احمد یار ابن حضرت مولانا محمد عالم (قدس سرہ) ۲۴ ذی الحجہ ۱۳۰۳ھ / ۱۸۸۶ء بروز بوجہ قصبہ بھکن بید مضامینات خان پور (ضلع رحیم یار خاں) میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد اور جد امجد اپنے علاقہ کے مشہور عالم دین اور مفتی تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی پھر چاچا سراج شریف کے مشہور مدرسہ جامعہ فریڈ میں مولانا تاج محمد اور مولانا غلام رسول سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی، فزون کی بعض انتہائی کتب اور حدیث شریف کا درس قصبہ مسند ضلع بہاولپور میں مولانا امام بخش سے لیا اور ۱۳۱۷ھ میں تحصیل علوم سے فارغ ہوئے۔ دس سال کی عمر میں حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ العزیز (م ۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱ء) کے دست حق پرست پر سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں بیعت ہوئے اور فیض و برکات سے مستفید ہوئے۔

آپ نے نوجوانی کے عالم میں تدریس کی ابتداء کی۔ پہلے ایک عرصہ تک قصبہ برہ گبولان (ضلع رحیم یار خاں) میں اور پھر اپنے گاؤں بھکن بید میں شنگان علوم کو سیلاب کیا۔ بعد ازاں چاچا سراج شریف میں موجودہ مجاہدہ نشین حضرت خواجہ فیض فرید زکریا السالی کی تعلیم و تربیت آپ کے سپرد ہوئی جسے آپ نے بطریق حسن انجام دیا۔ کچھ عرصہ دربار قادریہ مجیر حیدری شریف (ضلع سکھر) میں مقیم رہے جہاں مجاہد اسلام حضرت پیر عبدالرحمن قدس سرہ کو پڑھاتے رہے۔ پھر انوار العلوم ملتان میں بھی فرائض تدریس انجام دیتے رہے۔ آخر میں مدرسہ سراج العلوم خان پور میں بحیثیت مدرس اور مفتی عرصہ دراز تک کام کیا۔ آپ نے تقریباً ۷۰ سال علوم دینیہ کا درس دیا اور بیشمار مشتاقان علم کو فیضیاب کیا۔

آپ کے تلامذہ لغت و معنی سے چند تلامذہ کے نام یہ ہیں:

۱. حضرت مولانا خواجہ حافظ عبدالرحمن قدس سرہ (۱۳۸۰ھ / ۱۹۶۰ء) پھر حیدری شریف ضلع سکھر
۲. حضرت مولانا سراج احمد خان پوری قدس سرہ (۱۳۵۰ھ / ۱۹۳۰ء)

۳. حضرت مولانا پیر سید مغفور القادری قدس سرہ (۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰ء) شاہ آباد شریف، گولہی اختیار خاں۔

۴. حضرت خواجہ فیض فرید زکریا السالی، مساجد نشین چاچا سراج شریف۔

۵. حضرت مولانا حافظ سراج احمد مہتمم مدرسہ سراج العلوم خان پور۔

۶. مولانا ابوصالح محمد فیض احمد اویسی مہتمم جامعہ اسلامیہ رضویہ ملتان روڈ بہاولپور۔

۷. مولانا حسن الدین ہاشمی ناظم علماء اکیڈمی لاہور۔

۸. مولانا محمد عبدالغفور الوری مہتمم جامعہ مجددیہ فیض العلوم رے و نڈ۔ (ذخیرہ وغیرہ)

حضرت سراج الفقہاء قدس سرہ نے تدریس کے علاوہ ایک طویل عرصہ تک منصب افتاء کو بطریق حسن انجام دیا۔ آپ کے فتاویٰ آپ کے تبحر علمی کے شاہد عبادت میں، آپ کو علوم فقہیہ خاص طور پر علم میراث پر زبردست عبور حاصل تھا۔ آپ کی تصانیف میں سے الزبۃ السراجیہ فی علم المیقات و امیرت والوصیہ (مطبوعہ) اور سراج الفتاویٰ (غیر مطبوعہ) بلند پایہ علمی کتابیں ہیں۔

ابتداءً بعض اساتذہ کے اثر سے آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ سے حسن استفادہ نہیں رکھتے تھے لیکن الزبۃ السراجیہ کی تصنیف کے دوران ایک مسئلے میں مفتی بہ قول معلوم کرنے کے لئے مختلف مراکز علمیہ سے آپ نے رابطہ قائم کیا مگر کہیں سے تسلی بخش جواب نہ مل سکا، آخر امید کی غریب کڑا امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی صورت میں نظر آئی چنانچہ ان کی خدمت میں بھی استفادہ بھیج دیا۔

اعلیٰ حضرت بریلوی کی طرف سے ایک جملے میں جواب موصول ہو گیا۔ اس شافی جواب نے تمام شکوک و شبہات دور کر دئے اور ہنگامی کی فضا کو کھینچ کر دیا۔ یہ نوتوں کے سوانح سراج الفقہاء مطبوعہ حیدری شریف ملتان اور میں شائع ہو چکا ہے۔

غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید کالپی دامت برکاتہم العالیہ آپ کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے حضرت مولانا سراج احمد خان پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو سراج الفقہاء کا لقب حضرت علامہ کالپی صاحب زکریا السالی نے ہی دیا تھا جو آپ کی علمی ثقافت کی بنا پر نہایت ہی مناسب ہے۔

یہ تذکرہ بھی ترتیب کے مراحل سے گزر رہا تھا کہ ۵ ذوالفقہ المبارک، ۱۲ دسمبر (۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء) بروز منگل گیارہ بجے شب حضرت سراج الفقہار کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال سے علماء و فضلاء کے حلقہ میں وہ غما پیدا ہو گیا ہے جو باسانی پُرنہیں ہو سکتا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ علم و فضل کا ایک دور سمٹ گیا ہے۔

مکرمی جناب حکیم محمد موسیٰ امرتسری مدظلہ العالی نے درج ذیل مادہ ہائے تاریخ وفات

استخراج کئے ہیں :-

فات فاضل	خدادوست سراج احمد	رحلت عالی مراتب
۱۳ ۵ ۹۲	۱۲ ۵ ۹۲	۱۳ ۵ ۹۲

سراج محمد عبدالعظیم شریف قادری، عالم الحرمین، سراج سراج الفقہار (شائع کردہ مرکزی مجلس لاہور)

محدث عظیم پاکستان مولانا محمد سردار احمد چشتی قادری قدس سرہ العزیز

شیخ الحدیث و تفسیر جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا ابو افضل محمد سردار احمد

ابن چوہدری میاں بخش ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۴ء میں موضع دیال گڑھ ضلع گورداسپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم قصبہ دیال گڑھ میں حاصل کی۔ ۱۳۴۳ھ/۱۹۲۴ء میں اسلامیہ ہائی سکول پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ایف اے کی تیاری کے لئے لاہور شریعت لائے۔

انہی دنوں مرکزی انجمن حزب الاحناف لاہور کے زیر اہتمام مسجد وزیر خان میں عظیم الشان مجلس ہوا جس میں پاک بند کے شہادت و علماء و مشائخ کے علاوہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خاں بریلوی بھی شریک ہوئے۔ حضرت شیخ الحدیث حجت الاسلام کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انگریزی تعلیم کو خیر باد کہہ کر مرکز علوم و معارف بریلی شریعت چلے گئے۔ حضرت حجت الاسلام اور مفتی عظیم مولانا مصطفیٰ رضا خاں بریلوی سے استفادہ کیا اور آٹھ سال تک صدر الشریعہ مولانا حکیم امجد علی مصنف "بہار شریعت" کی خدمت میں رہ کر جامعہ عینیا جیمہ شریعت سے سند فراغت حاصل کی۔ زمانہ قیام جمیر

۱۳۵۵ھ/۱۹۳۵ء کو مسجد وزیر خان جمیر میں چنانچہ انھوں نے اس میں اجلاس کی طرف سے حکام مولانا حامد رضا خاں بریلوی اور مولانا بھنگو کھنکھنک کی طرف سے مولوی شرف علی خاں اور مولانا سید محمد ہوشیار نے تاکہ اختلافات میان ان میں ناخوار و کج زبانوں کی فتنہ زدہ عبارات پر فیصلہ کر کے گفتگو کی جائے۔ جلسہ کی نظامی سہولتوں سے ۱۵ بجے آئے جبکہ جمعہ ایک بند کے طور پر جلسہ کا چرخیوں پر پھانچ چکا تھا اور حضرت حجت الاسلام ہی شریعت نے آئے تھے۔ اس موقع پر سب

اجلاس و جمعیت کی حیثیت کا زبردست مظاہرہ ہوا۔ آخری فیصلہ کن ہر کام تلخ و مصلحت پسند ۱۹۳۴ء میں اس اجلاس کی شہرت کی بنا پر ذہن میں یہ خیال راسخ تھا کہ یہی وہ اجلاس تھا جس میں مولانا سردار احمد قدس سرہ حضرت حجت الاسلام کے ساتھ بریلی شریعت لائے گئے تھے۔ مولانا جمال الدین قادری لکھنؤ کے توجہ دلانے پر فوراً متعین ہو گیا کہ یہ اجلاس ۱۹۲۶ء میں ہوا تھا۔

سکے محمد فضل کوٹھی، مولانا نائیب اعلیٰ حضرت (جامعہ قادریہ ناگ پور) ص ۶-۷

شریف میں حضرت مولانا سید امیر اجیری سے بھی استفادہ ہونے لے
 آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت شاہ محمد سراج الحق حشتی کے دستِ اقدس پر
 بیعت ہوئے اور خلافت سے مشرف ہوئے اور سلسلہ قادریہ میں شاہزادہ اعلیٰ حضرت
 بریلوی حضرت حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خاں بریلوی سے فیض یاب ہوئے لے
 تکمیلِ علوم کے بعد پانچ سال تک جامعہ رضویہ نظر اسلام بریلی شریف میں تشنگان
 علوم کو سیراب فرمایا، پھر جامعہ رضویہ نظر اسلام بریلی میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے
 اور علم حدیث کی گرانقدر خدمات انجام دیں۔ اس دور میں بے شمار اہل علم نے آپ سے
 فیض حاصل کیا لے

قیام بریلی شریف کے دوران حضرت قبلہ شیخ الحدیث مولانا سردار احمد قدس سرہ
 نے مشہور ویڈیو کنفرانس مولانا منظور احمد نعمانی سے حفظ الایمان (از مولوی اشرف علی تھانوی)
 کی شوگستان خانہ عبارت پر ۲۰ محرم ۲۵، اپریل (۱۳۵۴/۱۹۳۵ء) کو کامیاب مناظرہ کیا
 یہ مناظرہ چار دن جاری رہا اور فریقین مخالفت کو زبردست شکست ہوئی، چونکہ دن مولوی
 منظور احمد نعمانی نے بے باکی کی انتہا کر دی اور کہا:

”میں خانہ کو بدعت کہتا ہوں اور محرم کی سبیل لگانے اور محرم میں
 دو دھ یا شربت پلانے کو حرام کہتا ہوں اور اس وجہ سے میں کم بخت
 ہوں تو میں ایسا کم بخت ہی اچھا ہوں، میں بھی بھوکھو کھتا ہوں اور میرے
 آقا محمد رسول اللہ بھی بھوکھو کھتے تھے، جو حشر میرا وہ ان کا“ ۵۵
 (العیاذ باللہ تعالیٰ)

۵۵ مولانا سرسری، تحفہ اہل سنت، مولانا سید امیر اجیری، منیہ، حرم جلالی، ۱۹۷۲ء، ص ۳۰
 ۵۶ مولانا سرسری، عاشق رسول، مکتبہ سعادت لاہور، ۱۹۶۳ء، ص ۱۰
 ۵۷ ایوانِ حسان، محدثِ اعظم پاکستان، ادارہ علمیہ لاہور، ص ۸
 ۵۸ مولانا سرسری، سلسلہ بریلی کی مصلحت دہنیدار، نوری کتب خانہ لاہور، ص ۲۶
 ۵۹ ایضاً، ص ۳۹

تقسیم ملک کے بعد پاکستان شریف نے آئے کچھ عرصہ وزیر آباد اور سارو کی میں
 قیام فرمایا۔ ۱۳۶۸ھ/۱۹۴۸ء کے اواخر میں لاہور شریف نے آئے اور بے سرو سامانی
 کے عالم میں درس حدیث دینا شروع کیا اور جامعہ رضویہ نظر اسلام کی بنیاد رکھی لے اور
 چودہ سال کے مختصر عرصے میں لاہور کی کایا پلٹ دی۔ اس وقت سے جگہ جگہ سے صلوات و
 سلام کی روح پرورد صدماتیں سنائی دیتی ہیں، ہزاروں افراد حلقہ ارادت میں داخل ہوئے
 سینکڑوں علماء آپ سے درس حدیث لے کر پاکستان کے گوشے گوشے تک دیگر
 ممالک میں بھی دینی منتیں کی تبلیغ میں مصروف ہیں، جامعہ رضویہ نظر اسلام لاہور کو عظیم دینی
 درس گاہ اور لاہور کی سب سے بڑی مسجد سنی رضوی جامع مسجد آپ کی عظمت کی یادگار
 اور گواہ ہیں۔ ۱۹۴۵ء میں حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خاں بریلوی کی معیت میں
 حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے، دوسری مرتبہ ۱۳۷۶ھ/۱۹۵۶ء میں اس
 سعادت سے مشرف ہوئے لے لیکن پابندی کے باوجود تصویر نہیں بنوائی۔
 حضرت قبلہ شیخ الحدیث پیکرِ اخلاق، سراپا شفقت، باوقار، باعرب اور پرکشش
 شخصیت تھے، علوم و فنون کے بحر بے پایاں، زبردست مناظر اور باکمال محدث تھے۔
 انہیں سرورِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، اسی بے پناہ محبت و
 عقیدت کا اثر تھا کہ ان کا ہر قول و فعل شریعت و سنت کے مطابق ہوتا تھا، سیدنا
 غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی محبت و عشق کی حد تک
 پہنچی ہوئی تھی، چونکہ فوٹو کے بغیر بیرون ملک جانے پر پابندی تھی، اس لئے پاکستان آکر
 بے انتہا آرزو کے باوجود نہ بغداد شریف گئے اور نہ بریلی شریف۔

آپ کا عطا اس قدر پراثر ہوتا تھا کہ سخت سے سخت دل بھی متاثر ہوئے بغیر نہ
 رہ سکتا تھا، آپ کے مخالف لوگوں نے آپ کے خلاف مخالفوں کے طوفانِ اٹھائے مگر

۵۹ مولانا سرسری، عاشق رسول، مکتبہ سعادت لاہور، ۱۹۶۳ء، ص ۱۰

۵۸ ایضاً، ص ۲۵

آپ کے پاسے استقلال میں لغزش نہیں آئی آپ نے تمام عمر علوم دینیہ اور خاص طور پر حدیث شریف کی خدمت اور وعظ و ارشاد کے ذریعہ عوام کے دلوں کو حسب نبوی سے منور کرنے میں صرف کی اس لئے تصنیف و تالیف کا موقع نہیں ملا تاہم چند تصانیف یادگار ہیں۔

۱۔ اسلامی قانون وراثت۔

۲۔ تبصرہ مذہبی (علامہ شرنی کے تذکرے پر تبصرہ)۔

۳۔ مرزا مردہ سے یا عورت؟ (درو مرزائیت)

۴۔ موت کا پیغام دیوبندی مولویوں کے نام۔

حضرت قبلہ شیخ الحدیث مولانا سرور احمد قدس سرہ کی شخصیت اس قدر پرکشش تھی کہ ایک دفعہ حاضری دینے والا ہمیشہ کے لئے دام محبت و عقیدت میں گرفتار ہو جاتا، کوئی دیوبندی علماء آپ کے درس حدیث میں شامل ہوتے اور آپ کی زبان مبارک سے مسلک اہل سنت کے زور داروں کو لے کر اس قدر تازہ ہوتے کہ بد عقیدگی سے تائب ہو کر مسلک اہل سنت کے مبلغ بن گئے آپ کے سیکھوں کو تلامذہ کا شمار کرنا مشکل ہے۔ آخری سالوں میں سنی فراغت حاصل کرنے والوں کی تعداد سو سے متجاوز ہو جا کر تھی چند ممتاز تلامذہ کے نام یہ ہیں۔

۱۔ مولانا غلام رسول لاہوری مظاہر العالی شیخ الحدیث جامعہ رضویہ لاہور۔

۲۔ علامہ عبدالمصطفیٰ ازہری ایم۔ این۔ اے شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ کراچی۔

۳۔ مولانا وقار الدین تلامذہ نائب شیخ الحدیث۔

۴۔ مولانا مفتی محمد عبدالقدیم ہزاروی مظاہر، ناظم اعلیٰ دارالعلوم جامعہ مظاہر رضویہ لاہور۔

۵۔ مولانا ابوداؤد محمد صادق مظاہر، مدیر ہائے مدرسہ مظاہر رضوانیہ مظاہر گوجرانواری۔

۶۔ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی تلامذہ۔ انڈیا۔

۷۔ مولانا محمد صابر القادری نسیم بستوی،

۸۔ مولانا مفتی محمد مجیب الاسلام عظیمی، انڈیا

۹۔ مولانا علامہ عبدالرشید جھنگوی۔

۱۰۔ مولانا علامہ ابوالحسنات محمد شرف چشتی سیالوی شیخ الحدیث سیال شریف۔

۱۱۔ مولانا علامہ اللہ بخش رحمان اللہ تھانے (وال بھراں)

۱۲۔ مولانا سید جلال الدین شاہ (بھکھی شریف)

۱۳۔ مولانا ابوالاعلیٰ محمد حسین الدین شافعی ناظم اعلیٰ جامعہ قادریہ لاہور۔

۱۴۔ مولانا محمد ابراہیم خوشتر مبلغ اسلام مارشس۔

۱۵۔ مولانا ابوالشاه محمد عبدالقادر شمسید لاہوری قدس سرہ

۱۶۔ مولانا محمد شریف قتانی شیخ الحدیث مظہر العلوم مٹان۔

۱۷۔ مولانا عنایت اللہ، مناظر اہل سنت (ساگلہ ہل)

۱۸۔ مولانا اہوان نور محمد مختار احمد لاکھ پوری۔

۱۹۔ مولانا سید زاہد علی شاہ ناظم اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ لاہور۔

۲۰۔ مولانا سید منصور شاہ مدرس جامعہ رضویہ لاہور۔

۲۱۔ مولانا فیض احمد ویسی شیخ الحدیث جامعہ ویسیہ بہاولپور۔

۲۲۔ مولانا مفتی محمد حسین سکھروی ایم۔ پی۔ اے۔

۲۳۔ مولانا مفتی محمد امین مہتمم جامعہ مینیہ لاہور۔

۲۴۔ مولانا حافظ احسان الحق صدر مدرس جامعہ مینیہ لاہور۔

۲۵۔ مولانا سید حسین الدین شاہ ناظم اعلیٰ ضیاء العلوم جامعہ رضویہ راولپنڈی وغیرہم۔

آئندہ صفحات میں حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ کے ایک مکتوب کا عکس دیا جا گا

ہے جس میں انہوں نے مولانا اللہ بخش رحمان اللہ تھانے (جو ان دنوں جامعہ مظاہر

رضویہ لاہور میں مدرس تھے) کے لئے یہ دعائیہ کلمات لکھے ہیں۔

مولے عزوجل آپ کو مدارج علیا عطا فرمائے اور خدمتِ درس

تدریس و خدمتِ خطابت و امامت و خدمتِ مذہب اہل سنت

میں خوب ترقی و قبولیت عطا فرمائے، آمین

یقیناً حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ کی یہ کرامت تھی کہ اس دعا کا ایک ایک لفظ

مولانا الشہ عجبش رحمتاً اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ظہور پذیر ہوا۔

یکم شعبان المعظم ۲۹ دسمبر ۱۹۶۲ء کو درمیانی شب (۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء) کو

کراچی میں وصال فرمایا۔ جسے مبارک شاہین ایکسپریس کے ذریعے لاہور لایا گیا اور کراچی سے

جامعہ رضویہ مکہ استے میں ہزار ہا افراد نے دیکھا کہ جنازے پر نور کی چھوڑ پڑ رہی ہے

حالانکہ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ آپ کی نماز جنازہ میں تین لاکھ افراد نے شرکت

کی آپ کا مزار سنی رضوی جامع مسجد لاکھ پور میں مرجع خلافت ہے۔

حضرت مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خاں بریلوی امامت برکاتہم العالیہ

نے پُرورد احساسات کو منظوم فرمایا ہے

کیا کہوں میں ہلکے کیا جاتا رہا

شقیوں کا دل نہ بیٹھے کس طرح

موت عالم کی جہاں کی موت ہے

اس زمانہ کا محدث بے مثال

مولوی سردار احمد اٹھ گئے

غوث اعظم قطب عالم کا غلام

حضرت صدر الشریعہ کا وہ چاند

- تاریخی شعر ملاحظہ ہوں -

مر گیا فیضان جس کی موت سے

ہائے وہ "فیض انما جاتا رہا"

یا حبیبِ اعظم! تاریخ ہے کس پرس وہ رہنا جاتا رہا

دیو کا سر کاٹ کر نوری کہو

چاند روشن علم کا حباب تار رہا

خطیبِ پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی مدظلہ نے تاریخ وصال کی ہے

سید سردار ما دارت علوم مصطفیٰ

نائب احمد رضا اللہ سے واصل ہوا

آپ کے تین صاحبزادے اس وقت تشریف فرما ہیں،

(۱) صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول رضوی مدظلہ سجادہ نشین

(۲) صاحبزادہ قاضی محمد فضل احمد مدظلہ

(۳) صاحبزادہ قاضی محمد فضل کریم

قوم کے سردار پاکستان کے شیخ الحدیث

جے ٹری ذات گرامی لائق صد احترام (عزیز صاحبزادی)

مدظلہ صاحبزادہ نوری کن بریلی شریعتی، محدث اعظم پاکستان، ۱۰ دسمبر ۱۹۶۲ء، ص ۸

مدظلہ، ہمارے مصطفیٰ گوجرانواریہ - افسوس کی کہ ۲۱ رجب ۱۴۰۲ھ یا اپریل ۱۹۸۱ء کو

خطیبِ پاکستان کا وصال ہو گیا۔

مدظلہ عزوجل مولانا، الباقیت المرید، ص ۸۵

۱۹۱۱ء میں ہوا باقی فرصت کے دوران فقیر کا رہتی رہی۔ مولانا غلام
 ایک صدی سے علم کی ازبک اور خدمت دہلی و دیگر خدمت خلیفہ
 راہت و خدمت مذہب و ملت ہند سے فخر و ترقی و ترقی کے لئے
 میں جہاں کہیں کہ کام کرنا تھا وہاں پہنچا اور ہندوستان کے ہر
 سے خوب محنت کر کے اور ہندوستان میں ہر جگہ سے ہندوستان
 میں ہندوستان کے ہر گوشے میں ہندوستان کے ہر گوشے میں ہندوستان
 و بارگاہ فقیر کی طرف سے ہندوستان کے ہر گوشے میں ہندوستان
 عزیزان مولانا غلام علی قاسمی اور مولانا غلام علی قاسمی
 فروغیت۔ خوب محنت سے ہندوستان کے ہر گوشے میں ہندوستان
 مذہب و ملت ہند کے ہر گوشے میں ہندوستان کے ہر گوشے میں ہندوستان
 خلیفہ کو محنت سے ہندوستان کے ہر گوشے میں ہندوستان
 مدینہ و خلیفہ مذہب و ملت ہند کے ہر گوشے میں ہندوستان
 خلیفہ مذہب و ملت ہند کے ہر گوشے میں ہندوستان کے ہر گوشے میں ہندوستان
 خلیفہ مذہب و ملت ہند کے ہر گوشے میں ہندوستان کے ہر گوشے میں ہندوستان
 خلیفہ مذہب و ملت ہند کے ہر گوشے میں ہندوستان کے ہر گوشے میں ہندوستان

فخر السادات حضرت مولانا پیر سید محمد اسرار احمد شاہ قادری قدس سرہ (گرمی اختیار خاں)

حضرت مولانا سید مراد احمد ابن حضرت پیر سید محمد جعفر شاہ قدس سرہ ۱۳۰۲ھ /
 ۱۸۸۵ء میں گرمی اختیار خاں (ضلع رحیم خاں) میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب شیخ الشیوخ
 حضرت سید عثمان مرندی المعروف لال شہباز قلند زکیم پختا ہے۔ آپ کے جد امجد شکار پور سید
 سے منتقل ہو کر سابق ریاست بہاولپور میں آئے۔ آپ کے والد ماجد جو اپنے دور کے مشہور ولی اللہ
 تھے، خواہن گرمی کے اصرار پر گرمی اختیار خاں میں تشریف لائے اور وہاں ان کے توسط سے
 ایک شاہی عالم اور قاضی وقت کے گھر آپ کا عقیدہ مسنون ہوا، مشہور زمانہ خطیب و مقرر
 مولانا محمد یار گرمی دئے آپ کے خاندان بھائی تھے۔

حضرت مولانا سید مراد احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد اپنے
 علاقہ کے مشہور علماء سے عربی و فارسی کی مروجہ کتابیں پڑھیں۔ آخری کتابیں اس علاقہ کے نامور
 عالم مولانا محمد حیات سے پڑھیں تکمیل علوم کے بعد غوث وقت حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ
 قدس سرہ (بچہ جوڑی شریف) کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور غور سے ہی عرصہ میں
 خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کی فضیلت علمی کے پیش نظر شیخ و مرشد کے صاحبزادے
 حضرت مولانا پیر عبدالرحمن تعلیم و تربیت کے لئے آپ کے سپرد کئے گئے، حضرت پیر عبدالرحمن
 قدس سرہ کی دینی و ملی خدمات اور تحریک پاکستان میں تاریخی کردار آپ ہی کے فیض تربیت
 کا نتیجہ تھا۔

آپ کو عربی، فارسی، سندھی اور مراکھی زبانوں پر یکساں قدرت حاصل تھی، عربی میں
 اہل سان کی طرح گفتگو کرتے تھے، عربی اور فارسی ادب کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پیش نظر
 تھا، اشعار محاورات اور ضرب الامثال کے بر عمل استعمال سے آپ کی وسعت نظر کا اندازہ تو
 تھا، خوشنویسی میں کمال رکھتے تھے، آپ کی مجلس علم و ادب اور فقر و ورثی کا بہترین نمونہ ہوتی
 تھی، آپ کی سادہ مگر پُر اثر تقریر عوام و معارف اور غلط و نصیحت کا گنجینہ ہوتی تھی، مشہور

خطیب حضرت مولانا محمد یار قدس سرہ فرماتے تھے کہ حضرت اگر آپ دعا و تقریر میں حصہ لیتے تو مجھے کوئی پوچھتا آپ اپنے دور کے نامور اور قادر الکلام شاعر تھے، آپ کی نعتیں اور کافیاں آج بھی ہندو پڑ کے گوشے گوشے میں ذوق و شوق سے پڑھی اور سنی جاتی ہیں۔

آپ کو تفسیر حدیث، فقہ، کلام، تصوف، جغرافیہ، نجوم اور ہندسہ وغیرہ علوم میں پر دست مہارت تھی، آپ نے رشد و ہدایت اور بندوبست کی مصروفیات کے باوجود چند عالمانہ تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن تصانیف کا پتہ پل سکا وہ یہ ہیں:

مجموعہ کلام، جس میں عربی، فارسی، سنسکرت اور سندھی میں آپ کا کلام ہے، جعفر و نجوم پر مختصر عربی ہمارے تصوف کی مشہور اصطلاحات کی تشریح میں مختصر رسالہ (فارسی) اس کے علاوہ بعض علمی مضامین، فٹ نوٹ اور یادداشتیں ہیں جو سینکڑوں مسائل پر مشتمل ہیں۔

آپ کے مریدین اور علمی و روحانی فیض یافتہ حضرات سابق ریاست بہاولپور اور سندھ کے دور دراز علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔

۱۱ شعبان المعظم ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۱ء کو مختصر علالت کے بعد باہمی ملک بقا ہوئے، آپ کا مزار پرانوار شاہ آباد شریف گروہی اختیار خاں (ضلع رحیم یار خاں) میں زیارت گاہِ خلافت ہے۔ آپ کے بعد آپ کے اکلوتے صاحبزادے علی القدر عالم، نامور ادیب و شاعر مولانا سید مفتوح القادری رحمت اللہ تعالیٰ (م ۱۳۹۰ھ/۱۹۶۹ء) جانشین ہوئے، ان دنوں آپ کے پوتے فیض نوجواں جناب صاحبزادہ سید محمد فاروق القادری مدظلہ مسند نشین ہیں، در طریق اسلاف پر عمل پیرا ہیں۔

۱۲ تمام نعتیں کے مجموعہ موجود ہے۔

زبدۃ الاصفیاء مولانا سلطان اعظم قادری قدس سرہ

استاد الافاضل شیخ حضرت زینت مولانا سلطان اعظم ابن میاں غلام نبی موضع چیمپڑ شریف ضلع سرگودھا میں پیدا ہوئے، فارسی، صرف اور نحو کی ابتدائی کتابیں موضع بھرتہ میں پڑھیں بعد ازاں اہل سنت کے مقتدر فاضل مولانا غلام محمد قدس سرہ (پہلاں ضلع میانوالی) کی خدمت میں پانچ سال تک حاضر رہے اور تمام کتب کی تکمیل کی، پھر مولانا غلام رسول (اٹلی ضلع گجرات) کے پاس رہ کر تین سال میں تمام کتب کا سماع کیا، دورہ حدیث دیوبند میں مولانا نور شاہ کاشمیری سے پڑھا حضرت سلطان نور احمد قدس سرہ (یکے از اولاد حضرت سلطان باجوہ قدس سرہ) کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے۔

آپ کی والدہ ماجدہ نہایت پرہیزگار خاتون تھیں چیمپڑ شریف کی انیازمی خصوصیت یہ ہے کہ آج بھی وہاں کی اکثر عورتیں حافظہ قرآن ہوتی ہیں، آپ کی ولادت سے پہلے انہوں نے مسلسل بارہ سال تک روزے رکھے، ایسے ماحول میں پرورش پا کر جب سلسلہ عالیہ قادریہ کے فیوض و برکات سے مستفیض ہوئے تو طبیعت میں تقویٰ و طہارت اور عبادت و ریاضت کے جذبات بدرجہ اتم پیدا ہو گئے، آپ کا معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد اشرق تک درادہ و ظالمت پڑھتے، درود کبریٰ ہمیشہ کبریا پڑھتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اس درود شریف کی برکت سے مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار تک رسائی ہوئی۔ نماز اشرق کے بعد علوم دینیہ کا درس دیتے، نماز ظہر کے بعد بھی سلسلہ تدریس جاری رہتا، نماز عصر کے بعد قرب و جوار سے آنے والے شرعی استفسارات حل فرماتے، آپ کا معمول تھا کہ ہر ماہ حضرت سلطان باجوہ قدس سرہ کے مزار انور پر حاضر می دیتے اور سفر میں بھی، بس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا، کئی دفعہ عالم سیاری میں حضرت سلطان باجوہ قدس سرہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

آپ نے کم و بیش ۵۰ سال تک علوم دینیہ کی تدریس فرمائی، اکثر کتابوں میں آپ کی خصوصی تقریرات ہوتی تھیں جو دیگر سائڈ کے ان نہیں ملتی تھیں، آپ کے تلامذہ کی فہرست بہت حویل

ہے، مردست جو حضرات معلوم ہوئے ان کے اسما پیش کئے جاتے ہیں۔

۱۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی مدظلہ العالی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریعت، ضلع سرگودھا۔

۲۔ حضرت مولانا ابوالمنان محمد شرف سیالوی مدظلہ، شیخ الحدیث خیار شمس الاسلام سیال شریعت (ضلع سرگودھا)۔

۳۔ مولانا محمد حسین شوق، پپلان، ضلع میانوالی۔

۴۔ مولانا شہناز خان مرحوم۔

۵۔ مولوی غلام حسین دیوبندی، واں پھراں

۶۔ مولوی غلام حسین دیوبندی، ڈیرہ اسماعیل خان

۷۔ مولوی داہد بخش، کوٹ مٹھن شریعت۔

۸۔ مولوی خدابخش، موضع کفری، ضلع سرگودھا۔

۹۔ مولوی شمس الدین، ربانہ

۱۰۔ مولوی غلام قادر، پنج گرائیں، بھکر ضلع میانوالی (دیگریم)

مولانا سلطان اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ مسلک اہل سنت کے تحفظ کے لئے مختلف مناظروں میں شریک ہوئے، موضع ڈوکری تحصیل خوشاب میں ایک مناظرہ ہوا جس میں دیوبندیوں کی طرف سے مولوی حسین علی، مولف بلفہ العیران (واں پھراں، میانوالی) اور مولوی فضل کریم بندا یوی مناظر تھے جب کابل سنت کی طرف سے مولانا سلطان اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ استاذ العلماء، مولانا یار محمد بندا یوی، مولانا علامہ غلام محمد (پپلان، ضلع میانوالی)، مولانا قطبی شاہ (ملتان شریعت) اور مولانا نور محمد کندیاں، تشریف لائے اس مناظرہ میں اللہ تعالیٰ نے اہلسنت کو فتح میں عطا فرمائی۔

مولانا سلطان اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب کرامت بزرگ تھے، مولانا عطا محمد چشتی خطیب جامع مسجد آڈہ لاریاں (خوشاب) نے تباہ کریم سے دانت میں شدید درد تھا، کانی علاج معالجہ کے باوجودفاقہ نہ ہوا، اتفاقاً حضرت مولانا سلطان اعظم رحمہ اللہ سے گاؤں موضع کندہ

(تحصیل خوشاب) تشریف لائے، میں نے حاضر ہو کر اپنی تکلیف بیان کی، آپ اس وقت کچھ چھہ رہے تھے، اسی طرح دم فرمایا، درد فوراً کا فورہ ہو گیا، آج اس واقعہ کو پندرہ سال گزر چکے ہیں پھر کبھی وہ تکلیف نہیں ہوئی۔

آپ بعض متقدمین کے اصحاب پر موضع موسیٰ والا (مضافات پپلان) میں مقیم ہو گئے تھے ماہ صفر المظفر ۱۳۸۴ھ/۱۹۶۷ء میں آپ کا وصال ہوا اور موسیٰ والا میں مجرا ستراحت ابدی ہوئے آپ کے فرزند ارجمند مولانا محمد انور زبیر مجددہ جانشین ہیں۔

سلطہ یہ حالات مولانا محمد عبداللہم ہزاروی سلمہ کے ذریعے انہی سے حاصل ہوئے۔

عارفِ کامل حضرت مولانا قاضی سلطان محمود اعوانی قدس سرہ العزیز

غریب نواز حضرت مولانا قاضی سلطان محمود ابن حضرت غلام نوث ابن حضرت غلام مصطفیٰ ۱۲۵۶ھ / ۱۸۴۰ء کو اعوان شریف (ضلع گجرات) میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے مختلف مقامات مثلاً حاجی والا (گجرات) لکھنؤ (تحصیل کھاریاں)، پٹنہ (گجرات)، موضع کدھتی تھوڑا محمد خان، چکی، نورگشتی، پشاور وغیرہ میں تشریف لے گئے اور پچیس پچیس سال کی عمر میں علوم کی تکمیل کر لی، تجربی کا عالم تھا کہ ہر فن کا ایک فن زبانی یاد تھا، خطاطی میں بے مثال تھے، موافق و مخالف آپ کی عظمت کے معترف تھے۔

۱۲۸۲ھ / ۱۸۶۴ء میں تکمیل علوم کے بعد حضرت اخوند عبدالغفور قدس سرہ کی خدمت میں سید و شریف (سوات) حاضر ہوئے حضرت اخوند صاحب نے آپ کی دستار بندی فرمائی حضرت قاضی صاحب آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے اور کچھ عرصہ بعد سلسلہ عالیہ قادریہ میں اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے، ان کے علاوہ حضرت شاہ دولہ (گجرات)، حضرت پیرے شاہ غازی اور دیگر بزرگان دین سے فیضِ باطنی حاصل کیا اور درجہ کمال حاصل کیا آپ نے طویل عرصہ تک کتبِ درسیہ کا درس دیا اور اربابِ شوق کو فیضِ باطنی سے نوازا۔ آپ زبردست فاضل تھے۔ آپ نے شرح چینی اور منطق و فلسفہ کی بعض کتابوں پر محققانہ حواشی تحریر فرمائے جو ابھی تک جن نہیں ہو سکے۔ آپ کے تلامذہ اور خلفاء میں نامور علماء اور مشائخ گزر رہے ہیں، چند خلفاء کے نام یہ ہیں :-

- ۱۔ حضرت صاحبزادہ محبوب عالم مظاہر العالی (ابن حضرت قاضی صاحب ممدوح)
- ۲۔ مولانا عبدالرزق ساکن پنڈی سر ڈال (ضلع کیمیل پور)
- ۳۔ مستری احمد بخش ساکن رتہ امراں (راولپنڈی)
- ۴۔ ماسٹر مول بخش امرتسری

۵۔ مولانا سراج الدین لاہوری

۶۔ سائیں چپ شاہ کیمبل پوری وغیرہم

یکم شعبان المعظم ۱۲۸۳ھ (۱۹۱۹ء) کو عالمِ قدس کی معرفت رحلت فرمائی،
 "قبلہ نا قاضی سلطان محمود" (۱۳۳۷ء) تاریخ وصال ہے۔

نواب معشوق یار جنگ نے "مقامات محمود" کے نام سے آپ کی سوانح عمری لکھی ہے۔

۱۔ یہ تمام حالات مقامات محمود سے ماخوذ ہیں، یہ کتاب ۱۹۶۴ء میں مشتاق احمد پال، بیہوشی جہلم شہر نے شائع کی، کل صفحات ۶۸ ہیں۔

پیر خرابات حضرت خواجہ سنار اللہ خراباتی قدس

پیر خرابات حضرت خواجہ سنار اللہ خراباتی قدس سرہ ۱۸۰۹/۱۲۲۴ء میں بمقام سنگاہ جناب بلذیر (سرنگی) میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ کا سلسلہ نسب عارف باللہ حضرت عبدالرحمن بلبل شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ آپ کے نام حضرت سید عبدالغفور شاہ اپنے زمانہ کے بالکمال بزرگ تھے انہوں نے باطنی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کو رذگری کا فن بھی سکھایا چنانچہ آپ ۱۸۴۲/۱۲۵۸ء تک رذگری کا کام کرتے رہے، اس کے ساتھ آپ کو تجارت کا بھی شوق رہا، اس سلسلے میں ایران، کابل اور گلگتہ جانے کا اتفاق ہوا۔ بچپن میں ایک بچے نے کھیلنے ہو پہنچ کر پتھر دے مارا جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ آپ کے نام حضرت سید عبدالغفور شاہ کو پتہ چلا تو ڈرتے ہوئے آئے اور انہیں اپنے ساتھ چھٹا لیا، پھر بارگاہ ایزدی میں دعا کی نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو حیات نو مل گئی ہے۔

حضرت خواجہ سنار اللہ کی تحریرات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی مدرسہ میں نہیں پڑھے وہ اپنی اصطلاح میں ناخواندہ تھے لیکن ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ علم و فضل کے بحر زخار تھے، انہیں جو کچھ حاصل ہوا وہ بزرگان علم و ادب اور خاص طور پر آپ کے نام سید عبدالغفور شاہ کی مجلس کا فیض تھا قدرت نے فیض سے ان کے علم و عرفان کے اسباب اہم کر دیے تھے۔ خواجہ صاحب کثیر لسانی، فارسی، عربی، اردو، ترکی اور پنجابی زبانوں سے اچھی طرح باخبر تھے۔ نجوم، جندہ، ہیئت، قیافہ شناسی، تعبیر و عرص، اخلاقی، طبقات، کیمیا، طب، فقہ، تجوید، انساب، رجال، صرف و نحو، معانی، بیان وغیرہ علوم میں سترس رکھتے تھے۔ آپ سلسلہ قادریہ میں اپنے ناما سید عبدالغفور رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت

لے قرشی محمد حسن قلداری، پیر خرابات، معلوم رپڑ ۱۹۰۰ء ص ۱۶-۱۵

لے محمد حسن، قرنتی، پیر خرابات، معلوم رپڑ، تحقیقات فارسی ایران، کتب خانہ اولیٰ ۱۹۲۲ء ص ۵۰

اور مجاز تھے، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں بے پناہ عقیدت تھی جس کا انہماک انہوں نے مختلف قصائد اور متعدد کتب میں کیا ہے۔

تجارت کے سلسلے میں آپ کو مختلف مقامات کی سیر کا موقع ملا، اس دوران آپ نے بہت سے مشائخ کی خدمت میں حاضری دی اور استفادہ کیا چنانچہ سب سے پہلے اپنے ناما سید عبدالغفور شاہ رحمہ اللہ علیہ سے مستفیض ہوئے بعد ازاں شاہ محمد صادق کے مرید ہوئے اور تیس سال تک ان سے کسب فیض کیا، اس کے بعد لاہور میں وارد ہوئے اور حضرت میاں میر قدس سرہ کے فیضانِ صحبت سے بہرہ ور ہوئے، پھر تجارت کے لئے گلگتہ گئے اور حضرت عبدالوہاب کی مجلس میں حاضری کا موقع ملا، وہاں سے وارڈ کشتیہ ہوئے اور حضرت طیب سے فیضِ صحبت حاصل کیا، پھر کابل گئے اور حضرت شاہ قلندر سے روحانی برکات حاصل کیں، حضرت غلام الدین خراسانی سے بھی کتبِ رشد و ہدایت کیا حضرت شاہ دولہ خراباتی سے روحانی طور پر استفادہ کیا نیز یہ کہ حضرت پیر خرابات نے پوری کوشش کی کہ جہاں سے بھی انوارِ معرفت حاصل ہو سکیں حاصل کئے جائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بزرگان دین کی کیمیا اثر نگاہ نے آپ کو کندہ بنا دیا۔

اس سیر و سیاحت سے واپس آئے تو آپ کے علاقے میں بہت بڑا سیلاب آیا، مجبوراً نقل مکانی کر کے نیا بازار متصل شیر دروازہ (جہوں) میں آکر مقیم ہو گئے۔ ایک دن اتفاقاً سر بازار ہمارا جگلاب سنگھ سے ملاقات ہوئی، اسے گلگتہ سے معلوم ہوا کہ آپ متعدد علوم و فنون میں یدِ طولیٰ رکھتے ہیں تو بڑا متاثر ہوا اور آپ کو ترشہ خانہ کا انچارج مقرر کر دیا، جہوں میں آپ محمد جیو کے ہم سفر ہوئے، اس زمانے میں دور دراز کی سیر و سیاحت کی اور ایک طویل زمانہ تک اپنے فرائض بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔

۱۲۴۱/۱۸۵۴ء میں ہمارا جگلاب کے قین و زریوں نے آپ پر غبن کا الزام لگایا، ہمارا جگلاب

لے محمد حسن، قرنتی، پیر خرابات، معلوم رپڑ، تحقیقات فارسی ایران، کتب خانہ اولیٰ ۱۹۲۲ء ص ۵۰

لے محمد حسن، قرنتی، پیر خرابات، معلوم رپڑ، تحقیقات فارسی ایران، کتب خانہ اولیٰ ۱۹۲۲ء ص ۵۰

نے تحقیق کے بغیر آپ کو قطعاً ہی پرست میں قید کر دیا، ایک بصر بعد ایک دوست کی وساطت سے ربانی پاکر پنجاب کی طرف چلے گئے، جان نذر، امر تسرا اور سیالکوٹ میں مختصر مدت قیام کرتے ہوئے جلال پور جٹان کو مقیم ہو گئے اور تاحیات یہیں رہے۔ لہٰذا یہاں آپ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا، غلغلی خدا کی عبادت و تربیت پر خاص طور سے توجہ دی، منگو قائم کیا جہاں سے نہ صرف غرابا، فقرا اور مسافروں کو کھانا مہیا کیا جانا بلکہ ضرورت مندوں کو لباس تک مہیا کیا جاتا، دنیاوی مال اسباب کو خاطر میں نہ لاتے بلکہ جو کچھ ہوتا، راہ خدا میں صرف کر دیتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آج کی روزی اور کل کی روزی کل عطا فرمائے والا ہے۔ وضو کے لئے صرف ایک لٹا رکھا ہوا تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ ایک دفعہ آپ کے مرید خاص خواجہ نظر محمد نے بازار سے سونے کا ایک زیور خرید لیا، آپ کو بیٹہ چلا تو بہت بڑا مہلا کھا اور فرمایا :-

”میرے پاس جو کچھ تھا میں نے جھاڑو دے کر سب نکال باہر کیا
تم اسے دوبارہ گھراتے ہو، جتنا جلد ہو سکے اسے فقیروں میں تقسیم
کر دو“ لے

حضرت خواجہ غرابانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے ذہن رسا اور بلند فہم سے نوازا تھا، آپ کے قلم میں ہلاکی روائی تھی، ایک ایک دن میں پوری کتاب تحریر کر دیتے جسے ایک بیٹے میں بھی مشکل سے پڑھا جاتا۔ آپ نے نظم و نثر میں تقریباً ایک سو کتا ہیں لکھیں جن میں سے باون تصانیف زمانے کی دستبرد سے محفوظ ہیں، ان تصانیف کی مفصل فہرست محمد حسین تنہا نے مرتب کی ہے جسے مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (راولپنڈی) نے فہرست نسخہ ہائے خطی خواجہ سنا، شرفا، تائی کے نام سے ۱۹۷۲ء میں شائع کیا ہے، اس طرح تقریباً ایک صدی کے بعد علمی حلقوں میں آپ کی تصانیف کا تعارف ہو رہا ہے۔

حضرت خواجہ صاحب کی چند تصانیف کے نام یہ ہیں :-

لے قریش احمد حسین، ہدویسر، ۱، بیخوات، ص ۲۸-۲۹

لے محمد حسین تنہا، ۱، فہرست نسخہ ہائے خطی خواجہ سنا، اللہ غرابانی، ص ۲۴-۲۵

۱- بحر الانوار تقریباً تین ہزار چھ سو اشعار پر مشتمل ہے، دینی اور اخلاقی مسائل کتابت سنت کی روشنی میں۔

۲- تحفۃ القادری بارہ سو اسی اشعار، مناقب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۳- تذکرۃ الکاملین اولیاء اللہ کے اقوال و افعال پر مشتمل ہے۔

۴- تذکرۃ الصالحین سلسلہ قادریہ اور قلندریہ کے احوال و افکار کے بیان میں ہے۔

۵- تصدیق الایقان تین ہزار دو سو اشعار پر مشتمل ہے، اس کا موضوع فقہ و حدیث اور اخلاق و ادب ہے۔

۶- تفسیرنا (جلد دوم) چار ہزار چھ سو اشعار پر مشتمل مختلف آیات قرآنیہ کی تفسیر ہے۔

۷- حقیقۃ الاسلام

۸- دیوان غرابانی (تین جلد)

۹- سجات آفتابی در ردو بابی ۱۴۴۰ اشعار پر مشتمل ہے۔

۱۰- رحیم (شعب الہدیٰ) کریمیا کی بیروی میں اسی وزن پر پند و نصائح بیان کئے ہیں، یہ کتاب تیرہ سو اشعار پر مشتمل ہے۔

۱۱- مشنوی خلاصۃ الاسرار مسائل روح کو مختلف تشبیہات سے بیان کیا ہے۔

۱۲- تحفۃ القادری یا ہدیۃ شاو جلیاں موضوع، نام سے ظاہر ہے وغیرہ وغیرہ

آخر الذکر دو کتا میں طبع ہو چکی ہیں لے

حضرت پیر غرابان رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کو باسانی مرید نہیں کرتے تھے بلکہ ایسی کو مرید ٹھہرا لگاتے کہ عام آدمی انہیں پورا نہیں کر سکتا تھا، آپ کے پانچ خلفاء مشہور ہوئے ہیں جن کے نام یہ ہیں :-

۱- خواجہ نظر محمد
۲- سید فضل شاہ جلال پور جٹان

لے محمد حسین تنہا، ۱، فہرست نسخہ ہائے خطی خواجہ سنا، اللہ غرابانی، ص ۱۰-۱۸۲

حضرت خواجہ صاحب کی پوتی سیدہ فاطمہ بی بی بنت سید محمد شاہ کے صاحبزادے جناب سید ریاض حسین شاد بلخ لاہور میں مقیم ہیں ان کی کوشش ہے کہ حضرت پیر خرابات کی تصانیف کو شائع کر کے منظر عام پر لایا جائے۔ انہی کی مساعی جوئید سے محمد حسین تبسبی نے خواجہ صاحب کی تصانیف کی تفصیل سے فہرست مرتب کی ہے نیز انہی کی تحریک پر پروفیسر قریشی احمد حسین احمد قلعہ اری نے حضرت خواجہ صاحب کے سوانح حیات کتابی صورت میں قلم بند کئے ہیں۔

حضرت خواجہ سنا اللہ خراباتی قدس سرہ کا وصال ۱۷ ذیقعدہ ۲۱۰۰ (اکتوبر ۱۹۸۷ء) کو ہوا۔ آپ کا مزار انور کلاچور متصل جلالپور جٹاں (ضلع گجرات) میں ہے۔

۱۷ فروری ۱۹۸۷ء، پروفیسر

پیر غلامت

زبدۃ الاصفا حضرت مولانا الحاج سید احمد سہری کوئی قدس سرہ (پونہ ہزارہ)

حضرت مولانا سید احمد سہری کوئی ابن سید صدر شاہ رحمہما اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے اہل علم اور نہایت متقی اور پرہیزگار تھے، علم و فضل کے باوجود اپنے شیخ طریقت غوث زمان حضرت خواجہ عبدالرحمن چچوہروی قدس سرہ العزیز بانی دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ سہری پونہ ہزارہ سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے اسی لئے آپ اپنے مرشد کمال کی خدمت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتے تھے۔

آپ سہری پور سے اٹھارہ میل مغرب کی جانب واقع موضع سرکیوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتداً توحید کے ساتھ قرآن کریم حفظ کیا، بعد ازاں اپنے علاقہ کے جتید فضلار سے تحصیل علم کی اور دیوبند جا کر درس حدیث لیا لیکن اس کے باوجود دیوبندی معتقدات و نظریات کا بڑی شدت سے رد کیا کرتے تھے۔ تکمیل علوم کے بعد ایک مدرسہ تک افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن، زنجبار اور مباسہ میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ وہاں سے واپس آئے پر غوث زمان حضرت خواجہ عبدالرحمن چچوہروی قدس سرہ کے دستِ اقدس پر سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہوئے، ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء میں پھر تبلیغ دین کے لئے رنگون تشریف لے گئے اور مرکزی مسجد مسجد ناخدا میں امام و خطیب مقرر ہوئے۔ آپ کی شخصیت اس قدر پرکشش تھی کہ وہاں کے لوگ جو حق اور جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر راہ ہدایت سیکھنے لگے۔ آپ کی تبلیغ و تلقین کا اثر یہ ہوا کہ اکثر نے کتاب کے رسیان صرف فسق و فجور سے تائب ہو گئے بلکہ نمازی اور تہجد گزار بن گئے۔

حضرت مولانا سید احمد رحمہما اللہ تعالیٰ کو اپنے شیخ سے بڑی عقیدت تھی چنانچہ آپ اکثر و بیشتر محبت بھرے الفاظ میں مرشد کمال کا تذکرہ فرماتے، اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ حضرت خواجہ چچوہروی قدس سرہ کو حکومت دیں تاکہ ہم ان کی زیارت

سے مشرف ہوں اور حلقہ اراکین میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ نے یہ صورت حال حضرت خواجہ چھوہر دیقدس کی خدمت میں لکھ بھیجی انہوں نے جو اب ایک رو مال بھجوا دیا اور فرمایا جو شخص سحری کے وقت با وضو ہو کر اس پر ہاتھ رکھے گا وہ میسراب دین جائے گا۔ اس طرح بے شمار افراد حلقہ اراکین میں داخل ہوئے، تین سال بعد اپنے اجازت و خلافت سے مشرف فرمایا گیا اس دوران آپ نے اپنے مشرک کمال کی تفسیر جلیل مجموعہ مصلوات الرسول شریف تین عظیم جدولوں میں شائع کروا کر پاکستان کے مغربی اور مشرقی حصوں میں تقسیم کی اور اس پر تفصیلی مقدمہ لکھا جس میں حضرت خواجہ چھوہر دیقدس کے حالات شرح و بسط سے تحریر کئے۔ پبلکیشن ختم ہونے پر آٹھ نو ہزار روپے کی لاگت سے طبع نمائی کا انتظام کیا اور اپنے دور کی عظیم الشان کتاب کو منظر عام پر لانے کے اسباب فراہم کئے۔

۱۳۴۳ھ/۱۹۲۵ء میں آپ نے چٹاگانگ میں انجمن شوریٰ قائم کی اور جامعہ احمدیہ شریفیہ کی بنیاد رکھی۔ جامعہ کی سرمنزلہ حسین و جمیل عمارت میں سینکڑوں طلباء کیلئے رہائش کا انتظام کیا جہاں جدید نصاب کے مطابق علوم دینیہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بعد ازاں آپ کے فرزند ارجمند حضرت الحاج صاحبزادہ محمد طیب زید مجدہ (شاہ شریف، سرکویٹ ہری پور ہزارہ) کی سرپرستی میں ڈھاکہ جامعہ طیبہ کی تعمیر بڑی تیزی سے جاری تھی کہ غداروں کی غداری کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، یہ معلوم اس وقت وہاں دینی مدارس اور مساجد کی کیا حالت ہوگی۔

مولانا سید احمد قدس سرہ چٹاگانگ میں مدرسہ قائم کرنے کے باوجود اپنے شیخ و مرشد کے قائم کردہ دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور میں دلچسپی لیتے رہے چنانچہ دارالعلوم کی موجودہ بندوبست عمارت میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ نے تقریباً سولہ سال تک مشرقی پاکستان میں قیام کیا، اس عرصے میں بلا مبالغہ لاکھوں افراد حلقہ اراکین میں داخل ہوئے۔ آپ کے مریدین کا امتیازی نشان اہل سنت پر ثابت قدمی، ایک پاکستان سے سچی محبت اور

دین مبین کے ساتھ گراں گاہ ہے۔ اس جگہ یہ امر قابل ذکر ہے کہ شہید و فاضل انصاری (مؤلف) نے یہاں پر (۱۹۲۱ء) سے تھے ملے

آخردین کا یہ جاننا ہمارا اپنی تمام عمر شاعت اسلام میں صرف کر کے اذیت دینا ہے، ہر پیل (۱۳۸۰ھ/۱۹۶۱ء) بروز جمعرات عازم فردوس ہوا تاکہ ہری پور سے مغرب کی جانب اٹھارہ میل کے فاصلہ پر شاہ شریف سرکویٹ میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے جہاں آپ کے فرزند ارجمند حضرت الحاج محمد طیب قادری مدظلہ ہمتی دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور کی سرپرستی میں ہر سال عرس منایا جاتا ہے جس میں کثرت عقیدہ شمولیت کرتے ہیں اور فیض قادری کا کتبہ کرتے ہیں۔

ملہ محمد عبدالصمد شریف قادری، آغاز شرح الحق (مجموعہ ہری پور ہزارہ، ۱۹۶۰ء)

ملہ محمد عبدالصمد قادری، مولانا، تذکرہ علماء اہل سنت، ص ۳۸

عارفِ کامل مولانا سید امیر علوی اجمیری قدس سرہ العزیز

حضرت مولانا سید امیر علوی اجمیری ابن حافظ غلام رسول قدس سرہ چچہ شریف ضلع سرگودھا میں پیدا ہوئے، چونکہ وصال کے وقت آپ کی عمر تقریباً ۹۷ سال تھی اس لئے غالب گمان ہے کہ آپ کی ولادت ۱۲۹۰ھ/۱۸۷۳ء میں ہوئی ہوگی۔

سات سال کی عمر میں ایک مجدد نے فتان جانے کا اشارہ کیا، چنانچہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے فتان روانہ ہو گئے اور گورنمنٹ ضلع فتان میں ایک بزرگ حضرت مولانا حافظ جمال الدین قدس سرہ کی خدمت میں رہ کر کئی سال تک صرف و نحو کی تکمیل کی اور استاذ گرامی سے امام الخو کا لقب حاصل کیا۔

کچھ عرصہ گھر رہنے کے بعد پھر فتان شریف چلے گئے اور غوث عالم حضرت خواجہ بہار الدین کرکریا قدس سرہ کے مزار اقدس پر باقاعدگی سے حاضری دیتے رہے۔ یہ معمول بارہ سال تک جاری رہا۔ اسی اثنا میں ایک تائب تاجر عالم سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو نحو کی ایک کتاب پڑھا دیں، میں آپ کو فلاں کتاب پڑھا دوں گا، پھر انہی کے ایما پر اجمیر شریف حاضر ہو کر مدرسہ معینیہ میں مولانا علامہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ سے مطالعہ و تفسیر کی اور اسی مدرسہ میں مدرس مقرر ہو گئے۔

ایک سال بعد جذبہ محبتِ انہی کی فراوانی کی بنا پر تمام مصروفیات سے دستبردار ہو کر خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ اقدس میں گوشہ نشین ہو گئے۔ ۳۵ سال تک یہ معمول رہا کہ خواجہ کی چوکھٹ پر نگاہ جمائے مختصر سے حجرے میں بیٹھے رہتے اور حضرت خواجہ کے انوار و برکات سے بہرہ ور ہوتے رہتے تھے۔ سلسلہ برقیقت میں امام العارفین حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی قدس سرہ کے مرید تھے۔

آپ کے تلامذہ میں سے یہ حضرات بڑے قابل ذکر ہیں۔

۱۔ محدثِ اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد رحمانی قدس تعالیٰ بانی دارالعلوم مظفر الاسلام لائل پور۔

۲۔ حضرت محقق علامہ مولانا سید غلام جیلانی مظلمہ الاعالیٰ صدر المدرسین مدرسہ اسلامیہ میرٹھ (بھارت)

حضرت مولانا سید امیر اجمیری قدس سرہ نے تبلیغ اسلام، اصلاح عقائد اور بدلتہ بیوں کے رد میں متعدد رسائل تالیف فرمائے بعض کے نام ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

- ۱۔ بیعت مشائخ
- ۲۔ اہلک الوہابین
- ۳۔ کشف النقاب عن وجہ السماع
- ۴۔ رسالہ نور
- ۵۔ ماہ حق نما
- ۶۔ مسئلہ وحدۃ الوجود والشہود
- ۷۔ سماع موئی
- ۸۔ آداب زیارت (قبور)
- ۹۔ ارشاد الحق
- ۱۰۔ رسالہ حاضر و ناظر
- ۱۱۔ کلمۃ الحق
- ۱۲۔ کشف الحجاب عن مسئلہ ایصال اشواب

وغیرہ وغیرہ

قیام پاکستان کے بعد آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لئے چلے گئے اور واپسی پر چچہ شریف میں قیام پذیر ہو گئے۔ آپ نے تین مسجدیں تعمیر کرائیں اور خوشاب میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا۔

حکیم ابن سنت محرمی چچہ محمد موئی امرتسری مظلمہ راوی ہیں کہ غالباً جنوری ۱۹۶۲ء کو خیر ملی کہ حضرت مولانا بھاضہ فالج بیمار ہیں، نومبر ۱۹۶۲ء کو ایک کپڑے سے آپ نے آئے، غور سے دیکھنے کے باوجود جسم کے کسی حصہ پر فالج کا اثر نظر نہ آیا البتہ ذہنی گفتگو کی بجائے اشاروں سے بات چیت کر رہے تھے۔ کاغذ و قلم پیش کیا لیکن گرفت بالکل صحیح چلنے کے باوجود ایک لفظ بھی نہ لکھ سکے۔ میں نے (حکیم صاحب زید مجدہ نے) پوچھا کہ حضرت کسی وقت کوئی لفظ زبان سے ادا ہوا بھی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے بغیر کسی تکنت

کے صاف طور پر پڑھا

”الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله“

گو با اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لئے مخصوص فرمایا تھا اور نہ اگر مرض ہوتا تو دنیاوی باتوں کی طرح درود شریف کی ادائیگی پر بھی قدرت نہ ہوتی، اور یہ حالت آخری دم تک رہی۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جن کی مجلس میں بیٹھ کر غذا یاد آتا ہے اور سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔

۳ شعبان المعظم، ۶ اکتوبر (۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء) بروز منگل نواز پھر کے بعد نفل پڑھتے ہی سفرِ آخرت فرمایا۔ مرکزی مجلسِ رضالابو کے سرپرست محکم محمد موسیٰ امرتسری، مظانے تاریخ وصال کسی :

”شیخِ ہدیٰ نحو شمس ہے“ لہ

۱۳ = ۰۹

لے محمد موسیٰ امرتسری، محکم ابوسنت، مولانا سیار علی امیری، انہارویا، محم، احمد، ۱۹۷۲ء، ص ۳۰۳-۳۰۴

شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی قدس سرہ العزیز

برہان العاشقین، شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی ابن حضرت خواجہ محمد سعید یار ابن میاں محمد شریف ابن میاں برخوردار ابن میاں تاج محمد سعید ابن میاں شیر کرم علی (قدست اسرار ہم، ۱۲۱۳ھ/۱۷۹۹ء میں سیال شریف ضلع سرگودھا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد کئی پشتوں سے دنیاوی عروج و جاہ اور علم و تقویٰ میں مستاز تھے۔ آپ کے جدِ اعلیٰ حضرت شیر کرم علی قدس سرہ اپنے دور کے باکمال بزرگ اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم مقتدا حضرت موسیٰ پاک شہید ملتان قدس سرہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب پچاس واسطوں سے حضرت عباس علمدار شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاملتا ہے لہ

حضور اعلیٰ سیالوی قدس سرہ ساڑھے چار سال کی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم کے لئے مکتب میں بٹھائے گئے، سات سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا، علم دین کی تحصیل کے لئے علاقہ پٹی گھیب کے ایک گاؤں سبکی ڈھوک میں گئے، ابھی فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی تھیں کہ استادِ گرامی کا وصال ہو گیا اس لئے وہاں سے حضرت مولانا محمد علی قدس سرہ کی خدمت میں مکھڑ شریف حاضر ہوئے اور تیرہ سال تک ان سے کسب فیض کیا، اسی اثنا میں مکھڑ شریف کے ایک تاجر میاں محمد امین نے حضرت مولانا سے گزارش کی کہ میں تجارتی مقاصد کے لئے افغانستان جا رہا ہوں اس لئے آپ کتنی سی صفت بنا کر دو کو میرے ساتھ روانہ کریں تاکہ اس کی معیت باعث برکت ہو۔ استادِ کامل کی نگاہِ انتخاب حضور خواجہ سیالوی پر پڑی چنانچہ آپ اس تاجر کے ساتھ شریف لے گئے، تاجر موصوف کو وہاں کافی عرصہ رکنا پڑا، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہوئے فاضل گیارہ ماہا حفظ و راز قدس سرہ سے فقہ و حدیث کا درس لیا۔ بدایہ شریف مکمل پڑھا

لے محمد شمس الدین، مولانا امیر، انہارویا، محم، احمد، ۱۹۷۲ء، ص ۳۰۳-۳۰۴

اور سند حدیث حاصل کی، واپس اگر پھر ستاؤ مشفق مولانا محمد علی رحمہ اللہ تعالیٰ سے تسلیم حاصل کرنے لگے۔

حضرت مولانا محمد علی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دور کے متبحر فاضل اور صاحب دل بزرگ تھے، بایں ہمہ انہیں ایسے رمبرِ کمال کی تلاش تھی جو ایک ہی نگاہ میں دل کی دنیا کو دوست سکون سے مالا مال کر دے۔ ایک دن کسی راہِ پر و شوق نے پرہیزگار حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی قدس سرہ کا ذکر پڑھ کر سنا اور اندازے سے کیا کہ آپ کا دل اس بارگاہ کی ماضی کے نئے بے قرار ہو گیا اپنے شاگرد ارشد حضرت خواجہ سیالوی کو ساتھ لے کر بارگاہِ سلیمان میں حاضر ہوئے اور استاذ شاکر شرفِ بیعت سے مشرف ہوئے۔ حضرت مولانا سچا مافک دربارِ مرشد میں رجبے اور باہنی توجہات محضے مستفیض ہوئے، بعد ازاں فرقہٴ خلافت سے سرفراز ہو کر شیخِ کمال کے ایما پر واپس مکہ شریف تشریف لائے۔

حضرت مولانا محمد علی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اولاد فریضہ نہ تھی، انہیں خیال ہوا کہ حضرت خواجہ سیالوی قدس سرہ کو اپنا جانشین بنا لیں، ویسے بھی آپ کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ والدین کو جب اس ارادے کا علم ہوا تو بقیار ہو گئے اور چھ ماہ تک اس حضرت خواجہ

سلطنتِ امیر کبیر مولانا : اور شہسوار معروف بہ نظریہ چشمیہ و مطہر و ضعیف عام پر بس لاپرواہی ۱۳۳۵ھ / ۱۹۱۶ء ص ۲۵۰۔۲۵۱
 کے حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی قدس سرہ کے اکوڑ و جنرل سوانح نگار حضرت (علیق) عظیمی اکوڑ صاحبِ چشمیہ ص ۷۰
 مولانا سحان اصنافی، تذکرہ اولیائے چشمیہ ص ۲۱۶ پر کوہِ کرم شاہ زید علیہ السلام نے عام ۱۲۷۳ھ / ۱۸۵۳ء اور شہسوار
 سے بھی بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ گناہے کہ آپ نے مولانا محمد علی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کمال میں غلطی سے متاثر کیا مان کو مولانا محمد علی رحمہ اللہ
 خوشبختیاً بچا کہ وہ والے خطہ اور شاہوں میں مستقل مقام پر ہو گئے تھے، کتب تاریخ ذکرہ سے ان کا نام میں کس دن ثابت
 نہیں ہو سکا تھا۔ دستاویز موجود اولیائے چشمیہ ص ۲۰ پر پیر شاہ زید علیہ السلام نے لکھا ہے "آپ کو صلیب و شمشیر کی گتہ کے رہنے والے تھے مگر
 مستقل طور پر تیار ہو کر اپنی تمام گتہ بنا لیا تھا۔" مولانا عزیز الرحمن صاحبِ چشمیہ ص ۷۰ پر مولانا زید علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ وہ دربار
 میں ۱۰۵۰ھ تک اس طرح کھڑے رہے۔ مولانا سحان اصنافی، دستاویز اولیائے چشمیہ، مولانا زید علیہ السلام نے مولانا محمد علی رحمہ اللہ
 خوشبختیاً بچا کہ وہ والے خطہ اور شاہوں میں مستقل مقام پر ہو گئے تھے، کتب تاریخ ذکرہ سے ان کا نام میں کس دن ثابت

محمد سلیمان قدس سرہ کی خدمت میں ماجرا عرض کیا، حضرت پرہیزگار قدس سرہ نے مولانا کو دکھا۔

"آپ نے اس فقیر کو اسیر بنا رکھا ہے اس کو باپ کے پاس بھیج دو اور ساتھ ہی حضرت خواجہ شمس العارفین کو فرمایا وہ والدین کے پاس جائیں اور فریضہ نکاح ادا کریں۔"

۳۴ سال کی عمر میں حضرت خواجہ شمس العارفین کا نکاح ان کے چچا میاں احمد یار کی دختر نیک اختر سے پڑھایا گیا، ان حالات میں آپ نے سیال شریف میں قیام کا ارادہ فرمایا اور ارشادِ مرشد کے مطابق تمام اور اذکار ادا کرنے کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، سال میں کئی دفعہ پایادہ مرشد کمال کے دربار میں حاضر فرماتے اور کم و بیش چالیس دن تک وہاں قیام کرتے۔ چودہ مرتبہ حضرت پرہیزگار کی معیت میں تونسہ شریف سے مہار شریف کا سفر اس شانِ نیاز سے کیا کہ مرشد کمال گھوڑی پر سوار ہوتے اور آپ انھنوں کا قرآن مجید، رحل اور دیگر وظائف سر پر رکھے، پانی کا کوزہ دائیں ہاتھ میں، مصلیٰ اور عصا بائیں ہاتھ میں دہانے ساتھ ساتھ دوڑتے جاتے تھے، دیکھنے والے اس پیکرِ حسن و جمال کی جفاکشی اور عقیدت کیشی کو دیکھ کر عجوبت رہ جاتے اور اہل نظر اس شہبازِ معرفت کی قوتِ پرواز کو رشکِ نگاہ سے دیکھتے۔

۳۶ سال کی عمر میں جب آپ کا قلب انور عبادت و ریاضت اور پیرِ کمال کی نگاہِ کیمیا اثر کی برکت سے رنگِ شمس و قمر میں چکا تھا، حضرت پرہیزگار سلیمان زماں حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی قدس سرہ نے فرقہٴ خلافت عطا کیا اور فرمایا:

"جو شخص بیعت کی تمنا لے کر حاضر ہوا اس کی مراد بر لائی جائے اور اپنے اشتغال میں مصروف ہو کر اسے نظر انداز نہ کر دینا۔"

سلطنتِ امیر کبیر مولانا : تاریخ شریف چشمیہ ص ۳۰۳-۳۰۴
 تذکرہ مولانا زید علیہ السلام ص ۷۰
 تذکرہ مولانا زید علیہ السلام ص ۷۰

سب سے پہلے آپ کے دستِ اقدس پر والدینِ کریمین جمعیت ہوئے، اس کے بعد
 میاں چھوڑ کسب دار، شیخ عبدالجلیل قریشی، عبداللہ دین دار اور میاں فضل احمد قریشی مرید ہوئے۔
 مرشدِ اکمل سے عقیدت و محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ ایک نورانی پیکر بزرگ حضرت پیر
 پیمانِ قدس سرہ کے پاس تشریف لائے اور پھر یہ کونہ لنگو ہو کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد
 حضرت نے فرمایا: "یہ حضرت خضر تھے جو شخص ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے جائے اور زیارت
 کرے" تمام حاضرین دیوانہ وار ان کے پیچھے چلے گئے مگر حضرت خواجہ شمس العارفین وہیں بیٹھے
 رہے حضرت خواجہ نے فرمایا: "مولوی! تمہیں حضرت خضر کی زیارت کا اشتیاق نہیں؟"
 عرض کی میرے لئے اسی کی زیارت کافی ہے جس کی ملاقات کے لئے حضرت خضر چل کر تشریف
 لائے ہیں۔

ہمہ نشہ پُر دُخو ہاں منہم و جمالِ ماہیہ
 چہ کنم کہ چشمِ خوشِ ہاں کند پس نگاہیہ

اس خلوص و محبت پر حضرت پیر پیمان بہت خوش ہوئے اور دعا کی "اللہ سائیں میرے
 سیال کوں رنگ لائیں" اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ چار دانگ عالم سے جامِ عرفان کے تماشائی پڑاؤ
 آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تکبیریں دل و جاں اور منزلِ مراد حاصل کرنے لگے
 آپ کی مکتوبی صفات اور قدسی اخلاق کے پیکر تھے، آپ کے قائم کردہ لنگر سے ہر مسافر محتسب
 اور مسکین بہرہ ور ہوتا اور آپ بہرہ و مند کی دیکھ بھری داستان سنتے اور حسبِ حال اس کا مداوا
 فرماتے، تشریفِ مقدس کی اتباع اور پیروی میں اپنی مثال آپ تھے، نماز باجماعت ادا کرتے اور
 مریعین کو بھی اتباعِ سنت و مظلوم کا سختی سے حکم دیتے، آپ نے رشد و ہدایت کا پیغام اعلیٰ پہنچانے پر
 عوام و خواص تک پہنچایا اور بے شمار مریعین کو درجہ کمال تک پہنچایا۔ تاریخِ مشائخِ چشت میں آپ
 کے ۲۵ خلفاء کے نام درج ہیں، آپ کے خلفاء میں مندرجہ ذیل حضرات آسمانِ علم و عرفان پر مہر و ماہ
 بن کر چمکے جن کے ذکر اور فیض سے قیامت تک دلوں کی دنیا مستنیر ہوتی رہے گی۔

۱۷۸۰ء - ۱۷۸۱ء - ۱۷۸۲ء - ۱۷۸۳ء - ۱۷۸۴ء - ۱۷۸۵ء - ۱۷۸۶ء - ۱۷۸۷ء - ۱۷۸۸ء - ۱۷۸۹ء - ۱۷۹۰ء

۱۷۹۱ء - ۱۷۹۲ء - ۱۷۹۳ء - ۱۷۹۴ء - ۱۷۹۵ء - ۱۷۹۶ء - ۱۷۹۷ء - ۱۷۹۸ء - ۱۷۹۹ء - ۱۸۰۰ء

۱. حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی (فرزند ارجمند)

۲. حضرت پیر سید محمد علی شاہ گورکھ پوری

۳. حضرت پیر غلام حیدر شاہ جلالپوری

۴. حضرت پیر معظم الدین مرووی (وغیر ہم تقدس اسرار ہم)

حضرت خواجہ شمس العارفین قدس سرہ کا وصال ۲۴ صفر، جنوری (۱۳۰۱ھ/۱۸۸۳ء) بروز
 جمعہ صیغہ صادق کے وقت ہوا۔ ہر سال آپ کا عرس مبارک ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ صفر و ۱ ذی الحجہ
 میاں شریف پر موجودہ سجادہ نشین حضرت شیخ الاسلام و المسلمین الحاج علامہ حافظ محمد تسمیر الدین
 دامت برکاتہم العالیہ کے زیر اہتمام منعقد ہوتا ہے جس میں ہزاروں ارادت مند حاضر ہو کر فیضیاب
 ہوتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ مزارِ مقدس پر حاضر ہونے والا اپنے دل میں جلال و جمال کی
 بلی کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔

مفتی غلام سرور لاہوری نے تاریخ وصال کی یہ

درینِ اصد درینا صد درینا کہ شمس الدین امام العارفین رفت

جزا را فسوس کیں مہر جہاں تاب بہا درج عرش از فرش زمین رفت

چو سرورِ حجت "تاریخ شمس زہانت

بگھنا شمس ادرج علم و دین رفت" ۱۷

۱۳۰۱ھ

۱۷۹۱ء - ۱۷۹۲ء - ۱۷۹۳ء - ۱۷۹۴ء - ۱۷۹۵ء - ۱۷۹۶ء - ۱۷۹۷ء - ۱۷۹۸ء - ۱۷۹۹ء - ۱۸۰۰ء

نور علی، دارالعلوم دیوبند، تاریخ مشائخ چشت میں، ص ۸۲

کا عدد پورا نہیں ہوتا، مرتب

آفتاب ولایت حضرت میاں شمس محمد شرف پوری قدس سرہ العزیز

شیر بانی حضرت میاں شمس محمد شرف پوری ابن حضرت میاں عزیز الدین شرف پوری قدس سرہما ۱۲۸۲ھ/۱۸۶۵-۶ میں شرف پوری شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت خواجہ امیر الدین قدس سرہ (پیر و مرشد حضرت میاں صاحب) نے شرف پوری میں آمد و رفت شروع کر دی تھی کیونکہ انہیں کشف سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس جگہ ایک ولی اللہ پیدا ہوگا۔ چھپن ہی میں آپ پر محبت الہیہ کا غلبہ تھا جبکہ کاہ عالم تھا کہ گلی کوچے میں چادر اوڑھ کر گزرتے، محلے کی عورتیں کہنا کرتی تھیں ہمارے محلہ میں لڑکی پیدا ہوئی ہے ختم قرآن پاک کے بعد محل سکول شرف پوری میں پانچ جامعت تک تعلیم حاصل کی سکول سے واپس آکر مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جاتے اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے۔ بعد ازاں فارسی کی کچھ کتابیں اپنے چچا حضرت حافظ حمید الدین سے پڑھیں جبکہ شریف علی سے بھی کچھ پڑھا۔ پھر خوشنویسی کا شوق پیدا ہوا اور اس فن میں کمال حاصل کیا کئی قرآن پاک جن کے ابتدائی اور آخری پارے بوسیدہ ہو گئے تھے، انہیں خود لکھ کر مکمل کیا۔

لاہری طور پر صرف اسی قدر تعلیم حاصل کی لیکن قدرتِ ایزدی نے آپ کو علم لدنی کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ بڑے بڑے علماء حاضر ہوتے تو حمیدہ سرادوں کو لہو کر بیٹھا اور آپ کے علوم و معارف سے مستفید ہوتے۔

جو دو سخاکی یہ کیفیت تھی کہ جو ضرورت مند حاضر ہوتا اس کی حاجت روائی فرماتے۔ حضرت بابا امیر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کو توفیق عین کے دست مبارک پر بیعت ہونے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں اعزازت و خلافت سے مشرف ہونے تک

۱۔ شاہ محمد باقر صاحب دہلوی، تاریخ معرفت (دوسرا ایڈیشن) ص ۹۳ (نوٹ) مکتبہ ملی شرف پوری نے سال ۱۳۵۰ھ بمطابق ۱۹۳۱ء میں شرف پوری، مکتبہ حیات جاوید (مطبوعہ رفیق عام پریس پور) ص ۱۰

حضرت میاں صاحب قدس سرہ کی کوشش شخصیت سے فیضیاب ہونے کے لئے دور دراز سے لوگ حاضر ہوتے اور شاد کام واپس جاتے۔ آنے والے ہر عقیدت مند کو شریعتِ مطہرہ کی پیروی کا حکم دیتے۔ بعض اوقات خلاف شریعت صورت و سیرت رکھنے والے افراد کو صرف زبانی سمجھانے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ تھوپڑ لگاتے سید کر دیتے، کیا خیال کہ کوئی اُفت بھی کر جائے، ایسے افراد نام ہو کر تائب ہو جاتے اور پھر میاں صاحب کے ممنون رہتے، حضرت میاں جمیل احمد شرف پوری لکھتے ہیں:-

”بچاپیہ کے غلام رسول صاحب نے اپنی پہلی ملاقات کا حال بیان کیا کہ ۱۹۲۴ء میں سرہند شریف جاتے ہوئے حضرت میاں صاحب کی زیارت کے لئے شرف پوری شریف حاضر ہوا، کچھ اور افراد بھی موجود تھے، ان سے گفتگو فرمانے کے بعد مجھ سے پوچھا یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا بچاپیہ سے، فرمایا مولیشیوں میں وقت گزارتے ہو لیکن نماز کا خیال تک نہیں کرتے، میرا نام پوچھ کر فرمایا، کیسا اچھا نام ہے اور شکل کیسی بنا رکھی ہے۔ پھر فرمایا چھوٹے بچائی کا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، نبی بخش، اس پر بندہ کو ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا پھر آؤ تو غلام رسول بن کر آنا، نماز پابندی سے ادا کیا کرو۔ (کچھ وظائف بنا کر) اسلام کی پہلی کتاب (تاریخ طیب مولانا مفتی عنایت احمد کا کوری قدس سرہ) اور توابیح حبیب اللہ (تالیف مولانا مفتی عنایت احمد کا کوری قدس سرہ) کے مطالعہ کی تاکید کی اور رخصت عطا فرمائی۔“ (مختصاً)

حضرت مولانا مفتی غلام جان ہزاروی ثم لاہوری (مرید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ) جامعہ نعمانیہ میں مدرس تھے۔ انہوں نے حضرت میاں صاحب کا بڑا اچھا چارسنا پھر یہ بھی پہنچا کہ امام الحدیث حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ قدس سرہ ان کی ملاقات کے لئے

گئے تھے، واپسی پر ان سے بھی میاں صاحب کی تعریف سنی تو زیارت کا شوق لئے شرفیہ
 شریف پہنچ گئے۔ مشافہان زیارت پہلے سے موجود تھے یہ بھی بیٹھ گئے، اس سے پہلے
 میاں صاحب کی زیارت نہیں کی تھی چنانچہ جب میاں صاحب تشریف لائے تو انہوں نے
 سمجھا کہ شاید یہ کوئی درویش ہوں گے۔ میاں صاحب نے پوچھا، آپ کہاں سے آئے
 ہیں اور کیا مشغل ہے؟ مفتی صاحب نے بتایا لاہور سے آیا ہوں اور عامہ لغات میں پڑھا تا
 ہوں۔ میاں صاحب نے فرمایا، کیسے آئے؟ عرض کی، فقید میاں صاحب کی قدر سبھی کو
 آیا ہوں۔ فرمایا، میاں صاحب کو مل کر کیا کرو گے تم خود عالم ہو، تمہیں فقیروں سے منہ
 کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی صاحب نے غصے میں پوچھا کیا فقیروں کو ملنا گناہ ہے تم فقیروں
 کے پاس رہ کر ایسے گمراہ ہو کہ فقیروں سے ملنا گناہ سمجھتے ہو؟ میاں صاحب نے فرمایا
 مولوی احمد علی (شیرانوار دروازہ لاہور) اور مولوی غلام مرشد کیسے ہیں؟ مفتی صاحب نے
 کہا، وہ بھی تمہاری طرح گمراہ ہیں جو فقرار کے قائل نہیں۔ فرمایا تو تم غصے میں آگئے ہو۔ مفتی
 صاحب نے کہا تم خود غصے کی باتیں کر رہے ہو، میاں صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ
 نے ایسے گمراہ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔

میاں صاحب آگے بڑھ گئے اور ایک ڈاڑھی منڈے سے فرمایا تم نے ڈاڑھی
 کیوں منڈوائی ہے، اگر تیری بیوی کا سر منڈو باجائے تو اچھی معلوم ہوگی؟ اس نے کہا
 نہیں، اور شرمسار ہو کر ڈاڑھی نہ منڈوانے کا عند کیا۔ اسی طرح میاں صاحب ایک ایک
 آدمی کو ہدایت کرتے گئے، اتنے میں کسی نے مفتی صاحب کو اشارۃً بتا دیا کہ یہی میاں صاحب
 ہیں۔ مفتی صاحب کو بڑی ندامت ہوئی اور رقت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میاں صاحب
 تشریف لائے اور کشف المحجوب لا کر دی جس میں تین جگہ نشانی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت میاں
 صاحب گھر تشریف لے گئے اور واپسی پر مفتی صاحب کے لئے تقریباً آدھ کیر بھجوا دیں
 آگے مفتی صاحب فرمانے ہیں کہ میں جن تین عقیدوں کے حل کے لئے حضرت میاں صاحب
 کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کشف المحجوب کے مطالعہ سے تینوں حل ہو گئے۔ میاں صاحب
 نے ان باتوں کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا، پھر فرمایا مولوی احمد علی شیرانوار دروازہ

لاہور گزشتہ جمعہ یہاں آیا تھا، وہ یہاں جمعہ پڑھانا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کی بدعتیگی
 کی بنا پر پڑھانے نہیں دیا، واپسی پر جب مفتی صاحب باہر پر سوار ہوئے تو دیکھا روال کے
 کونے میں ایک روپیہ بندھا ہوا تھا جو آمد و رفت کا سرمایہ تھا۔

حضرت میاں صاحب قدس سرہ دو بار آخر میں صاحب کرامت بزرگ تھے، آپ کی
 بہت بڑی کرامت پختی کہ بیشمار افراد آپ کی ہدایت پر صورت و سیرت میں تبع شریعت بن
 گئے۔ آپ کے مریدین اور متقدمین کا حلقہ بہت وسیع تھا، آپ کے کئی کتابیں چھپا کر تقسیم کیں
 اور متعدد مسجدیں بنوائیں۔

آپ کے بعد آپ کے بڑے حقیقی حضرت ثانی لائٹانی میاں غلام اللہ شرفیہ قدس سرہ
 جانشین ہوئے، انہوں نے میاں صاحب کی روایات کو پوری آب و تاب سے باقی رکھا اب
 حضرت ثانی لائٹانی کے فرزند ارجمند حضرت الحاج میاں جمیل احمد شرفیہ مدظلہ ارب سجدہ ہیں
 مسلک اہل سنت اور سلسلہ کمالیہ نقشبندیہ کی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔

۳ ربیع الاول، ۲۰۱۰، اگست (۱۳۴۰ھ/۱۹۲۸ء) بروز جاں افروز سولہ شہر ربانی حضرت
 میاں شہر محمد شرفیہ قدس سرہ کا وصال ہوا۔ شرفیہ شریعت میں آپ کے مزار پر انوار پر گنبد تعمیر
 ہو چکا ہے، ہر سال بڑے اہتمام سے آپ کا عرس ہوتا ہے۔

قطعہ تاریخ وصال یہ ہے۔

چومولانا کے نقبہ شرفیہ دنیاشد رواں با کام و امام
 ”وصال شیر حق، شیر محمد“ شدہ سال وصالش اسے کونام تک

سے علم و ارادت حضرت مولانا مفتی غلام جان ہزاروی، ملوک مولانا محمد ظفر نقبہ رضوی ذہبہ

تک امد علی شرفیہ، آفتاب ولایت، ص ۱۰

تک ہامد ذرا سلم، شیر الابر، جون و جولائی ۱۹۶۹ء، ص ۱۶۳

اسم ذات شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد

نے اپنے دست مبارک سے رقم فرمایا،



حضرت میاں شیر محمد شیر قہوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے حکیم مظفر حسین قریشی (مؤرخ جنگی صلح گوجرانوالہ) نے ایک عریضہ کے ذریعے وکیل "یا شیخ سید عبدالقادر صاحب لانی شینا اللہ" (جس کے پڑھنے پر مولوی ثناء اللہ امرتسری اور دیگر علماء نے فتویٰ کفر و شرک دیا تھا) کے جواز کے بارے میں دریافت کیا تھا، آپ نے جو جواب دیا، درج ذیل ہے:-

خداوند کریم فضل و کرم سے انجام شیر کریں،

بہر حال شکا و دروکر فکر عبرت ضروری ہے سو آج کل محال ہے، اس دوسو میں پڑنا زبیا نہیں، غریب تو پڑھا کرتا ہے بلکہ کل ولی سے اعداد لینا جائز ہے، آپ کا دل چاہے تو خیر پڑھا کریں، حضرت میرا محمد الدین حضرت شیخ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب طرز کی توحید میں فنا تھے اس لئے جو لوگ ان کو یاد کرتے ہیں انہوں کو خداوند کریم کی محبت کامل ہو جاتی ہے، اخیر سب کا رجوع رب کریم کی جانب ہے، واللہ خیر حفظا و ہوا رحمہم ارحمین آپ کے وجود غیر خدا سے نہیں بنا ہے، اس کا ثبوت قادری قلندروں سے لیں، اگر کوئی نہ پڑھے تو خیر۔

خداوند کریم کی سنت جاری ہے ہر ایک کو ایک کام سپرد کیا ہے، جیسا ہر ایک چیز سے کام لیا جاتا ہے، ویسا ہی ہے:

در دلم ہزار درد دست لاکن ہا کس نگویم

بہر حال جمال اللہ بیستم

بجز روش نخواستہم بیچ چیزے

ز شوقِ جاں جمال اللہ بیستم

فرصت کم، خط کی رسم ہی نہیں۔

(آئندہ صفحات میں اصل سوال و جواب کا عکس دیا جا رہا ہے)

قدوة الفضلاء حضرت علامہ مفتی محمد صاحب دخال قدس سرہ العزیز

امام الفقہاء، قدوة الفضلاء حضرت علامہ مفتی محمد صاحب دخال رحمہ اللہ تعالیٰ
 ۱۳۱۶ھ/۱۸۹۸ء میں بمقام لونی (مضافات سبئی صدرہ بلوچستان) پیدا ہوئے۔ قرآن مجید
 خواجہ محمد شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھا۔ فارسی کی ابتدائی کتابیں مولانا محمد یوسف رحمہ
 اللہ تعالیٰ (لانڈھی مضافات بھاگ، قلات) سے پڑھیں، پھر مدرسہ قاسمیہ (گڑھی پامین
 مضافات سکھر) میں مولانا محمد قاسم سے علوم و فنون کی تحصیل کی اور ۱۳۳۶ھ/۱۹۱۷ء میں سند
 فرطت حاصل کی، بعد ازاں کچھ عرصہ رانی پور اور کچھ زمانہ سلطان کوٹ (مضافات سکھر)
 میں مدرس رہے۔ ایک مدت تک قلات کے قاسمی العتباتہ رہے بعد ازاں پیر پگارا حضرت
 پیر سید محمد مصطفیٰ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے طلب فرمائے پر پیر گوٹھ (ضلع خیر پور، میرس سندھ) آئے۔ یہ
 لے گئے اور جامعہ راشدہ میں صدر مدرس مقرر ہوئے اور علم و فضل کے پیاموں کو خوب خوب

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے مسلک اہل سنت و جماعت کی بے مثال خدمات
 دیں۔ فن افتاء میں آپ کو پہلوی حاصل تھا، دو دو دراز سے لوگ دینی و علمی مسائل میں
 رع کیا کرتے تھے، سواد اعظم لاہور میں راقم کی نظر سے مدینہ طیبہ سے آیا ہوا استفتا رگزار ہے
 اس کا مبسوط جواب مفتی صاحب نے تحریر فرمایا تھا۔

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عموماً اپنے فتاویٰ میں بہار شریعت (از صد الشریعہ
 مولانا محمد علی قدس سرہ) کا حوالہ دیا کرتے تھے اس طرح ایک تو ماخذ کی نشاندہی ہو جاتی اور
 دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ بہار شریعت کا مستند ہونا عوام و خواص پر ظاہر ہو جاتا ہے

مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے وقتی ضروریات کے پیش نظر متعدد کتابیں رقم فرمائیں
 فی الحال جن تصانیف کے نام ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ ہیں :-

۱۔ القول المقبول فی عظمة قول اللہ والرسول : لاؤڈ سپیکر کی آواز پر امام کے افعال کی پیروی
 کرنے کے احکام ہونے پر مبسوط فتویٰ۔

۲۔ الہام التقدير فی مسئلۃ التقدير ، مسئلۃ التقدير کی وضاحت اور شکوک و شبہات کا ازالہ۔

۳۔ سبیل النجاح فی مسائل العیال والنکاح : نکاح و طلاق کے مسائل اور عائلی قوانین پر تبصرو۔

وغیرہ وغیرہ

حضرت مفتی محمد صاحب دخال قدس سرہ ۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۰ھ (۲۹ اگست ۱۹۸۵ء)
 ۱۹۶۵ء) اتوار کی شب اس دار فانی سے انتقال فرما گئے اور سلطان کوٹ (مضافات سکھر پور)
 میں مدفون ہوئے۔

مجاہد اسلام حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی قدس سرہ

شیخ برقیّت و مجاہد جلیل حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین ابن حضرت خواجہ محمد الدین ابن حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی (قدس سرہ) ۱۳۰۴ھ / ۱۸۸۶ء میں سیال شریف (مطلع سرگودھا میں پیدا ہوئے) "منظور حق" (۱۳۰۴ھ) ماہ تاریخ ہے۔ آپ کو بچپن ہی سے علوم دینیہ کا بے حد شوق تھا، قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد ممتاز افاضل سے علم دین کی تعلیم حاصل کی اور والدین ماجد کے وصال کے بعد مجاہدہ نشین ہوئے۔ آپ نہ صرف قرآن کریم کے حافظ تھے بلکہ بائبل پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے۔ مطالعہ کتب سے اس قدر لگاؤ تھا کہ اکثر و بیشتر شام کا کھانا رات کے دو تین بجے تناول فرماتے، ملک اور بیرون ملک سے کتب دینیہ کا بہت بڑا ذخیرہ منگوا کر کتب خانہ میں خاصی توسیع کی، آستانہ عالیہ پر قائم شدہ دارالعلوم کو خاطر خواہ ترقی دی۔ علامہ زماں مولانا معین الدین اجیری اور ان کے طویل القدر شاگرد مولانا محمد حسین اور دیگر علماء فضلاء کو آپ ہی کی کوشش سیال شریف کیسٹج لائی تھی، علم دوستی کی اس سے بہتر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے فرزند ارجمند شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین مدظلہ العالی کو تحصیل علوم کے لئے اجیر شریف، مولانا معین الدین اجیری کی خدمت میں بھیجا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام کا کمال علمی اور علوم دینیہ سے لگاؤ آپ ہی کا بیرون نظر ہے۔ آپ کے دل میں امت اسلامیہ کا بے پناہ درد اور دکھاؤ فرشتی سے مدد و توجہ نظر تھا۔ آپ نے تمام عمر انگریزوں کو زمین کا لگان زد کیا، امت مسلمہ کی اس خیر خواہی اور انگریز دشمنی کے تحت آپ نے تحریک

۱۔ ایشیاٹک سوسائٹی، مولانا، انوار شمس، ص ۲۵۔
 ۲۔ سلطان احمد دہلوی، مولانا، اپنا سراجییب، (اکتوبر ۱۹۵۰ء) ص ۲۵۔
 ۳۔ مولانا، ص ۲۸۔

تربک مولانا کی حمایت کی اور تین سال تک فوج اور پولیس میں ملازم مریدین سے نڈر اند قبول نہ کیا، آپ نے نہ صرف خود انگریزوں کی مخالفت میں حصہ لیا بلکہ دیگر مشائخ کو بھی اس مخالفت میں بھرپور حصہ لینے کی طرف رغبت دلائی تاکہ آپ نے ۱۹۳۴ء میں دربار رسالت میں منظوم استغاثہ پیش کیا جس کے ایک ایک مصرعے درد و کرب کا اظہار ہوتا ہے، چند اشعار ملاحظہ ہوں۔
 آپ کی امت سادیا میں نہیں کوئی ذلیل
 قوم مسلم و بن کی ملت میں ہے اب ہندیا
 عقل مسلم کی ہوئی گم، اس کا سراپا پھرا
 نیک راہی شمار و توجہ را دانہ صواب
 رحم کر ہم پر چو ہے تو رحمتہ لعلالمیں
 چہرہ پر نور تاباں را انمانی بے نقاب
 اس خدا یا بخش وے ہم کو ضیاء شمس دیں
 سرخرو ہائیم و شاداں پیش تو یوم الحساب گے

ایک مرتبہ انگریز کمشنر نے حاضر ہو کر ۳۵ مربع ارضی کی ٹیکہ کے لئے پیشکش کی لیکن آپ نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ

"اگر انگریز اپنی تمام حکومت بھی مجھے دیتے تو میرا ایمان نہیں خرید سکتا، فقیر شاہی خزانہ کا مالک ہے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔"
 عشاق کا کس نشو و نام باز چسپیں
 کانچا ہمیشہ باو بدست است داس را

تحریک خلافت کے سلسلے میں جب گرفتاریاں شروع ہوئیں تو ضلع سرگودھا کے قریباً ۱۵۶ افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں سیال شریف کے دارالعلوم کے صدر مدرس مولانا محمد حسین اور دیگر علماء بھی تھے، حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین قدس سرہ کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے لیکن ٹرانس قوم کے روسا نواب اللہ بخش اور خدابخش وغیرہ نے انگریز کمشنر کو وارنٹ کے الفاظ میں متنبہ کیا کہ اگر

۱۔ اس لئے کی اصول کے تے و حلقہ ہوا لاملی ہندی در تک مولانا، انجمن ہدیت سرگودھا، مولانا، ص ۱۱۸۔
 ۲۔ اوزاعلی حضرت کی سیاسی بعیرت، "زمین نو" محمد قادری، مطبوعہ مکتبہ خیر مجتہد، ۱۹۵۱ء۔
 ۳۔ سلطان احمد دہلوی، مولانا، تذکرہ ادیبانہ پیشہ، ص ۲۴۳۔
 ۴۔ مولانا، ص ۲۸۔

حضرت کی طرف بڑی نگاہ سے دیکھا گیا تو ان سے پہلے ہم چل میں جاہیں گے اور گرنٹ کے مخالف
ہو جائیں گے۔ چنانچہ حالات کے خطرناک تصور کیے کر آپ کو گرفتار کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ آپ نے
ٹون پیکس کے پناہی علاقہ سے وہ پتھر کھینچ کر پھینک دیا جس پر ترکوں کے خلاف داؤد شہادت دینے
وے فوجیوں کے نام کندہ تھے آپ نے فرمایا:

مہمان پرستوں کے نام دیکھنا نہیں چاہتے جنہوں نے عربوں پر گولیاں
چلائی تھیں۔

آپ نے روم زائیت میں ایک رسالہ "مسیح تخریب کیا جو ۱۳۲۹ء میں چھپا ہے
حضرت پر میر علی شاہ گورنری رحمانہ تعالیٰ کے آپ کے ساتھ بڑے والہانہ تعلقات تھے
عید کے موقع پر آپ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں سے

عید شد، ہر کس زیارے عیدشہ دار دو ہوس
عید موم و دین مہ، عید ما دیدار تو
۱۳ محرم الحرام ۲۲ جون ۱۹۲۹ء کو آپ کا وصال ہوا کہ اور آپ سیال شریف

میں اپنے جد امجد حضرت خواجہ شمس العالی سیالوی قدس سرہ کے پلو میں محو استراحت ہوئے۔ موجودہ
زیب سجادہ عالیہ سیال شریف شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین دام ظلہ اللہ قدس، تھریک پاکستان
کے عظیم مجاہد، اسلات کی یادگار اور موجودہ دور کے اعتقادی فتنوں کے لئے شمشیر تریاں ہیں، مولانا
کریم قوم کو ان سے پیش از پیش مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

مولانا سلطان محمد فاروقی مولانا

مولانا فیض احمد مولانا

مولانا ایضاً

مولانا سلطان محمد فاروقی مولانا

استاذ الافاضل مولانا سید ضیاء الدین سلطان پوری قدس سرہ

عالم باعمل، فقیہ زمان مولانا سید ضیاء الدین ابن مولانا سید حمید شاہ قدس سرہ ماقرینا
۱۳۱۲ھ/۵-۱۸۹۴ء میں سلطان پور ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان علم و فضل
اور تقویٰ و پرہیزگاری میں مشہور و معروف تھا۔ الحمد للہ یہ خاندان آج بھی اسی بزرگی اور
فضیلت کا حامل ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مولانا احمد دین قدس سرہ (والد ماجد) اساتذہ
مولانا صاحب النبی دامت برکاتہم العالیہ سے حاصل کی۔ ترکیب پڑھنے کے لئے موضع شاہراہ (ضلع
کیلی پور) میں صرف و نحو کے مشہور آفاق استاذ (نام معلوم نہیں ہوگا) کی خدمت میں حاضر ہوئے
بعد ازاں مختلف اساتذہ سے استفادہ کرتے ہوئے اہل سنت کے مایہ ناز فاضل مولانا
مشتاق احمد کانپوری ابن مولانا احمد حسن کانپوری قدس سرہ کی خدمت میں اجتماعت حاضر ہوئے
اور معقول و منقول کی منتہی کتب کا درس لیا۔ دورہ حدیث شریف دہلی میں غالباً جامعہ امینیہ
میں پڑھا۔ مولانا سید ضیاء الدین حضرت پر میر علی شاہ گورنری قدس سرہ کے مخلص مریدین
میں سے تھے۔ بارہ سیال شریف کے سفر میں حضرت برصاحب کے ہم سفر رہے۔

حضرت مولانا سید ضیاء الدین رحمانہ تعالیٰ نے فراغت کے بعد ۱۳۳۶ھ میں سلطان
میں دارالعلوم حمید کے نام سے دینی مدرسہ قائم کیا اور وصال سے دو-تین سال پہلے تک
علوم و نبیہ کا درس لی سبیل اللہ دیتے رہے۔ ویسے تو تمام علوم میں دسترس رکھتے تھے لیکن فقہ
اصول فقہ اور میراث میں خاص طور پر ید طولی رکھتے تھے۔ استاذ الافاضل مولانا صاحب النبی دامت
برکاتہم العالیہ ان کی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے فقہی جزئیات کا ایسا ماہر کوئی شخص نہیں
دیکھا۔ علم و فضل کے باوجود آپ سرسراہ اخلاق و پیکر شفقت، متواضع اور حلیم الطبع شخصیت کے
مالک تھے، سحری کے وقت طلباء کو درس دیتے اور نماز کے بعد مل چلاتے، آخر دم تک زبا جماعت
ادا کرتے رہے۔ آپ کے گاندہ میں یہ حضرات قابل ذکر ہیں:-

۱۔ مولانا سید غلام محی الدین مظاہر مہتمم ضیاء العلوم جامعہ ضیاء ضیاء راولپنڈی۔

۲۔ مولانا سید عبدالرحمن شاہ مدظلہ خطیبِ حجازی جامع مسجد ہری پور۔

۳۔ مولانا سید حسین الدین شاہ مدظلہ اعلیٰ ضیاء العلوم جامعہ رضویہ سبزی منڈی راولپنڈی۔

۴۔ مولانا عبدالحق مہتمم مدرسہ مفتاح العلوم بگٹی (حضرت)

۵۔ مولانا حافظ عبدالغفور مہتمم جامعہ غوثیہ بھارتہ بازار راولپنڈی (دو غیر ہم)

اول الذکر تین حضرات مولانا سید ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ان گرامی ہیں ان کے افکار و کردار کی بلندی کو دیکھ کر ان کے والد ماجد کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے جن کے فیضِ بیعت سے تینوں صاحبزادے آج دنیا کے شہسوار ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ راولپنڈی کی مشہور دینی درس گاہ ضیاء العلوم جامعہ رضویہ (سبزی منڈی) مولانا سید ضیاء الدین قدس سرہ کے نام ہی کی طرف منسوب ہے۔

۱۔ اجمادی اثنا عشر ۱۹ جولائی (۱۳۹۳ھ/۱۹۷۴ء) بروز جمعرات حضرت مولانا سید ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، دوسرے دن بارش کے باوجود ہم غیر نے نمازِ جنازہ میں شرکت کی، سلطان پور میں آپ کے آبائی قبرستان میں آخری آرام گاہ بنائی گئی۔ مدظلہ لحدوت اور رمضان المبارک ۱۳۹۲ھ میں آپ کی زیارت سے شرف ہوا تھا۔

۲۔ یہ حالات مولانا سید حسین الدین شاہ مدظلہ نے فراموش کئے۔

حضرت ابو مخدوم سید محمد طاہر اشرف شاہ جیلانی قدس سرہ

حضرت ابو مخدوم سید محمد طاہر اشرف شاہ اشرفی جیلانی ابن حضرت سید حسین اشرف شاہ جیلانی قدس سرہ (۱۸۶۴ھ/۱۹۰۰ء) ۱۲ ربیع الاول ۱۲۸۶ھ/۱۳۰۵ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت والد ماجد سے حاصل کی، تزکیہ نفس کے ابتدائی مراحل بھی انہی سے طے کئے، والد گرامی کے وصال کے بعد جامع فتہوری سے طے مدرسہ میں ملا مفتی غلام حبیب احمد علوی سے دینی علوم کی تکمیل کی، مفتی صاحب نے آثارِ نبیہ و سعادت دیکھتے ہوئے اپنی صاحبزادی کا عقد آپ سے کر دیا، اسی دوران ایک بزرگ کسبِ پوش نے باطنی تربیت میں آپ کی رہنمائی فرمائی لیکن بیعت نہیں کیا بلکہ مشہدِ کامل کے طے کی بشارت دی، چنانچہ مرجع المشائخ حضرت سید شاہ علی حسین شاہ اشرفی قدس سرہ دہلی تشریف لائے تو آپ کو بیعت کیا، سلسلہ عالیہ قادریہ سر اجینا اشرفیہ میں اجازت و خلافت سے شرف فرمایا۔

مشہدِ کامل کے ارشاد پر عازمِ شہر ہوئے اور بارہ سال تک ریاضت و مجاہدہ میں مصروف رہے، واپس تشریف لانے پر لاکھوں مسلمان آپ کے فیضِ صحبت سے مستفیض ہوئے اور صد ہا غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ چار دفعہ حرمین شریفین کی زیارت سے بہرہ ور ہوئے اور بلادِ اسلامیہ کی سیاحت کی، ۱۹۲۷ء میں تقسیم ملک پر اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے کراچی تشریف لے آئے۔ ابتداً کسبائے معاشی ہسپتال کی بارگاہ میں قیام رہا بعد ازاں فروس کالونی میں مسکن سادات اشرفیہ کی بنیاد ڈالی، آپ کی طبیعت سادگی اور نفاست کا بہترین مرقع تھی، اقوال و افعال اور نشست و برخاست میں سنتِ مبارکہ کی پیروی کو مد نظر رکھتے۔ آپ کے مریدین کا وسیع سلسلہ پاک و ہند کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔

آپ کا معمول تھا کہ ہر شخص کی بات پوری توجہ سے سنتے اور اس کی تسکین کے لئے ہر امکانی سعی فرماتے یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضری دینے والا بیٹھنے کے لئے آپ کا عقیدت کیش بن جاتا تھا لے

اورادو وظائف اور کرنے کے علاوہ پابندی کے ساتھ تبلیغ و ارشاد کی محض منعقد فرماتے، دعاء، تعویذ اور روم کے ذریعے اہل حاجت کی دستگیری فرماتے۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ایک دفعہ آپ کلکتہ میں تشریف فرما تھے کہ بستی دیکر بند (صوبہ بہار) کے چند سرکردہ افراد نے آگیا ایک ہندو جادوگر کے مظالم کی داستان سنائی اور اس کا شرّ و فحش کرنے کی درخواست کی آپ اس بستی میں تشریف لے گئے۔ جادوگر کو پتہ چلا تو ایسا فسوں پھونکا کہ بستی کے گرد شعلے بھڑکنے لگے لیکن آپ کی برکت سے کوئی نقصان نہ ہوا، جادوگر نے آپ کو چیلنج کیا کہ اگر کوئی کمال ہے تو دکھاؤ! آپ نے فرمایا ہم کوئی جادوگر نہیں ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے تمہارا کوئی جہر بہ کامیاب نہ ہوگا۔ آپ نے کعبیت میں ایک چادر پائی بھجوائی اور اسے دار کرنے کے لئے کہا۔ اس کے جادو سے ایک آنشیں دائرہ پیدا ہوا جس کی تپش دور دور تک پہنچتی تھی آپ کے سر پر جا کر شعلہ بار ہوا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو وہ آنشیں دائرہ جادوگر کی طرف پھینکا اور ہم کی طرح زمین میں دھنس گیا جہاں سے پانی اُبل پڑا۔ یہ صورت حال دیکھ کر نہ صرف وہ جادوگر مسلمان ہو گیا بلکہ اس آبادی کے پانچ چھ ہزار غیر مسلم دولت اسلام سے مشرف ہو گئے لے

آپ کے ایک صاحبزادے مخدوم اشرف شاہ جیلانی آپ کی زندگی ہی میں وصال فرما گئے تھے، آپ نے وصال کے وقت دو صاحبزادیاں اور تین صاحبزادے یادگار چھوڑے تھے صاحبزادگان کے نام یہ ہیں۔

۱۔ صاحبزادہ شہناز بیگم

۲۔ صاحبزادہ شہناز بیگم

۳۔ صاحبزادہ شہناز بیگم (مملوکہ شریفہ پاکستان سے کراچی ۱۹۵۰ء میں آئی)

۴۔ صاحبزادہ شہناز بیگم

۱۔ حضرت ابو محمد سید احمد اشرف شاہ جیلانی، سجادہ نشین درگاہ عالیہ اشرفیہ۔
۲۔ سید طیب اشرف جیلانی۔ ۳۔ سید مظاہر اشرف جیلانی۔

۱۴۔ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۱ھ (۲۲ اکتوبر ۱۹۶۱ء) کو حضرت سید محمد مظاہر اشرف جیلانی قدس سرہ کا وصال ہوا اور فردوس کالونی (کراچی) میں عمارتِ استراحت اہدی ہوئے، مولانا سید حامد حسن قادری نے قطعہ تاریخ وفات لکھا ہے

مخدوم جناب مظاہر اشرف دین و دنیا میں فرد کمال
اشرفی و قادری و چشتی اہل تقویٰ و صاحب دل
پر وہ فرما کے اس جہاں سے اب ہو گئے اپنے رب سے واصل
ہو روح پر ان کی رحمت حق گزار ہوا ان کی پہلی منزل

تاریخ یہ قادری نے لکھی

جاوید وصال ذات حاصل لے

۱۳۰۸

۱۔ صاحبزادہ شہناز بیگم

۲۔ صاحبزادہ شہناز بیگم

۳۔ صاحبزادہ شہناز بیگم

۴۔ صاحبزادہ شہناز بیگم

حضرت مولانا پیر سید ظہور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ

مجمع جمال صوری و معنوی، صاحب کمال قاسمی و باطنی حضرت مولانا پیر سید ظہور شاہ ابن مولانا پیر سید محمد شاہ قادری رحمہ اللہ تعالیٰ جلال پور جہاں منلیج گجرات میں ۱۳۰۹ھ/۱۸۸۸ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کے اجداد کثیر سے آکر جلال پور میں مقیم ہو گئے تھے جب سن شعور کو پہنچے تو قرآن پاک مولانا نفا نور الدین رحمہ اللہ تعالیٰ سے جلال پور میں پڑھا اور کچھ دیکھی تبیں بھی اعلیٰ سے پڑھیں، بعد ازاں کچھ عرصہ برادر مکرم مولانا سید اعظم شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جوں میں استفادہ کرتے رہے، پھر کچھ وقت لیشاد و رہے اور آخر میں بریلی شریعت جا کر کسب فیض کیا اور فراغت حاصل کی اپنے والد ماجد کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور خلافت سے مشرف ہوئے ان کے علاوہ شیر بانی حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی استفادہ کیا۔

حضرت پیر صاحب اپنے دور کے مقبول ترین مقرر تھے، آپ جہاں وعظ فرماتے، ہزاروں کا اجتماع ذوق و شوق سے شریک مجلس ہوتا۔ آپ کا خصوصی وصف یہ تھا کہ عوام الناس کو عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی بھر پور تلقین کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کا ذکر کرایا کرتے تھے جس کا حاضرین کے دل پر نہایت خوشگوار اثر پڑتا تھا اور بہت سے لوگ راہ راست پر آجاتے قدیمت ایزدی نے آپ کو زور بیان، وجد اور خوش الحانی اور حسن ہیرت و صورت کا حصہ وافر عطا فرمایا تھا۔

آپ مسلک اہل سنت و جماعت کو بڑے مدلل طریقے سے بیان فرمایا کرتے تھے اور عقائد باطلہ خاص طور پر اہل تشیع کا رد بڑی خوبی سے فرمایا کرتے تھے، انسان تو انسان، حیوان بھی آپ کے حسن بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔

ایک دفعہ موضع کند وال منلیج جہلم میں بہت بڑے اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے کہ ایک اونٹ سواراگر فضل میں شریک ہوا، جب اس نے اونٹ کو بانہنا چاہا تو اس نے

شور مچا دیا، حضرت پیر صاحب نے فرمایا: "اسے چھوڑ دو، یہ بھی کالی کالی داسے آفا (ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

کا ذکر سننا چاہتا ہے"

چنانچہ وہ اونٹ خاموشی سے بیٹھ گیا اور جب تک تقریر جاری رہی خاموشی سے بیٹھا سنتا رہا۔

حضرت پیر صاحب شریعت مطہرہ کی سختی سے پابندی فرمایا کرتے تھے، کوئی کام غلط شریعت دیکھتے تو بروقت اس کی ممانعت کرتے۔ موضع بوچھال کلاں (منلیج جہلم) میں ایک عظیم اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے کہ انگریز ڈپٹی کمشنر سہ ماہ گزرتے ہوئے انہوں کو کثیر دیکھ کر رک گیا اور جلسہ گاہ میں جا کر مجمع کی تصویر تارنے لگا، آپ نے فوراً منلیج فرمادیا اور فرمایا: ہمارا دین اس کی عبادت نہیں دیتا۔ دماغ ختم ہونے پر وہ انگریز آپ کی خدمت میں بڑے احترام سے حاضر ہوا اور عذرت کر کے رخصت ہوا۔

آپ نے تقریباً چالیس برس تک وعظ و ارشاد کے ذریعے عوام الناس کے دلوں کو نور ایمان سے گرمائے رکھا اور دور دراز علاقوں میں جا کر دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا خاص طور پر جہلم، گجرات اور سرگودھا کے قصبوں اور دیہاتوں میں آپ کا دورہ اکثر ہوا کرتا تھا تبلیغ دین کے سلسلے میں آپ نے بڑی بڑی صعوبتوں کو برداشت کیا اور کسی بھی موقع پر آپ کے عزم میں تزلزل پیدا نہیں ہوا۔

ایک مرتبہ ایک شیخ نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اور الزام لگایا کہ یہ اہل تشیع کو برا بھلا کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کے صاحبزادے سید فخر الزمان شاہ قادری (جن کی عمر اس وقت چھ سات سال کی تھی) نے جب آپ کو ہتھکڑی پہنے ہوئے دیکھا تو رو دئے اور پوچھا: آپ کو یہ زنجیر کس نے لگائی ہے؟ آپ نے انہیں دلاسا دیا اور فرمایا: بیٹا! یہ اسلام کی خاطر میرا زنجیر ہے۔ یہ کیس تین ماہ تک چلتا رہا، بالآخر ہندو جج کنول نمین نے آپ کو باعزت طور پر بری کر دیا اور فیصلے میں لکھا کہ میں ایسے شخص کے بارے میں تصدیق نہیں کر سکتا کہ وہ کسی

کو گالی دے، یا غلاب شائستگی کوئی بات زبان پر لائے۔

حضرت پر صاحب کامیاب مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ کے کلام میں بڑا کثرت تھا۔ آپ کے کلام کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ دیہاتی عورتیں بھی دودھ بلوتی اور آٹا پیستی ہوئی آپ کے اشعار پڑھا کرتی تھیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرتی تھیں۔

آپ نے وعظ و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی نہایت خوش اسلوبی سے جاری رکھا اور نہایت مفید اور مقبول عام تصانیف کا ذخیرہ یادگار چھوڑا جن میں اصلاح اعمال کے علاوہ عقائد باطلہ خاص طور پر مزہمت اور تشبیح کی مدلل تردید کی ہے۔ کتب کی تصانیف کے نام درج ذیل ہیں :-

- ۱۔ ظہور صداقت در رقر زائیت
- ۲۔ قہر زبانی بر سر مجال قادیانی
- ۳۔ نور ہدایت
- ۴۔ ظہور ہدایت
- ۵۔ شمشیر پیر برگردن شریہ
- ۶۔ وظائف حضوری
- ۷۔ چرخہ ظہوری
- ۸۔ خطبات تلکوی
- ۹۔ سیف مرید بر فقرہ یزید
- ۱۰۔ مصاصم حقیقیہ
- ۱۱۔ سیف النور دین علی رؤس الفاسقین
- ۱۲۔ مرغوب العابدین المعروف بمحبوب العاشقین
- ۱۳۔ ظہور کرامت
- ۱۴۔ وغیرہ وغیرہ

آپ کے ہاں چار صاحبزادیاں اور چار صاحبزادے سید قرآن شاہ، سید قرآن شاہ (فاضل حزب الاحناف، لہجو و مجاہد نشین، دربار شریف تلکوی، منارہ منارہ ضلع جہلم، سید محبوب اللہ شاہ اور سید عادل مستحکم تولد ہوئے۔

حضرت پیر سید ظہور احمد شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ۲۲ جمادی الاولیٰ ۸۱ فروری (۱۳۴۲/۱۹۵۳ء) انوار اور پیر کی درمیانی رات کو وصال فرمایا جزائر انور منارہ ضلع جہلم میں ہے، آپ کے خلف الرشید مولانا سید فتح الزمان شاہ قادری مظلہ ہر سال آپ کا عرس باقاعدگی سے کرتے ہیں۔

مولانا حکیم سید ظہور اللہ شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ

واعظ خوش بیان، طبیب عاقل مولانا حکیم سید ظہور اللہ شاہ بن مولانا سید چراغ شاہ ۱۲۸۴ھ/۱۸۶۱ء میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، علوم دینی کی تکمیل اپنے بڑا و معظم مولانا حافظ سید عبداللہ شاہ سے کی، فن طب کی تکمیل حکیم فضل دین سیالکوٹی سے کی، آپ بہترین خوشنویس اور جید عالم دین تھے، چند سو سال تک جامع مسجد دربار امام علی الحق قدس سرہ میں خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے، مکرئی سید نور محمد قادری مظلہ العالی کے پاس آپ کے ہاتھ کی کئی ہفتا حمال شریف موجود ہے جو آج سے ستر سال پہلے اتحاد پریس سیالکوٹ میں طبع ہوئی تھی۔

عارف و طبیب مولانا حکیم خادم علی رحمہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے مخلصانہ روابط تھے۔ ۱۳۶۶ھ/۱۹۴۶ء میں جب آپ کا وصال ہوا تو متعدد شعرا نے مرثیہ لکھے، حضرت حکیم خادم علی قدس سرہ کے مرثیہ کے چند اشعار ملاحظہ ہوں :-

سید والا حسب عالی نسب	صاحب ہر دور، علم و ادب
وہ طبیب عاقل و مرد خلیق	تھا غریبوں کا ہی خواہ اور رفیق
تھا وہ شاگرد حکیم فضل دین	طب و حکمت میں جو تھا مرد گزین
اس کی فرقت میں ہے اب شام و گپاہ	زار و نالان شاہ نور اللہ شاہ
وہ رہا یاد خدا کے شوق میں	عمر ساری کی بسر اس نوق میں
مرنے والے کا ہو جنت میں مقام	صبر کی دولت سے ہوں سب کا کام

ختم کر خادم دعا پر اب یہیں

اس کو بخشے ذات رب العالمین

آپ حضرت شاہ شیدائے پیر و مرشد حضرت شاہ دولہ درباری قدس سرہ کی درگاہ میں مدفون ہیں لہ

لے بہ حالات انہوں نے ہی فراہم کئے ہیں۔

لے بہ حالات انہوں نے ہی فراہم کئے ہیں۔

مجاہدیت مولانا شاہ محمد عبدالحمید قادری بدایونی قدس سرہ

تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما حضرت مولانا شاہ محمد عبدالحمید قادری بدایونی ابن مولانا حکیم عبدالقیوم شہید (م ۱۳۱۸ھ) ابن مولانا حافظ فرید جیلانی ابن مولانا محمد الیاس ابن مولانا سیف اللہ اسلول شاہ فضل رسول بدایونی قدس سرہ ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں دہلی میں اپنے خلیاں کے ان پیدا ہوئے محمد ذوالفقار حق (۱۳۱۸ھ) تاریخی نام تجویز ہوا کہ ابھی آپ کی عمر میں دن بھر کی تھی کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے وصال کا واقعہ بڑا روح پرور ہے۔ پٹنہ بہار میں ایک عظیم الشان اجلاس منعقد ہو رہا تھا جس میں شرکت کے لئے آپ تین سو علماء کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک اسٹیشن پر بصر کی نماز ادا کی اتنے میں گاڑی میں دی آپ سوار ہوتے ہوئے پہیوں میں پھنس گئے، زخم اس قدر تھے کہ ستر ٹانگے لگانے لگے، اسی حالت میں اجلاس میں شریک ہوئے، تمام تقریریں سنیں، اختتام پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، رقت کے عالم میں ٹانگے ٹوٹ گئے اور صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہوئے مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔

آپ کا خاندان شریعت و طریقت کے اعتبار سے نہ صرف بدایوں بلکہ پورے ہندوستان میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، مسلک اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت اور فرقہ باطلہ کی تردید میں اس خاندان کی مساعی جمیدہ ناقابل فراموش ہیں۔

مولانا عبدالحمید قادری اور ان کے بڑے بھائی مولانا عبدالحمید قادری کی تعلیم و تربیت کا تمام تر انتظام ان کی والدہ ماجدہ اسید بہار الدین دہلوی کی حمیہ نے کیا۔ ابتداً اپنے آبائی

سلسلہ محمد ایوب قادری اور فیصلہ مدرسہ مسلم علوم بدایوں، مجدد علم و ادب کراچی، خصوصی شاہدہ ۱۹۷۷ء، ۱۹۷۸ء

سلسلہ محمد احمد قادری مولانا، تذکرہ علماء اہل سنت ۱۵۹ ص

سلسلہ محمد فاروق احمد سید، گلستانہ عقیدت امرتسر، عبدالحمید قادری و مطبوعہ کراچی ۱۹۷۱ء، ۱۹۷۱ء، ۱۹۷۱ء

درسد، مدرسہ قادریہ میں تعلیم حاصل کی، آخری دو سال انبیاء کی تکمیل اور فنِ قرأت کی تحصیل کے لئے مدرسہ اللمیہ کانپور میں رہے۔ آپ کے اساتذہ میں آپ کے مرشد برحق حضرت مولانا شاہ عبدالحمید قادری بدایونی قدس سرہ کے علاوہ حضرت مولانا صاحب احمد قادری، مولانا حافظ بخش بدایونی، مولانا قدیر بخش بدایونی، مولانا مفتی محمد ابراہیم، مولانا مشتاق احمد کانپوری، مولانا واحد حسین اور مولانا عبدالسلام فلسفی کے نام ملتے ہیں۔

تکمیل کے بعد مدرسہ شمس العلوم، بدایوں کے نائب منتم مقرر ہوئے اور تین سال تک سرہ کے انتظام و انصرام اور ترقی میں کوشاں رہے۔ اسی زمانے میں تحریکِ خلافت شروع ہوئی تو مولانا عبدالحمید قادری فرنگی عمل لے لکھنؤ سے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کو حضرت مولانا شاہ عبدالحمید قادری بدایونی کی خدمت میں بدایوں بھیجا، انہوں نے مہمانوں کی خوب خاطر مدارات کی اور اپنے خاندان کے تمام افراد کو جوڑا اور مولانا عبدالحمید قادری اور مولانا عبدالحمید قادری کو حکم دیا کہ انگریزی استعمار کے لئے عمل برداران اور ان کے رفقاء کا ساتھ دیں، پیروم شد کے حکم کے مطابق مولانا عبدالحمید قادری اور مولانا عبدالحمید قادری نے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں جا کر تحریکِ خلافت کا پیغام پہنچایا، مولانا عبدالحمید قادری، لاٹکرت خلافت کمیٹی، بدایوں کے جنرل سیکرٹری رہے، خلافت پر انڈیشن کمیٹی اور سنٹرل خلافت کمیٹی، بمبئی کی مجلس عامہ کے رکن رہے۔

گاندھی نے تحریکِ خلافت میں شریک ہو کر قائدانہ پوزیشن حاصل کر لی تھی، مسلمان اپنی سادہ لوحی کی بنا پر ہندوؤں کو اپنا ہمدرد تصور کر بیٹھے تھے، لیکن شدھی تحریک شروع ہونے پر متکشف ہوا کہ ہندو کے عیار ذہن میں مسلمانوں کے خلاف کیا کیا منصوبے پرورش پارہے ہیں، مولانا عبدالحمید قادری بدایونی شدھی تحریک کے شروع ہوتے ہی کانگریس سے الگ ہو گئے اور مرکزی تبلیغ الاسلام، انہار اور راکرہ میں شریک ہو کر ہر اس جگہ میں پہنچے جہاں شدھی تحریک کام کر رہی تھی۔

سلسلہ محمد فاروق احمد سید، گلستانہ عقیدت، ص ۲۲-۲۱

ہندوؤں کی تنگ نظری اور اسلام دشمنی کے پیش نظر ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کی الگ جماعت قائم ہونی چاہیے چنانچہ جب مسلم کانفرنس قائم کی گئی تو مولانا عبدالحمید بدایونی اور تحریک خلافت کے اکثر مسلم رہنما مسلم کانفرنس میں شریک ہو گئے۔ لندن کانفرنس کے بعد دہلی میں مولانا شوکت علی کی قیام گاہ پر مسلم زعماء کا اجلاس ہوا تو مولانا عبدالحمید بدایونی نے بھی اس میں شرکت کی اس اجلاس میں طے ہوا کہ آئندہ انتخابات میں صرف مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندگی کرے گی۔ مولانا عبدالحمید بدایونی نے یو پی، سی پی، بہار، اترپردیش، بنگال، آسام، بھٹی، کراچی، سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے دور افتادہ علاقوں میں جاکر عامۃ المسلمین کو مسلم لیگ کے حق میں ووٹ دینے پر تیار کیا۔ پیر صاحب ماگی شریف کے ایہا پر قائد اعظم نے انہیں صوبہ سرحد میں بھیجا، جہاں آپ نے خان برادران کے اثرات کو نازل کر کے مسلم لیگ کی مقبولیت کو چار چاند لگا دئے، انہی خدمات کی بنا پر آپ کو فاتح سرحد کا لقب دیا گیا تھا۔ سندھ اور گلگت میں مولوی حسین احمد نڈوی کا بڑا اثر و رسوخ سمجھا جاتا تھا، مولانا بدایونی کی ولولہ انگیز تقریروں نے کانگریس کے علمبرداروں کو توڑ کر مسلم لیگ کے نمائندہ کو کامیاب کرایا۔

حافظ بشیر احمد غازی آبادی لکھتے ہیں:-

آج کے بہت سے (کانگریسی) علماء جو پاکستان میں نظریہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں اور مختلف سیاسی پلیٹ فارموں سے اپنی حب الوطنی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ہمنوا تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مقابلے میں حریفانہ سیاسی چالیں چل رہے تھے، خدا مولانا عبدالحمید بدایونی کو کوٹ کوٹ جنٹ لیسٹیٹ کے جنت نصیب کر کے انہوں نے اس معاذ پر غیبت سٹ علماء کا مقابلہ کیا اور مسلم لیگ میں اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کیں۔

سید محمد فاروق احمد سید، گلستانہ عقیدت، ص ۳۳

سید بشیر احمد غازی آبادی، حافظہ، گلستانہ عقیدت، ص ۳۲

۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کو منٹو پارک لاہور کے تاریخی اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تو مولانا عبدالحمید بدایونی مسلم لیگ کے ان زعماء میں شامل تھے جنہوں نے قرارداد کی تائید میں تقریر کی۔ ۳۰ اگست ۱۹۴۷ء کو قائد اعظم نے پاکستان کی صدارت میں پاکستان کانفرنس منعقد ہوئی، اس کانفرنس میں آپ نے پاکستان کے حق میں طویل خطبہ ارشاد فرمایا جو بعد میں نظامی پریس بڈایوں سے چھپ کر ملک بھر میں تقسیم ہوا۔ ۱۹۴۵ء میں قائد اعظم اور میر عثمان علی خاں فرزانہ واسے دکن کے باہمی اختلافات ناکر صورت اختیار کر گئے تو قائد اعظم نے علی خاں فرزانہ واسے دکن عبدالحمید بدایونی کو منتخب کیا تاکہ اختلافات ختم کرانے کے لئے دونوں راہنماؤں کی ملاقات کا راستہ ہموار کریں۔ والی دکن مولانا بدایونی کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے اور انہیں اپنی جلسوں میں تقاریر کے لئے مدعو کیا کرتے تھے۔ مولانا نے فرزانہ واسے دکن سے ملاقات کی اور طویل گفتگو کے بعد انہیں قائد اعظم سے ملاقات کرنے پر آمادہ کیا۔

۱۹۴۶ء میں آل انڈیا کانگریس، بنارس میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ اسے کامیاب بنانے میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ ۱۹۴۶ء میں علماء کا ایک وفد نماز مقدس گیا جس کے قائد مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عبدالمعین صدیقی میرٹھی اور جنرل سیکریٹری مولانا بدایونی تھے، اس وفد نے نہ صرف حجاج پر عائد کردہ ٹیکس ختم کرنے کے سلسلے میں حکومت ہندوستان سے مذاکرات کئے بلکہ عالم اسلام کے دینی اور سیاسی راہنماؤں کے سامنے نظریہ پاکستان کو مؤثر طور پر پیش کر کے پاکستان کی حمایت پر آمادہ کیا۔

قیام پاکستان کے بعد آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لئے کراچی تشریف لائے تو زعماء پاکستان کے اصرار پر مستقل طور پر یہیں قیام پذیر ہو گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان کسمپرسی میں مبتلا ہیں تو آپ نے ایک اجلاس میں ہندوستان کے تمام صوبوں اور مقامی نمائندوں پر مشتمل مرکزی مجلس

سید امیر علی امام سید، مولانا عبدالحمید بدایونی پر ایک نظر (مطبوعہ معین)

سے ایضاً۔

کمیٹی کی بنیاد ڈالی جو عوامی اور سرکاری سطح پر مہاجرین کی آباد کاری اور ان کی ضروریات کی فراہمی کے لئے مسلسل کوشش کرتی رہی۔

۱۹۴۷ء میں آپ کی تحریک پر ویدرٹا اور کلاچی سیٹا والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم شان مجلس نکلا جس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ محمد ایوب کھوڑو بھی پاپیادہ شریک ہوئے اس کے علاوہ غفار راشدین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایام شان و شوکت سے منانے کا اہتمام بھی آپ ہی نے شروع کیا، ان اجتماعات میں پاکستان کے گورنر جنرل اور وزیر اعظم نے بھی شرکت کی۔

۱۹۴۸ء میں مولانا شاہ عبدالعظیم میرٹھی کی قیادت میں سندھ کے علماء و مشائخ کے ایک وفد نے قائد اعظم سے ملاقات کی جس میں مولانا بدایونی بھی شریک تھے اور تفصیلی یادداشت پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا:

" ملک پاکستان کا دستور کتاب و سنت کی روشنی میں تیار کیا جائے اور دیگر اسلامی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی وزارت امور مذہبیہ قائم کی جائے"۔

جمعیت العلماء پاکستان کے قیام اور استحکام کے لئے ابتدا ہی سے آپ نے اپنی کوششیں وقت کر رکھی تھیں، حضرت علامہ ابوالحسنات قادری کے وصال کے بعد جمعیت کے مرکزی صدر بنے اور اپنی شیاطین و زعمت سے جمعیت کو چار چاند لگا دئے، مولانا ان علماء میں شامل تھے جنہوں نے ۲۲ نکات پر مشتمل دستوری خاکہ مرتب کیا تھا۔ ۱۹۵۳ء میں جب تحریک ختم نبوت شروع ہوئی تو اس میں آپ نے کھل کر حصہ لیا اور انتہائی عظمت کے باوجود فروری ۱۹۵۳ء سے جنوری ۱۹۵۴ء تک کراچی اور سکھر کی جلیوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔

۱۹۶۲ء میں اسلامی مشاورتی کونسل کے رکن نامزد ہوئے، اس ضمن میں انہوں نے

سید امیر علی ام سید ۱ مولانا عبدالحمید بدایونی پر ایک نظر

کونسل کو اہم سفارشات پیش کیں، ۱۹۶۵ء میں پاک بھارت جنگ چھڑی تو آپ نے علماء اہل سنت کی ایک جماعت کے ساتھ ملک بھر کا دورہ کیا اور تین لاکھ روپے کے کپڑے اور دیگر ضروری ساز و سامان مہاجرین کشمیر میں تقسیم کیا۔

مولانا عبدالحمید بدایونی نے قدیم اور جدید علوم کے ساتھ ساتھ دنیا کی اہم زبانوں کی تعلیم کے لئے کئی لاکھ روپے صرف کر کے منگھو پیر روڈ، کراچی میں جامعہ تعلیمات اسلامیہ کے نام سے عظیم درس گاہ قائم کی، آپ کی اپنی پرنسپل اور اسلامی ممالک کے سربراہوں نے دل کھول کر امداد کی یہ ادارہ آج بھی علوم دینیہ کی خدمت میں مصروف ہے۔

آپ چین، روس، مصر، ترکی، تیونس، ناٹجیریا، کویت، عراق، ایران اور مجاز مقدس گئے اور سندھ کشمیر کی اہمیت کو واضح کیا۔ آپ نے بائیس مرتبہ شریفین کی حاضری کی سعادت حاصل کی تہ آپ کے شاہ فیصل، صدر ناصر، ڈاکٹر محمد حقیقی، عبدالسلام عارف (عراق) مفتی اعظم فلسطین سید امین العینی اور مسلمانان روس کے مفتی اعظم سے ذاتی مراسم تھے اور ان حضرات نے آپ کی وفات پر تعزیتی بیٹا میں آپ کی دینی اور علمی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا تہ

آپ نے بے اندازگی و ملی مشاغل کے باوجود قابل قدر تصانیف کا ذخیرہ یادگار چھوڑا، چند تصانیف کے نام یہ ہیں:-

- ۱۔ فلسفہ عبادات اسلامی
- ۲۔ تصحیح العقائد
- ۳۔ نظام عمل
- ۴۔ کتاب و سنت عیروں کی نظریں
- ۵۔ اسلام کا زراعتی نظام
- ۶۔ اسلام کا معاشی نظام
- ۷۔ مرتبہ کالج لیس (مطبوعہ ۱۹۳۸ء)
- ۸۔ مشرقی کا ماضی و حال

سید امیر علی ام سید ۱ مولانا عبدالحمید بدایونی پر ایک نظر

سید بشیر احمد غازی آبادی ۱ گلہ سہ عقیدت ، ص ۳۵

سید امیر علی ام سید ۱ مولانا عبدالحمید بدایونی پر ایک نظر

۱۲. حرمتِ سود

۹. اتخابات کے ضروری پہلو

۱۳. تاثراتِ دورہِ ندوس

۱۰. الجواب اشکور (عربی)

۱۴. تاثراتِ دورہِ چین

۱۱. اسلامک پریزیڈنٹ (انگریزی)

۱۵. مشیرِ لہاج لے

بجورہ لٹائے کراچی میں مولانا بدایونی اکیڈمی قائم ہو چکی ہے، امید ہے کہ آپ کی تصانیف کو از سر نو شائع کرنے کے کو اولیت دی جائے گی۔

۱۵۔ جمادی الاولیٰ، ۲۰، جولائی (۱۹۷۰ء/۱۳۹۰ھ) کو تحریکِ پاکستان کے صوبہ اول کے سہ ماہیہ عالم ہائل مولانا شاہ محمد عبدالحماد بدایونی قادری قدس سرہ کا جناح ہسپتال، کراچی میں وصال ہوا۔ آپ کی آخری آرام گاہ جامعہ تعلیماتِ اسلامیہ منگھو پیر روڈ، کراچی کے عاصدہ میں بنی، سپانڈگان میں اہلیہ محترمہ دو صاحبزادے جناب محمد عبدالقادر (جنہوں نے مولانا کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں بڑا کرم فرمایا، راقم ان کا شکریہ ادا ہے) اور جناب محمد زاید القادری اور ایک صاحبزادی یادگار ہیں۔

حضرت مولانا عبدالحماد بدایونی کے وصال پر مغربِ عراق نے یہ پیغامِ تعزیت بھیجا:

”مولانا بدایونی کے چہانگ انتقال کی خبر مجھے ابھی ابھی معلوم ہوئی ہے، مولانا بدایونی علیہ الرحمۃ جنید عالم و فاضل تھے اور مسلمان قوم میں ان کا بہت بڑا مقام تھا، خدا تعالیٰ مولانا کی روح پر فتوح پر اپنے فضل و کرم کی بارش کرے“

حضرت مولانا فضل الرحمن، علامہ العالی ابن حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین دامت برکاتہم العالیہ نے برقی پیغام بھیجا:

”افسوس کہ پاکستان اور پاکستانی قوم ایک مقتدر مذہبی پیشوا اور جنید عالم اور فاضل سے محروم ہو گئی، ہمارے لٹائے مولانا علیہ الرحمۃ کے خاندان کو اس غیر معمولی

لے امیرِ عالم سید : مولانا عبدالحماد بدایونی پر ایک نظر

لے ایضاً۔

صدمہ کو برداشت کرنے کی بہت دے اور مرحوم پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے آمین؟

مولانا جمال بیابان فرنگی علی ابن حضرت مولانا عبدالباری فرنگی علی (قدس سرہ) ان الفاظ میں تعزیت کا پیغام بھیجا:

”علامہ مولانا عبدالحماد القادری البدایونی کے انتقال کی خبر سے میں غیر معمولی طور پر قلبی صدمہ محسوس کرتا ہوں، یہ حادثہ نہ صرف میرے لئے بلکہ پوری امتِ پاکستان کے لئے ایک ناقابلِ تلافی نقصان ہے“ لے

جناب سید فی ندوی نے قطعہ تاریخ کہا ہے

عبد حماد سراپائے چند ولقیں عالم دین و سرمایہ اہل دین
سرفراز سے کہ ملت از سر بلند داشت ہر آستان محمد حسین
خوش برفت از جہاں سوئے دارالبقا شد جہاں از عبدائی فاشش غمیں

باتم گفت سیفی ز سال وصال

”منبرِ عبد حماد بہشت بریں“ لے

۱۳ ۱۰ ۹

جناب صابر بہاری قادری نے عبوی سن قلب بند کیا ہے

سالِ ولعت کو جسے صاحب سبز گیند کی صدا

”عالم مشہور، حامد، عازم بارغ جنان“ لے

۱۹ ۲ ۷

لے مخلصہ حقیقت : ص ۱۱-۱۲

لے ایضاً

ص ۳۳

لے ایضاً

ص ۲

استاذ الافاضل حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ حقانی قدس سرہ

حضرت علامہ مولانا محمد عبدالحفیظ حقانی ابن مولانا عبدالحمید قدس سرہ جامعہ مداری دروازہ بریلی میں پیدا ہوئے۔ تاریخِ نبی نام حفظ الرحمن (۱۹۰۰/۵۱۳۱۸) تجویز ہوا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت ان کے وطن آنڈہ میں ہوئی۔ قرآن پاک کی تفسیر استاذ الحافظ مولانا حافظ محمد عیوض مرحوم سے حاصل کی، بعد ازاں والد ماجد سے فارسی اور عربی کی تعلیم شروع ہوئی۔ ۱۹۱۳ء میں والد ماجد کے ہمراہ ٹانڈہ چلے آئے۔ والد ماجد اس قدر محنت سے پڑھانے کر دیں کہ سفر کے دوران بھی سبق جاری رہتا۔ مولانا مفتی عبدالحفیظ حقانی قدس سرہ بے حد ذہین اور محنتی تھے۔ ۱۷ سال کی عمر میں اکثر پیشہ علوم و فنون کی تحصیل کر لی، کچھ عرصہ لکھنؤ میں حضرت مولانا عبدالسہاری فرنگی علی قدس سرہ کی خدمت میں رہ کر سراجی، شرح خمینی اور منطق و فلسفہ کی بعض کتابیں پڑھیں۔

۱۹۲۱ء میں حضرت مفتی صاحب مبارک پور، اعظم گڑھ کے مدرسہ میں مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۹۲۳ء میں آپ کی شادی بیاہوں میں ہوئی، اسی سال والد ماجد نے مدرسہ منظر حق ٹانڈہ میں اپنے پاس بطور مدرس بلا لیا۔ ۱۹۲۶ء میں مدرسہ جمعیہ بنارس میں صدر مدرس مقرر ہو گئے، ۱۹۳۰ء میں بعض اصحاب کی درخواست پر قصور (پنجاب) چلے آئے۔ ۱۹۳۴ء میں انجمن تبلیغ الاحناف کی دعوت پر امرتسر تشریف لے گئے اور مسجد سکند خاں ہال بازار میں خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس علاقہ میں مرزا بون کی سرگرمیاں شروع ہوتی تھیں مفتی صاحب نے ان کے رد میں ایک جامع کتاب السیون الکلامیہ لقطع الدعادی الغلامیہ لکھی، دو سالہ محنت سے والد ماجد بحسب التقليد لکھا جس میں تقلید شخصی کے وجوب پر بہترین

مذہب اور مولانا صاحب نے اس سے آپ کا مناظرہ ہوا جس میں آپ کو
 اللہ والہ الدین اساتذہ کرام سے مولانا صاحب نے علی خاں عبداللہ تعالیٰ

کا مناظرہ مولوی ابوالوفاء شاہچراپوٹی سے ہوا۔ اہل سنت کی طرف سے مولانا محمد عبدالحفیظ رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیوبندیوں کی طرف سے مولوی عطار اللہ شاہ بخاری صدر تھے۔ اس مناظرہ میں بھی مخالفین کو شکست ہوئی، اس کامیابی پر چند ممبران الدین مجاہد نشین درگاہ حضرت حافظ جمال الدین موٹی پاک شہید قدس سرہ (مٹان) نے آپ کو ایک قیمتی تحفہ عطا فرمایا۔

۱۹۳۶ء میں حضرت مفتی عبدالحفیظ رحمہ اللہ تعالیٰ مدرسہ نعمانیہ، فرانس خانہ دہلی میں شیخ الحدیث مقرر ہوئے، اگست ۱۹۳۹ء میں آپ جامع مسجد اگرہ کے خطیب اور مفتی مقرر ہوئے اور ۱۹۵۵ء تک وہیں رہے۔

آپ کو قدرت نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، تقریر فرماتے تو دل کی کہانیاں لگا دیتے تھے، بے وقت علم و فضل کے دریا بہا دیتے، حکیم عبدالغفور مولف موانجات المتاخرین، آنڈہ لکھتے ہیں۔

(مولوی عبدالحفیظ) مولوی عبدالحمید صاحب مرحوم کے بڑے بھائی ہیں اور ہر بات میں باپ پر سبقت ہے، علم میں، وعظ گوئی میں، جمع کی نیت میں مہو بھرتی ہیں، نہ صرف کہ ہر بات میں باپ پر فوقیت حاصل ہے۔

حضرت مفتی صاحب نے تدریس، خطابت اور مناظرہ کی گونا گوں مصروفیات کے باوجود تصانیف کا قابل قدر ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے، تصانیف درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ تکمیل الایمان ۱۔ عقائد اہل سنت پر مختصر رسالہ (چھپ چکا ہے)
- ۲۔ السیون الکلامیہ لقطع الدعادی الغلامیہ ۱۔ ردّ قادیانیت پر مدلل کتاب (امرتسر اور لاہور سے چھپ چکی ہے)
- ۳۔ الحسنی والذریعہ للحب التقليد ۱۔ تقلید شخصی کے وجوب پر بہترین رسالہ (امرتسر سے شائع ہوا)
- ۴۔ علم غیب ۱۔ طبع ہو چکا ہے۔

۵۔ عقائد محققہ اہل سنت و جماعت ۱۔ یہ رسالہ اگرہ سے چھپ چکا ہے۔

۶۔ کلام اسلام ۱۔ کلمہ طیبہ کی شرح و تفصیل (انجمن اصلاحی جماعت، اگرہ کی طرف سے شائع ہونے والا پہلا رسالہ جس کے صدر پروفیسر حامد حسن قادری اور نائب صدر

مفتی صاحب تھے

۷۔ عبادتِ اسلام :- اصلاحی جماعت اگرہ کا طے سے شائع ہونے والا دوسرا رسالہ جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ کی شرعی حیثیت بیان کی گئی ہے۔

۸۔ تہذیبِ ابراہیمیہ :- دہلائی اور دیوبندی معتقدات کو اہل سنت و جماعت کے عقائد کی روشنی میں باطل و مردود قرار دیا ہے، یہ مفید کتاب اگرہ اخبار پریس، اگرہ سے طبع ہو چکی ہے۔

۹۔ ریڈیو کے اعلان کا شرعی طریقہ :- روایتِ ہلال کے بارے میں مشروط طور پر تائید فرمائی ہے، اسی کے ساتھ دوسرا رسالہ نماز میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال تحریر فرمایا ہے، یہ دونوں رسالے بغیر مطبوعہ ہیں۔

۱۰۔ صیانتِ الصحابہ عن خرافات بابا :- بابا خلیل داس سوانی نے چند چھوٹے چھوٹے رسائل لکھے جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سواطنی کا انہما تھا مفتی صاحب نے ان رسائل کی تردید فرمائی ہے، یہ قابلِ قدر کتاب بھی چھپ چکی ہے۔

۱۱۔ متروکہ جائیداد پر مساجد :- مضمون کتاب نام سے ظاہر ہے۔ یہ رسالہ جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے چھپ کر تقسیم ہو چکا ہے۔

۱۲۔ مجروحہ فتاویٰ :- قیام کراچی کے دوران جو فتوے آپ نے تصدیق فرمائے ان کا مجموعہ بھی چھپ چکا ہے۔

۱۳۔ ارغامِ ہاڈر :- ماہر نقادوں نے ماہنامہ فاران کراچی کے تجویز نمبر اور خاص طور پر اس کے ادارہ میں بڑے شد و حد سے مسلکِ اہل سنت و جماعت کی مخالفت کی، حضرت مفتی صاحب نے اس کا جواب لکھا تھا جسے سلطان سے شائع کیا گیا۔

۱۴۔ عزائمیت پر تبصرہ :- خاتم النبیین کا صحیح مضمون، یہ رسالہ مرکزی انجمن حزب الاحناف

لاہور کی طرف سے شائع ہوا، راقم الحروف کی نظر سے گزرا ہے۔ ان کے علاوہ آپ کی تصانیف میں شیعہ ہدایت اور سوودی پر مبنی کے نام بھی ملتے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب ۱۹۵۵ء میں کراچی تشریف لائے، ابتداءً جناح مسجد میں مفتی و

خلیب رہے پھر دارالعلوم مظہر کے شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ نومبر ۱۹۵۷ء میں دارالانوار العلوم ملتان میں بحیثیت شیخ الحدیث تشریف لے گئے۔

۱۹ جون ۱۹۵۸ء کو جامعہ نعیمیہ لاہور کے افتتاحی جلسہ میں شرکت کے لئے تشریف لے

گئے ۲۱ جون کو واپسی ہوئی، راستہ ہی میں ریاحی ورد شروع ہو گیا، ۵۰ رزدا الحجہ ۲۳ جون (۱۹۵۸/۵۱۳۷۷) کو مفتی اگرہ حضرت مولانا محمد حفیظ قدس سرہ کا وصال ہو گیا۔

جنتان حسن پروادہ میں دفن ہوئے، حضرت مولانا محمد حسن حقانی مہتمم دارالعلوم امجدیہ کراچی و ایم۔ پی۔ اے منوبہ سندھ آپ ہی کے فرزند ارجمند اور اہل سنت کے مایہ ناز عالم دین ہیں۔

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا سید ابوالبرکات ٹڈاٹھ ظنگہ الاقدس نے تعزیتی مکتوب میں تحریر فرمایا :-

”حضرت مولانا مولوی عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات حسرت آیات کی بھرہشت اثر سے بے مد رنج و طلال لاحق ہوا، مولانا تعالیٰ مرحوم کو ظفر حقیت فرمائے، اس پرفتن اور پراشوب زمانہ میں مونسنا کا ہم سے ہمیشہ کے لئے مددگار بنانا قابلِ تلافی نقصان ہے۔“

آہ مولوی عبدالحفیظ آپ کی ایمان افزوز اور ضلالت مٹانے والی یاد آکر دل کو بے چین کرتی ہیں، آپ کی سالہا سال کی محبت بھری صحبتیں یاد آکر دل کو تڑپاتی ہیں۔“

پروفیسر حاجد حسن قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے قطعہ تاریخ کہا ہے

مفتی محمد الحفیظ صاحب آج	پردہ فرما کے حق سے میں وصل
نیک دل نیک طبع نیک اصناف	سر بسر پاک جان در روشن دل
واعظ خوش بیان و محقق علوم	صاحب فیض و فاضل کامل
ترتیب پاک ان کی نورانی	رشک خلد ان کی اولیں منزل

قادری نے بھی ان کا سال وصال لکھ دیا "وصل ذات کا حاصل"

۱۳ ۰ ۰ ۰

دادہ دیگر

ذو فیصل علی العالمین	۱۹ ۰ ۰ ۰
۱۹ ۰ ۰ ۰	۱۹ ۰ ۰ ۰

سید محمد ایوب قادری، پروفیسر، قلمی یادداشت

فاضل متبحر مولانا مفتی عبدالحمید قادری قدس سرہ العزیز

حضرت مولانا مفتی عبدالحمید قادری ابن استاذ الحافظ حافظ عبدالحمید قادری ۱۹۰۲-۱۹۰۳ء میں قصبہ آنور (ضلع بریلی، یو۔ پی) میں پیدا ہوئے، قرآن پاک والد ماجد سے حفظ کیا، قادری اور عربی کی ابتدائی کتابیں مولانا برکت اللہ اور مولانا رحیم بخش (م ۱۹۲۰ء) سے پڑھیں، بعد ازاں بریلی شریف جا کر مولانا رحم الہی، مولانا عبدالعزیز خاں، مولانا عبدالحمید آنوری، اور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خاں بریلوی قدس سرہ (شہزادہ اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ) سے علوم دینیہ کی تحصیل تکمیل کی۔

مولانا مفتی عبدالحمید قادری قدس سرہ نے کچھ عرصہ بریلی شریف میں سلسلہ درس و تدریس جاری رکھا، بعد ازاں جامعہ تغیر ضویہ، بنارس میں صدر مدرس اور شیخ الحدیث بنے، تقریر و تحریر پر یکساں قدرت رکھتے تھے، کتب کثیرہ میں ید طولیٰ رکھتے تھے، اعلیٰ کلمۃ الحق اور تبلیغ دین پوری بے باکی سے انجام دیتے تھے، ۱۹۳۶ء میں آل انڈیا سنی کانفرنس کے مشہور اجلاس کے انعقاد میں حصہ لیا اور اس کے سرگرم رکن رہنے کا شکر اس کا رد نہایت شدت سے کرتے تھے، غیر مقلدین کے رد میں چند رسائل پیر و قلم کئے۔

۱۹۵۰ء میں پاکستان آکر شہداد پور (سندھ) میں قیام پذیر ہو گئے اور وہ خط و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، آخر میں جامع مسجد نواب شاہ میں خطیب اور مفتی مقرر ہو گئے۔
 ۱۹۳۳ء (۱۳۹۳ھ/۲۳/۱۹) بروز پیر مولانا مفتی عبدالحمید قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نواب شاہ میں انتقال ہوا۔

سید محمد ایوب قادری، پروفیسر، قلمی یادداشت

غوثِ زمان حضرت خواجہ محمد عبدالرحمن چھوہری قدس سرہ

حضرت خواجہ عبدالرحمن بن خواجہ فقیر محمد المعروف بہ خواجہ حضرتی قدس سرہ ۱۲۶۲ھ
۱۸۴۶ء میں ہری پور کے ایک گاؤں چھوہر شریف میں پیدا ہوئے۔ آٹھ سال کی عمر میں لکڑی
کاسایہ سر سے اٹھ گیا لہٰذا ابتدائی تعلیم گھنٹہ سادات و ریاضت کی طرف متوجہ تھی چنانچہ
زمانہ نوجوئی میں ایک سخت جلد کیا اور حضرت مولانا اخوند عبدالغفور قدس سرہ کے دربار میں
سید و شریف (سوات) حاضر ہوئے، حضرت نے فرمایا "اپنے گھر جا کر پونہا رام شہر خود
تہارے پاس آ کر تمہیں بیعت کرنے کا کچھ دنوں بعد حضرت شیخ یعقوب شاہ چھوہری قدس سرہ
چھوہر شریف تشریف لائے اور حضرت خواجہ کو بیعت فرمایا لہٰذا

آپ نے صرف ابتدائی تعلیم سائنہ سے حاصل کی لیکن فیضانِ الہی سے آپ کو علوم و
معارف کے خزانے حاصل ہو گئے لہٰذا آپ کا لباس نہایت سادہ اور اخلاق کریمانہ تھے آپ
علوم و فنیہ کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ نے کئی مسجدیں تعمیر کرائیں اور ۱۳۲۸ھ میں ہری پور
میں مدرسہ اسلامیہ محمدیہ کی بنیاد رکھی جو آپ دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور کی صورت میں
علوم و فنیہ کی قابل قدر خدمات انجام دے رہا ہے۔

آپ کے فیضِ تربیت سے ان گنت افراد مستفیض ہوئے۔ جگہ و لیش (مشرقی
پاکستان) میں آپ کا فیض خوب جاری ہوا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔
آپ نے متعدد کتابیں لکھیں جن میں مجموعہ صلوات الرسول "شریف نہایت اہم ہے، اس کے

۱۸۴-۵ ص ۱۶، تذکرہ علماء و مشائخ سرحد، ج ۱، ص ۵-۱۸۴

۱۰-۸ ص ۱۰، مقدمہ مجموعہ صلوات الرسول شریف (مطبوعہ پشاور) ص ۱۰-۸

۱۰ ص ۱۰

۱۰ ص ۱۰، مقدمہ مجموعہ صلوات الرسول شریف (مطبوعہ پشاور) ص ۱۰-۸

تیس پارے ہیں اور ہر پارہ قرآن مجید کے پارے سے تقریباً دو گنا بڑا ہے لہٰذا ہر پارے
میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک وصف کا کتاب و سنت کے مطابق بیان
ہے، آپ نے یہ عظیم الشان کتاب بارہ سال آٹھ ماہ میں دن میں مکمل کی تھی

یکم ذوالحجہ ۱۳۲۲ھ جولائی ۱۳۲۲ء/۱۹۲۳ء بروز ہفتہ آپ نے دارِ جوادانی کی طرف
سفر فرمایا لہٰذا چھوہر شریف میں آپ کا مزار مرجعِ خلافت ہے۔

ان دنوں آپ کے فرزند نثار جہند حضرت الحاج محمود الرحمن چھوہری مدظلہ العالی
صدر انجمن شوری دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور سجادہ نشین ہیں اور حضرت خواجہ صاحب
کے پوتے حضرت مولانا صاحبزادہ محمد طیب الرحمن مدظلہ العالی دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ
کے ناظم اعلیٰ ہیں۔

۱۰ ص ۱۰، مقدمہ مجموعہ صلوات الرسول شریف (مطبوعہ پشاور) ص ۱۰-۸

۱۰ ص ۱۰، مقدمہ مجموعہ صلوات الرسول شریف (مطبوعہ پشاور) ص ۱۰-۸

۱۰ ص ۱۰

مجاہد اعظم حضرت پیر عبد الرحمن بھرچوڑی شریف قدس سرہ

مجاہد ملت، ناصر تحریک پاکستان شیخ ثالث حضرت مولانا پیر عبد الرحمن ابن حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ قدس سرہ ۱۳۱۰ھ/۳/۱۸۹۲ء میں بھرچوڑی شریف (ضلع سکھر) میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد مرجع العلماء مولانا مرجع احمد (خان بیلوی ثم خانپوری) قدس سرہ سے بخوار فقه حنفی کی کتابیں پڑھیں اور بقیہ تعلیم مولانا عبدالمکرم ساکن میانوالی سے مکمل کی۔ چونکہ آپ کو بچپن ہی سے ایسا ماحول میسر آیا تھا جو شریعت و معرفت کے انوار اور ذکر و فکر کی برکات سے مہرور تھا اور پھر ولی کامل والد ماجد کی کیمیا اثر صحبت سے آپ پوری طرح مستفیض ہوئے تھے اس لئے آپ کے کمالات و درجات کا اندازہ لگانا نظر ظاہر میں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ۱۳۴۶ھ میں والد ماجد کے وصال کے تیسرے روز خانقاہی دستور کے مطابق آپ کی دستبرداری کرائی گئی۔ آپ نے مسجد مجاہدی پر جلوہ افروز ہو کر وہ غیر العقول کا نامہ انجام دئے جو تازہ بخاروشن ترین باب ہیں۔

حضرت شیخ ثالث مدد درجہ باندہ شریعت تھے، نماز باجماعت کے ایسے پابند تھے کہ بھرچ میں شاندہی کوئی نماز بغیر جماعت کے پڑھی ہو، اذان کے دوران گفتگو کرنے کو سخت ناپسند رکھتے تھے، تقبیل بہا میں کو مستحسن سمجھتے تھے، نہایت سادہ لباس زیب تن فرماتے، ظاہری کردار سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے، ان کے ہر کام میں لٹہیت جلوہ گر ہوتی، ان کی نظر میں دنیا اور اہل دنیا کی کچھ وقعت نہ تھی۔ ایک مرتبہ سردار شہر محمد خان مرحوم نے عرض کیا کہ میں قومی اسمبلی کا امیدوار ہوں، جیکب آباد میں آپ کے بہت سے مریدین ہیں لہذا آپ تشریف لے چلیں اور جماعت کو محکم دیں کہ مجھے کامیاب کرانے، آپ اذیادہ کرم تشریف لے گئے۔ بنگلہ پریسچیکر اس نے تین ہزار روپے نگر کے مصداق کے لئے پیش کئے، آپ نے پریسچیکر ٹھکرا دی اور واپس آگئے فرمایا، خان مجھ دم دولت میں پھنسا کر اپنا اتوسیدھا کرنا چاہتا ہے۔

آپ کے غلوصل اور ایثار کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ سردار انوار العلوم، ملتان کے جلسہ

میں رونق افروز تھے، حضرت علامہ شیخ القرآن مولانا محمد عبدالغفور ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم کے لئے چندہ کی اپیل کی، کوئی سو روپیہ، کوئی دو سو روپیہ اور کوئی پانچ سو روپیہ دے رہا تھا اور اس کا اعلان کیا جا رہا تھا، درس آشنا حضرت ممدوح نے ایک روپیہ عنایت فرمایا، اس کا اعلان بھی کر دیا گیا، لوگ تعجب خیز نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہے تھے لیکن آپ اس طرح اطمینان سے تشریف فرما تھے کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، تین دن بعد جب جلسہ ختم ہوا تو آپ نے حضرت علامہ سید احمد رحید کاظمی دامت بکا تمام عالمیہ سے اعزازت چاہی اور غلوت میں مدرسہ کے لئے ایک ہزار روپیہ کی خطیر رقم عطا فرمائی۔ آج بے فلسفی کی ایسی شاہیں شاید ہی کہیں دیکھنے میں آتی ہوں۔

حضرت شیخ ثالث مولانا عبد الرحمن قدس سرہ کو سردرد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کی حد تک محبت تھی جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر تشریف سننے تو گویا آنکھوں سے سیلاب اُبھرتا، شیخ اعظم حضرت مولانا محمد صدیق بانی بھرچوڑی شریف کا یہ معمول تھا اور حضرت شیخ ثالث نے بھی اسے جاری رکھا کہ ربیع الاول شریف کا پورا امید عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منایا کرتے تھے جماعت کے لئے بہترین کھانے کا انتظام فرماتے، کھانے سے پہلے اور بعد خود تمام لوگوں کے ہاتھ دھلاتے اگرچہ حاضرین کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی۔

حضرت ممدوح ان گنت خوبیوں کے مالک تھے، اگر ایک طرف آپ کے فیض صحبت سے دلوں کی دنیا نورِ عرفان سے منور تھی، ہزاروں افراد ملت ذکر و فکر میں شامل ہو کر منازل سلوک طے کرتے تھے تو دوسری طرف انتقادی فضا کو عقائد باطلہ کے مسموم اثرات سے پاک کرنے کے لئے جید علماء کی جماعت ساتھ لیکر جگہ جگہ کے دورے کرتے، دلفظدارشاد کی مجلسیں منعقد فرماتے اور حضور پڑنے پر اعلاہ کلمۃ الحق کی خاطر مناظروں میں شرکت فرماتے تھے۔

آپ اپنے دور کے سیاسی حالات سے بھی پوری طرح باخبر تھے اس لئے جب آپ نے دیکھا کہ اراکین اسمبلی ووٹ لینے کے لئے بڑے بڑے چور سے وعدے کرتے ہیں لیکن ایران میں چلے جانے کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں تو آپ نے صوبہ سندھ کے باختر افراد کو جمع کر کے مجلس چال اسلام قائم کی جس کا مقصد قوانین شریعہ کا نفاذ، چوری، ڈکیتی اور تمام غیر شرعی امور کا انسداد اور ملک و ملت کے خیر خواہ ممبروں کو کامیاب کرنا تھا۔ اتفاق رائے سے آپ کو اس انجمن کا صدر منتخب

مجاہد ملت حضرت مولانا پیر عبد الرحیم شہید قدس سرہ (پھر چونڈی شریف)

پیر عوام و استقامت، منبع رشد و ہدایت حضرت مولانا پیر عبد الرحیم شہید ابن حضرت مولانا عبد الرحمن ابن حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ (قدست اسرار ہم) ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۰ء میں پھر چونڈی شریف، ضلع سکھر میں پیدا ہوئے۔ ساتویں دن عبدالمجید نے عبد الرحیم نام تجویز کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت صاحبزادے کا نام کیا تجویز کیا ہے؟ فرمایا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورا کیا ہے، وہ اس طرح کہ اپنا نام عبد اللہ صاحبزادے کا نام عبد الرحمن اور پوتے کا نام عبد الرحیم تینوں ناموں سے فقط "عبد" ہٹاتے سے بسم اللہ شریف پوری ہو جاتی ہے۔

عبدالمجید حضرت شیخ ثانی کو آپ سے بہت محبت تھی۔ اکثر آپ دادا جان کے سینے پر کھیلتے رہتے تھے۔ آپ ابتدائی سے غیر معمولی ذہین تھے، جو بہت دوسرے طالب علم گھنٹوں میں یاد کرتے اسے آپ منٹوں میں یاد کر لیتے۔ قرآن مجید کی تعلیم شروع ہوئی، پندرہ پارے حفظ اور پندرہ ناظرہ پڑھے۔ درسی کتابیں پہلے حضرت مولانا عبد الکریم (ساکن میالوالی) سے، پھر سراج العفتا، مولانا سراج احمد قدس سرہ (خانپوری) سے پڑھیں اور آخر میں حضرت علامہ سید معنوزا نقادری رحمہ اللہ تعالیٰ (شاہ آباد شریف، ضلع رحیم یار خاں) سے پڑھنا شروع کیا، شرح جامی، شرح وقایہ اور مشکوٰۃ شریف تک کتابیں خود سمجھ کر پڑھیں حتیٰ کہ دوسری کتابوں کے سمجھنے کا خاصا ملکہ پیدا ہو گیا۔

حضرت پیر صاحب نہایت بلند ہمت اور بے باک شخصیت کے مالک تھے، اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ اور سر بلندی کے لئے کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرتے تھے کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ ہندوؤں نے نو مسلم عورتوں کو قید کر کے اذیتا دی پھر پوچھا پیر صاحب کسی خطرے کو دل میں نہ لاتے ہوئے میدان میں آگئے اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک ان نو مسلم خواتین کو آزاد نہ کر دیا۔

اپنے والد ماجد مجاہد اعظم حضرت مولانا عبد الرحمن قدس سرہ کے ابرہہ ساہرہ کے انجن

احیار اسلام اور تنظیم المشائخ کی بے مثال خدمات انجام دیں اور اس دور میں جب کہ کانگریس پوری طرح صوبہ سندھ پر چھاپی ہوئی تھی۔ آپ نے تحریک پاکستان اور دوقومی نظریہ کی پھر لوہا شاکست حمایت کی۔ یہاں ہی مشائخ کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ صوبہ سندھ کی رائے عام مسلم لیگ کے حق میں ہموار ہو گئی اور عوام المسکس نے بڑے جوش و خروش سے نظریہ پاکستان کو اپنایا۔

۱۹۳۶ء میں والد ماجد کی قیادت میں ڈیڑھ سو افراد کی جماعت کیپٹن آل انڈیا مسلم لیگ کا نفرنس بنا کر سس میں شریک ہوئے اور قیام پاکستان کی پُر زور تائید کی۔ اہل سنت کی اس نمائندہ کانفرنس میں مقدمہ پاک و ہند کے تقریباً پانچ ہزار علماء و مشائخ کا قیام پاکستان کی خاطر اپنی تمام کوششوں کو صرف کر دینے کا عہد ایک حزب بھی تھی جس نے کانگریس کے سامنوں کا طمس توڑ کر رکھ دیا تھا۔ احیار اسلام اور تنظیم المشائخ کے بعد آپ جمعیۃ علماء پاکستان، سندھ کے نائب صدر منتخب ہوئے اور جس جرأت و ہمت اور خلوص و ایثار سے جمیعت کی سرگرمیوں میں حصہ لیا اُسے کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

۱۹۶۰ء میں شیخ ناث حضرت مولانا عبد الرحمن قدس سرہ کے وصال کے بعد سجادہ نشین ہوئے تو آپ کی مصروفیات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا لیکن جس حسن و خوبی سے آپ نے ذمہ داریوں کو نبھایا، موجودہ دور میں اس کی مثال پیش کرنا مشکل ہے۔ آپ کے دل میں دین و ملت کا بے پناہ درد تھا۔ اگرچہ آپ پر قاتلانہ حملے کئے گئے، طرح طرح سے آپ کو اذیتیں پہنچانی گئیں لیکن اس مرد خدا کے قدم چھپے بیٹھنے کے بجائے ہمیشہ آگے ہی بڑھتے رہے۔

۱۹۶۵ء کی جنگ میں راجستان سیکڑ میں عملی طور پر حصہ لیا، اپنے مریدین کو مجاہدین کے کئی دستے مسلح کر کے محاذ پر بھیجا اور انہیں تمام ضروریات پہنچانے کا باقاعدہ انتظام کیا اور دو دفعہ خود محاذ پر تشریف لے گئے۔

حضرت پیر صاحب نظریہ اسلام کے زبردست حامی تھے۔ ۱۹۷۱ء کے انتخابات میں جمعیۃ علماء پاکستان کے صوبہ سندھ کے نائب صدر ہونے کی حیثیت سے علی الاعلان اسلامی قوتوں کا ساتھ دیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ عوام کے اذہان میں صحیح اسلامی اقدار کو اس قدر

راہِ صحیح کر دیا جائے کہ وہ نظریہ اسلام کے علاوہ کسی نظریے اور ازم کو قبول نہ کریں۔

اسلام دشمن عناصر حضرت پیر صاحب کی بااثر شخصیت کو اپنے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ یقین کرتے تھے۔ ۱۹۶۰ء میں جب سندھ میں قند دہریت موج پر تھا، پیر صاحب اس قند کے خلاف سید مہر بونگے اور لاہور میں یوم محمد بن قاسم کے اجلاس کی صدارت کی سہ

۳۰ رجب المرجب ۱۴۱۱ھ ستمبر (۱۹۶۱ء/۱۳۹۱ھ) کی شام کو جبکہ حضرت پیر صاحب چپا ر غیر مسلح آدمیوں کے ساتھ کھر سے نکلے، مخالفین نے فائرنگ کر کے آپ کو ہتھیار کر دیا آپ کے جنازہ میں ایک لاکھ افراد نے شرکت کی، آپ کی آخری آرام گاہ بھر چوڑی منزلیں ہیں ہے۔ آپ کی شہادت سے ملت اسلامیہ ایک عظیم مہاجر سے محروم ہو گئی سہ

سہ سہادیر : ہفت روزہ زندگی (۲۵ ستمبر ۱۹۶۱ء) ص ۱۹۔
سہ مغفرائی : سید مولانا : عباد الرحمن ، ص ۲۰۳-۲۰۸۔
نوٹ : ہفت روزہ زندگی کے حوالے کے علاوہ باقی تمام حالات "عباد الرحمن" سے لئے گئے ہیں۔

منبع فیض وجود حضرت مولانا خواجہ عبدالرسول قصوی قدس سرہ

حضرت خواجہ عبدالرسول بن حضرت خواجہ غلام محی الدین قصوی دامم المصنوی رحمہما اللہ تعالیٰ ۱۲۳۵ھ/۲۰-۱۸۱۹ء میں بمقام قصو پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت سے ایک سال پہلے آپ کے والد ماجد نے محمد زکریا مولوی میں آپ کی پیدائش، نام، کنیت اور معمولات زندگی یہاں تک کہ سال وفات بھی (اشارہ) لکھ دیا تھا۔

سن شعور کو پہنچنے تو شہرہ آفاق عالم اور جلیل المرتبت بزرگ والد ماجد حضرت مولانا غلام محی الدین قصوی رحمہما اللہ تعالیٰ کی خدمت میں زانوئے تلمذ طے کیا اور تمام مروجہ علوم و فنون کی تحصیل کے ساتھ ساتھ سادہ کی منزلیں بھی طے کرتے رہے حتیٰ کہ سند فراغت اور سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ میں خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ والد ماجد نے علوم و فنیہ کی تدریس اور مریدین کی تربیت آپ کے سپرد فرمائی۔

آپ بڑے مہمان نواز، غریب پرور، اور دلشویں کے محب و دامار سے متنفر تھے، جو دو سخا میں تو گویا آپ بھر بیکراں تھے، کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتے لیکن بایں ہمہ کمال اخلاص سے کام لیتے، سنت مطہرہ کی پیروی کو بہت اہمیت دیتے تھے، فرمایا کرتے تھے :
"سنت نبوی پر پوری طرح عمل کے بغیر کوئی شخص کامل نہیں ہو سکتا"

طبیعت علم، انکسار اور تواضع ایسی پاکیزہ صفات سے موصوف تھی، دور دراز سے آنیوالے طلباء آپ کے مکتب درس میں شریک ہوتے اور کامیاب ہو کر لوٹتے۔ فیض باطنی کے مستفاد شاہ حاضر و بار ہوتے اور دولت عرفان سے شکوکام ہوتے۔ آپ صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے بے شمار حاجت مند آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی دعا، و برکت سے کامیابی سے ہمکنار ہوتے، ہمیشہ سفر حضر میں جمعہ کے دن وعظ فرماتے اور عوام الناس کو شریعت مبارکہ اور سنت مفدہ کی پیروی کی تلقین فرماتے۔

وصال سے ایک سال قبل احباب اور عقیدت مندوں کو جو عرس شریف پر حاضر تھے اشارہ

اپنے وصال کی خبر سے دی اور رخصت کرتے وقت فرمایا کہ شاید آئندہ سال تمہاری ملاقات نہ ہو سکے
وفات سے تین دن پہلے غلغلا کو اپنے دست مبارک سے مکاتیب کھٹے ورکھا :

"اس فقیر کی زندگی کا معاملہ آخر کو پہنچ گیا ہے وچند روز کی مہلت ہے"

وصال سے پہلے آپ نے تمام احباب کو وداع کیا حتیٰ کہ مسیحا اور سواری کی گھوڑی کو بھی رخصت
کیا۔ آخری وقت آنحضرت ان محمد اسعد و رسولہ پڑھا، مراقبہ فرمایا اور جہاں فری
کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ یہ واقعہ ۲۱ محرم الحرام ۵ فروری (۱۸۷۷/۱۲۹۳) میں پیش آیا۔
نماز جنازہ حضرت مولانا غلام دستگیر قصوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھائی اور قصو کے عظیم قبرستان میں اپنے
برادر گوں کے قریب محو استراحت ہوئے۔

مولانا غلام قادر شائق رسول بگڑی نے طبعی میں قطعہ تاریخ وفات لکھا جو لوح مزاد پر کندہ ہے
قطر یہ ہے

الاعبد الرسول الشیخو قدمات
فان تسائن عن عام ارتحالہ
اقبل تاریخ عتوت بلا ریب نہ
۱۸۷۷ - ۲۱۲ = ۱۲۹۳

لے فیروز سید : انوار الدین : ص ۱۸۹ - ۲۳۰

مشاہیر مولانا قاضی محمد عبد السبحان ہزاروی قدس سرہ

معقول و منقول کے متبحر فاضل اے نسل مشاہیر مولانا قاضی محمد عبد السبحان ابن مولانا قاضی غلام رحیل
ابن مولانا قاضی محمد غوث ۶-۱۳۱۵ھ/۱۸۹۸ء میں موضع کھلا بٹ (پنڈی پور سے چھ میل کے فاصلہ پر
تھا۔ اب تربید میں آ گیا ہے) ضلع ہزارہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد اور جد امجد اپنے دور
کے کار بر علم ہیں سے تھے۔ آپ کے جد امجد نے رد القویۃ الایمان اور تاریخ و ہابیر وغیرہ کتب بھی
لکھی تھیں مولانا غلام سید برکات احمد لوکی سے مدرسہ ضعیفہ نوک میں علوم و فنون کا استفادہ
کیا۔ مولانا قطب الدین غورخشتوی (م ۱۹۵۱ء) اور مولانا حمید الدین ماسٹری آپ کے مشفق اساتذہ
میں سے تھے، حدیث و تفسیر کا درس اپنے چچا اور مشہور مولانا محمد طفیل محدث ہزاروی سے لیا
مولانا قاضی عبد السبحان رحمہ اللہ تعالیٰ نے تکمیل علوم کے بعد تمام زندگی درس و
تدریس، تصنیف و تالیف اور مسلک اہل سنت کی حمایت میں صرف فرمائی۔ ۱۹۳۶ء میں
مدرسہ بیک پورہ (گجرات) میں ایک سال مدرس رہے، دوسری بار ۱۹۵۰ء کے لگ بھگ دارالعلوم
خدا م الصوفیہ (گجرات) میں قریباً تین سال قیام پذیر رہے، بعد ازاں شرق پور شریف،
احسن المدارس راولپنڈی اور دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ بری پور میں بحیثیت صدر مدرس کام
کیا، آخری دنوں میں اپنے گاؤں کھلا بٹ میں چلے گئے۔

آپ نے تصنیف و تالیف کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ آپ کی تصانیف میں سے موابیہ حمن
رد جواب القرآن اور انوار التعلیہ فی حیاة الانبیاء طبع ہو چکی ہیں، ان کے علاوہ آپ نے بخاری شریف،
مشکوٰۃ شریف، شرح معانی الآثار، امام محمدی قدس سرہ بیضاوی اور دیگر متعدد کتب من نظامی
پر شروع و حواشی لکھے جو زیادہ تر عربی میں ہیں اور ابھی تک غیر مطبوع ہیں لکہ ابن تیمیہ حرانی کی

سلف محمد احمد تادی مولانا : تذکرہ علمائے اہلسنت : ص ۱۷۴ - ۱۷۵
سلف عبد العلی کوکب قاضی : عبرت سالک : ص ۱۱۳

مولانا قاضی عبد السبحان نے قرآن پاک کے بعد ابتدائی تہذیب و تمدن سے پڑھیں بعد ازاں

کتاب الویلہ کا رد لکھا تھا، آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت مولانا قاضی سلطان محمود قدس سرہ
(آوان شریف) سے بیعت تھے۔

آپ کے کثیر التعداد تلامذہ پنجاب اور سرحد میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں آپ کو
مناظرہ میں بیطلانی حاصل تھا، صرف ایک بات میں بدمقابل کو لا جواب کر دیتے تھے، بڑے
بڑے مناظر آپ کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگتے، آپ نے دو عالم و فاضل صاحبزادے سے یادگار چھوڑے
بڑے صاحبزادے مولانا قاضی غلام محمد ہزاروی خطیب علی گاہ ہلیم اور چھوٹے صاحبزادے مولانا
معتقی سیف الرحمن ہزاروی خطیب جامع مسجد بنیال (ہزارہ) ہیں۔

استاذ الفاضل مولانا قاضی محمد عبدالرحمان ہزاروی قدس سرہ ۱۳ شوال ۲۰ مئی ۱۹۵۸ء
۱۹۵۸ء کو داخل جنت ہوئے اور کتابت کی جامع مسجد میں خواستراحت ابدی ہیں، انہوں نے
آپ کا مزار ترمیم فرمایا ہے۔

جناب حکیم مظفر علی بھٹو ساکن چک عمر (گجرات) نے قطعہ تاریخ کہا سے
شد روارہ جانب مندر بریں آں جناب عبد سبحان بے مثال
عالم و فاضل فقیر بے نظیر پاک صورت نیک سیرت خوش خصال
بدر بدینوث اعظم ہم شہاب منظر شان محمد لا ذوال

چوں پر سپیدم زول تاریخ او
نظرین جو دو سخا گفت ابل سلہ
۱۳ ۵ ۵۵

۲۷ مناظرے (کتابخانہ خوشیہ سرہ، حادہ جلم) ص ۱۰۵

فاضل جلیل مولانا عبد الصمد مقتدری قدس سرہ

حضرت مولانا عبد الصمد مقتدری بن شیخ غلام حامد قدس سرہ ہمدانیوں میں پیدا ہوئے، فاضلان
حمیدی کے فرزند تھے، مدرسہ قادریہ ہمدانیوں میں مولانا عبد حامد قادری مولانا مفتی حافظ بخش ہمدانی قدس
سرہاوردیگر اساتذہ سے علوم دینیہ کی تحصیل کی، اہل آباد یونیورسٹی سے "مکات" کا امتحان پاس کیا اس لئے
مفتی آپ کے نام کا جزو بن گیا، حضرت مولانا شاہ عبدالقادر ہمدانی قدس سرہ کے دست قدس پر سلسلہ
عالیہ قادریہ میں بیعت ہوئے اور حضرت شاہ عبدالقادر ہمدانی قدس سرہ سے اجازت و خلافت پائی۔

سیاست میں مولانا عبد الصمد ہمدانی کے تربیت یافتہ تھے، تقریر و تقریر میں کمال رکھتے تھے،
تحریک خلافت اور تبلیغ و نظیر میں بھرپور حصہ لیا، اگر ہا و اس کے گرد و فواح میں شدھی تحریک اور
سنگھٹن تحریک نے زور پکڑا تو اس کے سدباب کے لئے اگر وہیں منتقل قیام کیا، ماہنامہ الہدی
جاری کیا، اس سلسلہ میں حکومت کے زیر عناب آنے کی بنا پر نظر بند بھی ہوئے لیکن سنگھٹن بھری
سے کلمہ حق بلند کرتے رہے۔

مولانا عبد الصمد مقتدری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریک پاکستان میں قریب چالیس سالوں سے
حصہ لیا، یوپی مسلم لیگ کے سرگرم کارکن تھے، بریلی اور ہمدانیوں میں مسلم لیگ کو کامیاب بنانے
میں رات دن کام کیا، قیام پاکستان کے بعد کراچی چلے آئے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی، میری کلا کوکل
(صدر) سے وابستہ ہو گئے تھے، مولانا شاہ عبدالقادر ہمدانی قدس سرہ کے وصال کے بعد ان کی سوانح
حیات مرتب کی گئی جو چھپ چکی، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ کا مشہور
قصیدہ چراغ انس (در مدح حضرت مولانا شاہ عبدالقادر ہمدانی قدس سرہ) مرتب کر کے شائع
کیا تھا۔

مولانا عبد الصمد مقتدری ۱۵ ربیع الثانی ۲۰ نومبر (۱۳۸۳ھ/۱۹۶۴ء) کو راجی جنت
ہوئے اور میوہ شاہ کے قبرستان میں دفن ہوئے سلہ

علامۃ الدین مولانا عبد العزیز پراوی قدس سرہ صاحب نیرس شرح شرح عقائد

علامۃ انوری حاصل نواب شریعت مولانا حافظ عبدالعزیز بن محمد بن حامد تقریباً ۱۲۰۹ھ / ۱۷۹۳ء میں ایک چھوٹی سی بستی پر بار مضافات کوٹ آڈو (مظفر گڑھ) میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید والد ماجد سے حفظ کیا پھر ملتان تشریف لائے اور حضرت خواجہ حافظ محمد جمال چشتی متانی (معلیفہ) مجاز حضرت خواجہ نور محمد ہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علوم و فنون کا استفادہ کیا۔ دورانِ تعلیم دروازہ بند کر کے مصروف مطالعہ تھے کہ کسی نے دروازہ پر دستک دی۔ آپ نے فرمایا میں مطالعے میں مصروف ہوں مجھے فرصت نہیں ہے۔ آنے والے نے کہا میں حضرت جوڑا آپ نے فرمایا اگر آپ خضر (علیہ السلام) ہیں تو آپ دروازہ کھولے بغیر بھی تشریف لائے پر قدرت رکھتے ہیں، چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اندر تشریف لے آئے اور آپ کے کندھوں سے درمیان دست اقدس رکھا، اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل سے آپ کا سینہ علم و فضل اور روحانیت کا سمندر بن گیا۔

آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھ اللہ تعالیٰ نے ۲۷۰ علوم میں مہارت کا مد عطا فرمائی ہے، جبکہ کسی طور پر پاس کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں ہوا، یہ سب کچھ عطا کرنے ربانی ہے۔ آپ کے بیان کے مطابق انگریزوں کو علمِ اسطرلومیا کا بے حد اشتیاق تھا لیکن تلاشِ بسیار کے باوجود انہیں یہ علم پڑھانے والا کوئی نہ مل سکا جب کہ آپ نے اس علم میں جلیل القدر کتاب تصنیف فرمائی تھی۔ آپ کے الفاظ میں تبخیر فیہ ابرخوس و بیذ عن لبواہینہ بطلیہوس (ابرخوس بھی اس کتاب کو دیکھ کر کھٹکتے بندھاں رہے اور بطلیہوس اس کے دلائل کے سامنے تسلیم ختم کر دیا)

حضرت علام مظاہری اور باطنی علوم میں بیگانہ روزگار تھے، علم و فضل کی بدولت اغنیاء

اور اہل دنیا کو خاطر میں نہ لائے جبکہ فقراء و مساکین کا علاج مفت کرتے، ایک دفعہ مظفر خاں والی ملتان نے آپ کو علاج کے لئے طلب کیا تو آپ نے سختی سے انکار کر دیا۔ سلاہ علامہ کا شہب تم نہایت تیز رفتار تھا، کتاب زلیخا دو جہت سے کم پوری کتاب ایک دن میں لکھ ڈالی تھی۔ آپ نے تقریباً ہر فن میں ہندیاہ کتابیں لکھیں لیکن بھی ایک کثیر مشیر کتب زیور طبع سے آراستہ نہیں ہو سکیں، چند تصانیف کے نام یہ ہیں:

- ۱۔ نبرس، شرح شرح عقائد
- ۲۔ المسائل المکتومہ، الخفاہ المنقذون (علم ادقاق و تکمیر کے بیان میں)
- ۳۔ کوثر النبی (اصول حدیث میں)
- ۴۔ النابغین ذم معاویہ (فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)
- ۵۔ نعم الوجیز (علم بیان اور بدیع میں)
- ۶۔ الصمام (اصول تفسیر میں)
- ۷۔ مرام الکلام فی عقائد الاسلام (یہ کتابیں ناظم کی نظر سے گزر چکی ہیں)
- ۸۔ زمرہ و خضر (۹۱) یا قوت احمد (۱۱۰) اکسیر (علم طب میں)
- ۹۔ مر السما (علم ہیئت میں) ۱۲۔ لوح محفوظ (دو جلد) (تفسیر عربی)

قدیم کے لئے یہ امر باعث حیرت ہو گا کہ علم و فضل کا یہ آفتاب صرف تیس تیس سال کی عمر میں ۱۲۳۹ھ میں روپوش ہو گیا۔

کاش تاریخ کا کوئی محقق اس نادر روزگار شخصیت پر ریسرچ کرنا اور ان کی جہالت علمی کو آشکار کرنا تو بڑے بڑے سکالر ان کے سامنے بولے نظر آئے۔ ان الفاظ کسی کی تنقید مقصود نہیں بلکہ اہل تحقیق کی توجہ اس فاضل اجل کی طرف مبذول کرنا مقصود ہے جو تحقیق و تدقیق میں متقدمین اہل فن سے کہیں آگے نظر آتا ہے۔

فاضل علیل حضرت مولانا مفتی محمد عبد العزیز قدس سرہ مفتی الگوں

اپنے دور کے زبردست فاضل مسکب اہل سنت و جماعت کے عظیم مبلغ حضرت مولانا الحاج مفتی محمد عبد العزیز قدس سرہ فاضل مفتی کے عظیم مفتی اور ملت اسلامیہ کا بے پناہ درد رکھنے والے بزرگ تھے۔ آپ کے ابتدائی حالات پردہ خفا میں ہیں۔ انہیں احسانات حضرت مولانا سید علیل احمد قادری، مظاہر خطیب مسجد وزیر خاں نے ایک دفعہ پرسیل تذکرہ راقم سے بیان کیا کہ حضرت مفتی صاحب ابتداً ذہابی علماء سے تعلیم حاصل کرتے رہے تھے اس لئے ان پر غیر فقہانہ رنگ چڑھا ہوا تھا، خوش قسمتی سے حدیث شریف پڑھنے کے لئے امام الحدیثین حضرت مولانا سید ویدار علی شاہ قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بعض حضرات کا خیال تھا کہ انہیں دارالعلوم حزب الاحناف، لاہور میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے لیکن حضرت امام الحدیثین نے نہ صرف داخلے کی اجازت دی بلکہ خاص توجہ سے بھی سرفراز فرمایا۔ چند ہی دنوں میں حضرت امام الحدیثین کے دلائل قاہرہ اور توجہ کی برکت سے اثرات و بابیت کا فوہ ہو گئے اور حنفیت کا ایسا رنگ چڑھا کہ حضرت مفتی عبد العزیز قدس سرہ تمام عمر فاضل مفتی کی خدمت اور اہل باطل کی سرکوبی میں مصروف رہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے فراغت کے بعد ضلع لاہور کے ایک قصبہ الگوں (جو تقسیم کے بعد ہندوستان کا حصہ بن گیا) میں ۱۹۳۳ء میں مدرسہ عربیہ احیاء العلوم قائم کیا۔ آپ کے دورہ حدیث کے ساتھی فقیر علیل حضرت مولانا مفتی ابوالخیر محمد نور اللہ نسیمی مدظلہ العالی نے بعیر پور میں دارالعلوم حنفیہ فریدیہ کا آغاز کیا۔ الگوں ایک ایسا قصبہ تھا جہاں کے باشندے احکام انبیاء سے بے بہرہ تھے۔ مدرسہ عربیہ احیاء العلوم کے قیام سے جہاں ایک طرف اطراف و اکناف کے طلباء اپنی علمی پیاس بجھانے لگے وہاں دوسری طرف عوام الناس میں پھیلی ہوئی جہالت کی تاریکی چٹختے لگی اور یہ علاقہ ذکر انہی اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے جگمگانے لگا۔

قیام پاکستان کے بعد حضرت مفتی محمد عبد العزیز نے غلہ منڈلی بور بورا لہ کی جامع مسجد میں مدرسہ عربیہ احیاء العلوم دوبارہ جاری کر دیا۔ ۱۹۵۰ء میں مدرسہ کے سالانہ جلسہ کے موقع پر آپ نے حاضرین کی توجہ مدرسہ کی عمارت قائم کرنے کی طرف مبذول کرائی تو سر داد محمد یعقوب نے مدرسہ کو دو کناں زمین دے دی، ۳۰ مئی ۱۹۵۱ء کو عمارت کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا اور اسی سال مدرسہ نئی عمارت میں منتقل ہو گیا جو اب تک بہترین کی خدمات بحسن و خوبی انجام دے رہا ہے۔

آپ سلسلہ عالمی نقشبندیہ میں حضرت میاں غلام اللہ لاثانی شہر قہری قدس سرہ سے بیعت اور مجاز تھے۔ ۱۹۴۵ء اور ۱۹۵۴ء میں دوبارہ زیارت حرمین طیبہ میں کی زیارت شرف ہوئے۔ حضرت مفتی صاحب نے عمر بھر علوم دینیہ کی تعلیم اور مسکب اہل سنت و جماعت کی تبلیغ میں صرف کی۔ آپ کے شاگرد آج بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں خدمات دین میں سرگرم ہیں چند تلامذہ کے کلمہ یہ ہیں:

- ۱۔ ابوالفضل مولانا علی محمد نوری، اوٹاری۔ ۵۔ مولانا محمد علی، چک ۴۸۳، بور بورا لہ
- ۲۔ ابوالیسر مولانا محمد اسماعیل علی زجر، بور بورا لہ۔ ۶۔ مولانا محمد شریف نوری، اکروڑ پکا
- ۳۔ مولانا زبیر احمد، چک ۴۸۳، بور بورا لہ۔ ۷۔ مولانا سید محفوظ الحق شاہ، بور بورا لہ
- ۴۔ ابوالرضا مولانا محمد حسن منڈلی ہیر سنگھ۔ ۸۔ مولانا سید سید الخالق، چک ۲۶۷، ضلع ساہیوال

۱۹۶۰ء میں حضرت مفتی صاحب پر ڈیپٹی سیکرٹری کا شدید حملہ ہوا، علاج کارگر نہ ہو سکا اور ۱۰ ذی قعدہ ۱۳۸۰ھ (۱۹۶۱ء) بروز بدھ چار بجے شام آپ کا وصال ہو گیا اور بور بورا لہ میں آپ کی آخری آرام گاہ بنی، پچھہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادگان مدرسہ عربیہ احیاء العلوم بور بورا لہ کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے ہیں، صاحبزادگان کے نام یہ ہیں۔ ۱۔

- ۱۔ مولانا محمد عتیق الرحمن زید مجتہد، مہتمم
- ۲۔ مولانا محمد عتیق الرحمن، نائب مہتمم اور صدر مدرس
- ۳۔ حافظ شعیب الرحمن، مدرس شعبہ حفظ
- ۴۔ مولانا حافظ محمد شعیب الرحمن، مہتمم مدرسہ عربیہ، غازی آباد ضلع

مبلغ اسلام حضرت مولانا شاہ محمد عبد العظیم صدیقی میرٹھی قدس سرہ العزیز

محسن سنت، تازہ نشیمنت، مبلغ اسلام حضرت مولانا شاہ محمد عبد العظیم صدیقی میرٹھی ابن حضرت مولانا محمد عبد العظیم قدس سرہ ۱۵ رمضان المبارک، ۳ اپریل (۱۳۱۰ھ/ ۱۸۹۲ء) کو میرٹھ (یوپی) میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد عظیم المرتبت درویش صفت عالم دین اور بلند پایہ شاعر تھے جو شش نصاب سے تھے، ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، چار سال دس ماہ کی عمر میں قرآن پاک پڑھ لیا، اردو فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم والد گرامی سے حاصل کی بعد ازاں جامعہ قومیہ میرٹھ میں داخل ہوئے اور سولہ سال کی عمر میں درس نظامی کی سند حاصل کی۔

آپ کو چھ شروع ہی سے تبلیغ اسلام کا شوق تھا اس لئے علوم جدیدہ حاصل کرنے کے لئے ائمہ الی سکول سے میٹرک پاس کیا اور پھر ڈیڑھ سال کالج میرٹھ میں داخلہ لیا، ۱۹۱۷ء میں بی۔ اے کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا، کالج کی چھٹیوں کے دنوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی خدمت میں بریلی شریعت حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتے رہے۔

میرٹھ کالج کی تعلیم کے دوران آپ کو آل برما ایجوکیشنل کالفرنس کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس کالفرنس میں آپ نے جو خطبہ دیا وہ بڑا اور سیلون میں مقبول عام ہوا اور برما کے احباب سے دینی نشر و اشاعت پر آپ کی جو گفتگو ہوئی وہ مستقبل کے تبلیغی مشن کے لئے بنیاد ثابت ہوئی۔

آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے اور انہی کے ایام و ارشاد پر اپنی زندگی تبلیغ دین اور خدمت اسلام کے لئے وقف کر دی اور اپنے سخی خراج پر پیٹنٹ اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، جس سنت امام اہل سنت آپ کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے

دیکھتے تھے اپنے نماز اور وظائف کا ذکر کرتے ہو فرماتے ہیں

عبد العظیم کے علم کو سنکر جہل کی ہل بھگاتے یہ ہیں
حضرت مولانا صدیقی قدس سرہ کو اپنے شیخ طریقت سے کمال عقیدت تھی جو میں نے
کی زیارت سے واپسی پر آپ نے ایک طویل تصدیق دہ جیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ
کی خدمت میں پیش کیا جس کے چند شعر درج ذیل ہیں

تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سوا تم ہو
قیمہ جام عرفاں سے شہ احمد رضا تم ہو
غریب بجز الفت مسنت جام باوہ وحدت
محبت خاص منظور عیب کبریا تم ہو
جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہل طریقت کا
جو محور ہے حقیقت کا وہ قطب لاویا تم ہو
عرب میں جا کے ان نکھرے بکجا جس کی حرکت
عجم کے واسطے لاریب وہ قبلہ نما تم ہو
تمہیں پھیلا ہے جو عجم حق کائنات عالم میں
امام اہل سنت نائب غوث الوری تم ہو

عظیم خستہ اک دلی گدا ہے آستانہ کا

کرم فرمایا ہے حال پر اس کے شام تم ہو

جب یہ اشعار سنا چکے تو امام اہل سنت نے اپنے قیمتی عمامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

”مولانا! آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں! آپ اس دیار پاک سے

تشریف لارہے ہیں یہ عمامہ تو آپ کے قدموں کے بھی لائق نہیں

البتہ میرے کپڑوں میں سب سے بیش قیمت ایک جہر ہے، وہ حاضر

کئے دیتا ہوں“

اس واقعہ اور مندرجہ بالا تصدیق کو غور سے پڑھئے اور دیکھئے کہ آج کل وہ غلوں و محبت

کہاں جو ان مقدس ہستیوں کا طرہ امتیاز تھا۔

۱۷ اپریل ۱۹۱۰ء : اکتساب (ذریعہ شہادہ) ص ۷۹

۱۷ اپریل ۱۹۱۰ء : حیات اعلیٰ حضرت ج ۱ ص ۵۱-۵۲

حضرت مولانا محمد عبدالعظیم صدیقی شاعر بیان خطیباً بندہ یا رب اوبیب اور عظیم معجز اسلام تھے جب آپ اپنی نغمہ ریز آواز میں دلائل و براہین سے اسلام کی حقانیت بیان کرتے تو حاضرین پر سکوت چھا جاتا اور بڑے بڑے سائنسدان، مفکر سفر اور دہریہ قسم کے لوگ آپ کے دست اقدس پر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے۔ آپ تقریباً دنیا کی ہر زبان میں اس روانی سے تقریر کرتے تھے کہ خود اہل لسان و درجہ حیرت میں رہ جاتے۔ آپ نے پوری قوم اور بے باکی سے دین فطرت اسلام کو پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا جس کے نتیجے میں پچاس ہزار سے زائد غیر مسلم مشرف بہ اسلام ہوئے۔ یہ وہ ناقابل فراموش کارنامہ ہے جو آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے۔

۱۹۵۱ء میں آپ نے پوری دنیا کا تبلیغی دورہ کیا جس میں قابل ذکر ممالک انگلستان، فرانس، اٹلی، برٹش گیانا، ہانگ کانگ، سعودی عرب، ٹرینی ڈاڈ، امریکہ، کینیڈا، فلپائن، سنگاپور، ملائیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور سیلون تھے۔ اس کے علاوہ برما، سیلون، ملائیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، چین، جاپان، مالیشیا، جنوبی و مشرقی افریقہ کی آبادی سعودی عرب، عراق، اردن، فلسطین، شام اور مصر کے متعدد تبلیغی دورے کئے، تمام مذاہب کے لوگوں کو دعوت اسلام دی اور ہر زبان میں اسلام کا ترجمہ شائع کیا۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے پورٹریک شہزادی

(Her Highness Princess Gladys Palmer
Khairunnisa of Sarawak Stateborneo)

مارشیس جنوبی افریقہ کے فرانسیسی گورنر مروات

(Governor Merwate Tifefrnch Statesman)

اور ٹرینی ڈاڈ کی ایک خاتون وزیر

(Murifl Donawa Fatima)

مشرف بہ اسلام ہوئے۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، مراکش کے خازی عبدالکیریم، فلسطین کے مفتی اعظم سید حسین، انخوان مسلمین کے سربراہ حسن البنا، سیلون کے آریبل جسٹس

میردوانی، کولمبو کے جسٹس ایچ بی اکر، سنگاپور کے ایس این وت اور مشہور انگریز ڈراما نویس اور فلسفی جارج برناڈشا آپ کی علمی و روحانی شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔

۱۷ اپریل ۱۹۳۵ء کو ممبایا جنوبی افریقہ میں جارج برناڈشا سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے برناڈشا کے مختلف سوالات کے جوابات اس انداز سے دئے کہ دنیا کا عظیم فرد سفر آپ کے ساطفل کتب نظر آئے لگا۔ آپ نے اسلام اور عیسائیت کے اصولوں کا تقابلی جائزہ تاریخ، سائنس اور فلسفہ کی روشنی میں اس طرح بیان کیا کہ برناڈشا کو اسلام کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس گفتگو کا اردو ترجمہ ماہنامہ ترجمان اہلسنت، گراچی شمارہ محرم و صفر ۱۳۹۲ء میں شائع ہو چکا ہے۔

حضرت مولانا صدیقی رحمت اللہ علی نے تعلیمات اسلامیہ کو عام کرنے کے لئے بہ پہلو پر توجہ دی، متعدد مساجد تعمیر کرائیں جن میں سے حنفی جامع مسجد کولمبو، سلطان سجد سنگاپور، اور مسجد ناگیا جاپان زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ عربی یونیورسٹی ملایا، پاکستان نیوز مسلم ڈائجسٹ، ٹرینی ڈاڈ مسلم اینیول جنوبی افریقہ کی بنیاد آپ ہی نے قائم کی۔ ۱۹۴۹ء میں سنگاپور میں تنظیم بین المذاہب کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی اور تمام دنیا کے عیسائی، یہودی، بدھ مت اور سکھ مذاہب کے پیشواؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے لادینیت کا قلع قمع کرنے کی اپیل کی، تمام مذاہب کے ماہناموں کی اس مشترکہ کانفرنس میں آپ کو ہزار گز ٹیڈ ایچ نیس (His Exalted Eminence) کا خطاب دیا گیا۔ نیز مصر میں تنظیم بین المذاہب الاسلامی کے نام سے مختلف مکاتب فکر کی ایک تنظیم قائم کی۔

۱۳۶۵ھ / ۱۹۴۶ء میں حضرت مولانا شاہ عبدالعظیم صدیقی قدس سرہ را راجہ اسلام پتہ کے رئیس وفد اور ملایا، مشرقی و جنوبی افریقہ اور جزائر شرقیہ کے مندوب کی حیثیت سے سعودی عرب تشریف لے گئے اور سعودی حکومت کی طرف سے حجاج پر عائد کردہ ٹیکسوں کے خاتمہ اور حجاج کے لئے سہولتیں فراہم کرنے کے لئے دنیا بھر سے آئے ہوئے اہل علم، حکومت سعودیہ کے حکام، عرب اور عبد العزیز بن سعود سے مذاکرات کئے،

جن کا خاص اثر ہوا۔ ان تذکرات کی تفصیل البيان کے نام سے عربی میں شائع ہوئی تھی جس کے آغاز میں اخوان المسلمین (مصر) کے بانی حسن البنا نے ابتدائیہ لکھا اور حضرت مولانا شاہ محمد عبد العظیم قدس سرہ کی مساعی جلیلہ کو خراج تحسین پیش کیا، چنانچہ لکھتے ہیں:-

كما كان من فضل الله وتوفيقه ان التقينا منذ
عامين في الارض المقدسة وعند البيت العتيق
بصاحب الفضيلة والداعية الاسلامي الشيخ
محمد عبد العليم الصديقي..... ونحن
نسأل الله تبارك وتعالى ان يجزي الاستاذ المفضل
الشيخ محمد عبد العليم الصديقي عن المسلمين
عامتة خير جزاء له

” اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دو سال ہوتے ہماری ملاقات ارض مقدس میں بیت اللہ شریف کے پاس صاحب فضیلت مبلغ اسلام شیخ محمد عبد العظیم صديقي سے ہوئی (کچھ عبارت کے بعد) ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب فضیلت استاذ شیخ محمد عبد العظیم صديقي کو تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔“

تبلیغ اسلام کی قابل قدر خدمات کے علاوہ آپ کی سیاسی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں دنیا کے کسی گوشے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تو آپ بے چین ہو جاتے تھے تحریک خلافت شدہی تحریک اور تحریک پاکستان میں مراد و واحد لیا۔ صرف پاک و ہند ہی میں نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی تحریک پاکستان کے لئے فضا ہوا کی، مصر اور انگلینڈ میں کانگریسی ایجنٹوں سے مناظرے کئے، مسلم لیگ کی طرف سے باقاعدہ طور پر علماء کی ایک جماعت کے قائد کی حیثیت سے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ جا کر دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمانوں کے سامنے

ملہ محمد عبد العظیم صديقي رحمة الله عليه مولانا صاحب السلام و البيان الحميد، مطبعہ مطرفہ۔

پاکستان کی اہمیت کو واضح کیا یعنی عظیم فلسطین سید امین حسینی، حسن البنا قائد اخوان المسلمین، سید عبداللہ شاہ (اردن) اور دیگر عرب لیڈروں کو تحریک پاکستان سے پوری طرح روشناس کرایا۔

۱۹۴۶ء میں آل انڈیا یاسٹی کانفرنس، بنارس میں شرکت فرمائی اور علی الاعلان تحریک پاکستان کی حمایت فرمائی۔ قائد اعظم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے عالمی دورے سے واپسی پر کراچی میں عظیم کانفرنس منعقد کی جس میں سندھ، پنجاب اور شرقی پاکستان کے اکابر علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں پاکستان کے لئے آئین اسلامی کے جامع دستور کا مسودہ تیار کر لیا گیا، علماء نے تائیدی نوٹ لکھے اور حضرت مولانا صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سرکردگی میں قائد اعظم کی خدمت میں مسودہ آئین پیش کیا گیا۔ قائد اعظم نے تین گھنٹہ تک مسودہ آئین کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی حضرت مولانا نے انہیں اس خوش اسلوبی سے مطمئن کیا کہ قائد اعظم نے یقین دلایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ قومی اسمبلی کے منظور کرنے پر بہت جلد یہ آئین نافذ کر دیا جائے گا اس کے بعد جلد ہی ان کی وفات ہو گئی اور قائد اعظم علماء کرام سے کیا ہوا یہ وعدہ ایضاً مذکور ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے پہلی نماز عید آپ ہی کی اقتدار میں ادا کی تھی۔

حضرت مولانا شاہ عبد العظیم صديقي قدس سرہ نے تالیف و تصنیف پر بھی خاطر خواہ توجہ دی اور کثیر التعداد قابل فخر تصانیف کا ذخیرہ یادگار چھوڑا لیکن انہوں نے ان میں سے بہت سی تصانیف زیور طبع سے آراستہ ہو چکیں اور جو طبع ہوئیں ان کا شایان شان اہتمام نہ کیا گیا۔ چند تصانیف کے نام یہ ہیں:-

۱. ذکر صیب (دو حصے)
۲. کتاب تصوف
۳. بہار شباب (نوجوانوں کی اصلاح کے لئے بہترین کتاب)
۴. احکام رمضان (یہ تصانیف اردو میں ہیں)

- ۵۔ اسلام کی ابتدائی تعلیمات۔
- ۶۔ اسلام کے اصول۔
- ۷۔ اسلام اور اشتراکیت۔
- ۸۔ مسائل انسانی کا حل۔
- ۹۔ اسلام میں عورت کے حقوق۔
- ۱۰۔ مکالمہ خارج برناؤ شاہ۔
- ۱۱۔ مرزائی حقیقت کا انحصار۔ (یہ تصنیفات انگریزی میں ہیں)

چالیس سال تک دنیا بھر میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دے کر ۲۲ ذوالحجہ ۱۲ اگست (۱۹۵۴ء/۱۹۵۳ء) کو مدینہ منورہ میں اپنے محبوب حقیقی سے جاملے، اور تعلیمات اسلامی کی تبلیغ و اشاعت کے انعام کے طور پر جنت البقیع میں جگہ ملی، اس نابینہ روزگار سستی کے وصال سے تاریخ اسلام کا ایک روشن ورق الٹ گیا۔

حضرت مولانا شاہ عبد العظیم صدیقی قدس سرہ کے وصال کے بعد آپ کے محبوب خلیفہ اور داماد حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر محمد فضل الرحمن انصاری قادری رحمہ اللہ تعالیٰ میں الاوقافی تبلیغی جماعت در لٹرفیلڈ ریشن آف اسلامک مشنز کے بانی و صدر اور فرزند ارجمند حضرت مولانا علامہ شاہ احمد نورانی مدظلہ العالی (صدر جمعیت علماء پاکستان) نے مد صرف حضرت علامہ صدیقی قدس سرہ کے مشن کو جاری رکھا بلکہ اسے آگے بڑھایا، حضرت علامہ شاہ احمد نورانی وہ جن کو بیباک اور مردِ مجاہد ہیں جن کی جرأت ایمانی کو موافق و مخالف نے تسلیم کیا ہے، ان دنوں پاکستان میں نظام مصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے نفاذ کے لئے تمام تر سماجی کو وقت کئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ملک و ملت کی بقاء و استحکام اور عزت و آبرو کا راز صرف اور صرف ایمینِ اسلامی کے عملی نفاذ میں ہے۔

ملکہ ماہنامہ دنیا کے ہم (بیورو) نومبر ۱۹۷۱ء، تبلیغ اسلام حضرت مولانا محمد عبد العظیم صدیقی

نوٹ: ۱۔ ایمین اور اعلیٰ حضرت کے حوالوں کے علاوہ تمام حالات اسی مختصر سے اخذ ہیں۔ ۱۹۷۱ء
۲۔ اس رسالہ کا زور صرف سماج پر ہے اور انگریزی میں اس کا نام ہے "سماج و اصلاح" ایمین کی خدمت کو بھی گستاخوں سے محفوظ رکھیں۔

شیخ طریقت حضرت مولانا پیر عبد الغفار شاہ کشمیری قدس سرہ

حضرت پیر عبد الغفار شاہ ابن پیر احمد شاہ ابن پیر مصطفیٰ شاہ (قدست اسرار ہم) شیخ مسعود زوری المدفون محلہ زورہ سری نگر کی اولادِ امجاد سے تھے۔ آپ کے دادا حضرت پیر مصطفیٰ شاہ کشمیر سے اگر ضلع ملتان کے ایک ویرانہ میں بیٹھ گئے تھے جو آپ کے قدم کی برکت سے آباد ہو گیا اور اس مقام پر چک ۱۵/۵۷ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس چک میں پیر مصطفیٰ شاہ کا نزار جمع خلائق ہے، پیر عبد الغفار شاہ اسی چک میں متولد ہوئے اور ابھی گیارہ برس کے تھے کہ آپ کے والد ماجد لاہور تشریف لے آئے۔ لاہور ہی میں حضرت پیر صاحب نے علوم و فنون کی تحصیل و تکمیل کی، یہیں آپ کا نکاح سادات کے ایک گھرانے میں ہوا لیکن دو ہی برس بعد آپ کی اہلیہ داغِ مفارقت دے گئیں۔ اس کے بعد پیر صاحب نے دوسری شادی نہیں کی، صرف ایک فرزند پیر محمد اشرف مرحوم آپ کی یادگار تھے۔

حضرت پیر عبد الغفار شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ مسجد خضینہ نکیہ سا وھواں لاہور کے امام خطیب اور سلسلہ عالمیہ نقشبندیہ میں منسلک تھے مگر اس وقت ہمیں ان کے پیر و مرشد کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ جبید عالم اور عاشقِ رسول مقبول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تھے۔ تمام عمر درویشِ شریعت کے چھوٹے چھاپ کر تقسیم کرتے رہے، آپ کے مرتبہ درویشِ شریعت کے دس حصوں کا نام عشرہ کاملہ ہے، علاوہ ازیں وظائف اور نصرت کی متعدد کتابیں شائع کیں، اس سلسلے میں آپ کا عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ عشرہ کاملہ کے علاوہ دو ضخیم جلدوں میں درویشِ شریعت کا ایک مجموعہ بنام خزائن البرکات مرتب کر کے نہایت خوشخط لکھوایا مگر اس کی اشاعت کا موقع آنے سے قبل آپ کا وصال ہو گیا آپ نے اس کتاب کے عربی دیباچے میں لکھا ہے:

ملکہ نقوش، نومبر (فروری ۱۹۷۲ء) ص ۱۸۸

ہا کسی کا کوئی شغل ہے اور کسی کا کوئی مگر میرا ہر وقت کا شغل تصور نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے" (مفتویٰ)

۷ بود در جہاں ہر کسے را خیالے

مرا از ہمہ خوش خیال محمد

حضرت پیر صاحب کی مرتبہ تمام کتب پر یہ لکھا ہوتا تھا "عبد الغفار حامی اشاعت

درد و شریعت"

حضرت درد و شریعت کے علاوہ آپ کی ایک دینی خدمت یہ ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ

میں ۱۹۰۱ء/۱۳۲۹ھ میں آپ نے ایک دینی مدرسہ بنام مدرسہ لٹوٹیہ قائم کیا جس میں علوم دینیہ کی تعلیم

کا نہایت اعلیٰ انتظام تھا۔ اجلہ فضلاء مدرسین کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ ایک مدت تک اس

مدرسہ میں مفتی عبدالقادر جہانگیر وی صدر مدرس رہے اور مولانا سید احمد علی شاہ پٹاوی مرحوم

اعزازی طور پر ہر ہفتہ بعد از نماز شریعت پڑھایا کرتے تھے۔ یہاں کے طلباء کو ششوی مولانا روم

بھی پڑھائی جاتی تھی اور اس کا درس پیر صاحب خود دیا کرتے تھے۔

پیر صاحب قبلہ کے عقیدت مندوں کا حلقہ نہایت وسیع تھا۔ آپ کے ارادتمند

پنجاب اور کشمیر سے باہر افغانستان میں بھی تھے مگر آپ نے باقاعدہ بیعت خاص خاص

حضرات ہی کو کیا۔ مولانا غلام قادر امرتسری آپ کے مرید خاص تھے۔ انہوں نے وصیت

کی تھی کہ مجھے لاہور میں میرے پیر کے قریب دفن کیا جائے چنانچہ آپ کو لاہور میں لا کر

دفن کیا گیا۔

حضرت پیر صاحب کے وصال کا واقعہ یوں ہے کہ آپ نماز عشاء کے لئے

اپنی مسجد میں وضو کر رہے تھے، ابھی بائیں پاؤں دھونا باقی تھا کہ یکایک آپ کو

اختلاج قلب کا عارضہ لاحق ہوا۔ ڈاکٹر محمد دین ناظر جو آپ کے قریب ہی رہتے تھے،

کو اطلاع دی گئی، وہ آئے اور دو پلانے کی ہمت کو کشش کی مگر آپ نے بڑی آواز

پونے دو گھنٹے میں واصل بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ، ارجمادی الاخرے بروز چہار شنبہ

(۱۳۴۰ھ/۱۹۱۱ء) کا ہے۔

فقیر اعظم حضرت مولانا محمد شریعت کوٹلی لوہاراں نے آپ کی تاریخ وفات کہی ہے

سیدی دالا گہر غفار شاہ چون بوصول ذات حق مقرر شد

بہر سال جلنش گفتا شریعت "قبلہ و کعبہ من مستور شد"

۱۳ ۱۲ ۱۱

آپ کا مزار میانی صاحب (لاہور) کے قبرستان میں باغ گل بیگم کے نزدیک

واقع ہے۔

۱۔ محمد مرے امرتسری، بحیثیت ۱۔ تقریباً ۱۱۱ ہفت
۲۔ مبارکھوشیا، قلیو، ۱۔ مزار رحمانی (مطبوعہ ۱۹۶۷ء)

امام المجاہدین حضرت مولانا عبد الغفور صاحب سوات قدس سرہ

امام المجاہدین شیخ الاسلام و المسلمین حضرت مولانا اخوند عبد الغفور صاحب سوات قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ۱۸۴۱ھ/۱۸۶۶ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کو ابتدائی سے دینی تعلیم کا اشتیاق تھا چنانچہ ابتدائی کتب اپنے علاقہ کے علماء سے پڑھیں، بعد ازاں پشاور کے مشہور زمانہ فاضل حضرت مولانا حافظ محمد عظیم پشوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۱۲۷۵ھ/۱۸۵۸ء) کی خدمت میں حاضر ہو کر تقریباً چار برس میں تمام کتب متداولہ کی تحصیل تکمیل کی اور سند فراغت حاصل کی، بالکمال استاد کی صحبت سے تزکیہ نفس کا جذبہ پیدا ہوا اور شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد شعیب قدس سرہ ساکن تور ڈھیری کے دست اقدس پر سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہوئے، ایک عرصہ تک دریائے کابل اور دریائے سوات کے جنگلوں میں صحو عبادت و ریاضت رہے اور سلاسل ربیعہ میں ماڈون و مجاز ہوئے۔

اب آپ نے عوام الناس کو رشد و ہدایت کا درس دینا شروع کیا اور جگہ جگہ تشریف لے جا کر اتباع شریعت و سنت کی تلقین کرنے لگے، بیوہ عورتوں کا نکاح ٹالی کرانے شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلہ کرتے، غیر شرعی رسوم کا سختی سے سد باب کرتے، گویا آپ کی ذات سے ایک دبستان شریعت قائم تھا جس نے معاشرے میں زبردست انقلاب برپا کر دیا، آپ کے لشکر سے ہزاروں ضرورت مند مستفید ہوئے جو خدمت دین کے جذبہ سے مرشاد ہو جاتے۔

جب کہ سید احمد بریلوی اور مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی جماعت کے ساتھ پشاور کا رخ کیا تو حضرت اخوند صاحب نے سکھوں کو پشاور سے نکلنے اور مسلمانوں کو ان کے جبر و استبداد سے نجات دلانے کے لئے کارہائے نمایاں انجام دئے، پشاور فتح ہونے کے بعد مذکورہ جماعت نے اپنے عقائد و اعمال کو عملی طور پر نافذ کرنا شروع کیا، جہاں تک غیر شرعی رسوم اور منکرات کا تعلق تھا وہاں تک حضرت اخوند پیش پیش رہے کیونکہ یہ تو آپ کا مشن تھا جسے آپ پینے سے جاری کئے ہوئے تھے لیکن جب عقائد کا معاملہ آیا تو

صرف آپ مذکورہ جماعت سے الگ ہو گئے، بلکہ ان کے ایسے عقائد کی بھی کلمہ کھانا سنت کی جو مسلک اہل سنت کے خلاف تھے اور آپ کے ایما پر آپ کے عقائد، رافاضیوں نے ان کے عقائد کے رد میں مستقل کتابیں لکھیں، ان میں مولانا میر محمد الدین نوشہری اور پشاور کے ناوبر روزگافاضل مولانا میاں نصیر احمد المعروف بہ میاں صاحب قصص خوانی قدس سرہا کے اسماء خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خان غلام شہید حضرت مولانا اخوند عبد الغفور قدس سرہ کے مخلص مرید تھے، لہذا ان کی مذکورہ جماعت سے مخالفت ایک فطری امر تھا اس لئے ان پر غلامی کا الزام لگانا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔
لیکن قلم در کعب دشمن است

حالات دن بدن ناگفتہ بہ صورت اختیار کرتے گئے، اس لئے آپ نے تبلیغی کوششوں کا مرکز سوات کو بنالیا، ادھر انگریزوں نے اپنی شیطانی چالوں سے پشاور پر قبضہ کر لیا، حضرت مولانا اخوند عبد الغفور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دور رہی نگاہوں نے محسوس کر لیا کہ اگر سوات میں کوئی تنظیم نہ ہوئی، کسی کو امیر نہ بنایا گیا تو فرنگی بیخار کا مقابلہ کسی طرح بھی نہ ہو سکے گا چنانچہ آپ کی شاہانہ روز محنت کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے حضرت غوث خراساں سید علی ترمذی قدس سرہ کی اولاد میں سے سید اکبر شاہ (دم ۱۱۸۵ھ/۱۸۵۷ء) کو اپنا امیر تسلیم کر لیا، آپ نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت اخوند کو شیخ الاسلام تسلیم کر لیا گیا اور تمام مقدمات کے فیصلے شریعت اسلامیہ کے مطابق ہونے لگے۔

سید اکبر شاہ کی وفات کے بعد ایک بار پھر سوات اور بٹیر علاقہ جنگی کی زد میں آئے، انگریزوں نے اس اختلاف و انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوات کا رخ کیا، حضرت شیخ الاسلام اخوند نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور مریدین و متعلقین میں شوق شہادت کی روح پھونک دی، مجاہدین مرجعت میدان میں نکل آئے اور نہایت بے جگرگی سے انگریزی افواج کا مقابلہ کیا۔ معاملہ دست بدست لڑائی تک پہنچا اور لوگوں کو پسپا ہونا پڑا، یہ معرکہ جہاد امبیلہ کے نام سے مشہور ہے۔

کچھ دنوں بعد حضرت شیخ الاسلام نے مجاہدین کو ساتھ لے کر کٹر اکڑ کے مورچے کی طرف متوجہ ہوئے اور ہولناک جنگ کے بعد اس مورچے کو بھی فتح کر لیا، چونکہ یہاں سخت جنگ لڑی گئی تھی اس لئے اس جگہ نام ہی قتل گڑھ پڑ گیا، تقویٰ سے ہی دنوں بعد انگریزوں کی بھاری فوج نے ایک بنیادیت تجربہ کار انگریز کمانڈر کی کمان میں پھر حملہ کر دیا، ادھر حضرت انخون صاحب نے مجاہدین کی صفوں کو ترتیب دے کر مقابلہ کیا مگر یہ جنگ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئی، مجاہدین میں افراتفری پیدا ہوئی اور باجوڑ وغیرہ کے لوگ واپس ہونے لگے، حضرت انخون صاحب نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر ولولہ انگیز تقریر کی اور فرمایا: آج زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اسلام کی عزت اور بے عزتی کا مسئلہ ہے، جو انگریزی اور ہمت سے مقابلہ کرو، آپ کی تقریر کا خاطر خواہ اثر ہوا اور پسپا ہونے والے ایک مرتبہ پھر انگریزی فوج پر ٹوٹ پڑے مگر انگریزوں کے چند زرخیز جوانوں کی غدارمی کی وجہ سے کامیابی نہ حاصل نہ ہوئی اور مجاہدین کو منتشر ہونا پڑا۔

حضرت انخون صاحب رحمہ اللہ نے سید و شریف لے گئے اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ آپ کے مریدین لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے تھے، علاقہ آزاد اور کابل وغیرہ علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، آج بھی صوبہ سرحد میں جو دینی جذبہ اور اسلام سے محبت پائی جاتی ہے، آپ ہی کی تبلیغی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے، آپ کے خلفاء کی تعداد تقریباً ساڑھے چار سو بتائی جاتی ہے، آپ ایسے صاحب کرامت و خوارق بزرگ تھے کہ اپنی تمام زندگی اشاعت دین اور اعلام کلمۃ الحق میں صرف کر دی۔

آخری عہد آفریں اور تاریخ ساز مجاہد اور عالم و عارف، محمد المحرم، ۱۲ جنوری ۱۹۲۵ء تا ۱۹۸۷ء بروز پیر اپنے محبوب حقیقی سے جا ملا، آپ کا مزار پورا نوار سید و شریف میں مرجع نام ہے۔

۱۔ محمد امجد علی شاہ، مولانا سید : تذکرہ علماء و مشائخ مسجد (مطبعہ پبلشنگ ہاؤس خیر آباد ریشہ دار، ۱۹۸۶ء، ص ۱۲۹ تا ۱۳۰)

شیخ القرآن علامہ ابوالمقائم محمد عبد الغفور ہزاروی قدس سرہ

حضرت علامہ عبد الغفور ہزاروی ابن مولانا عبد الحمید ابن مولانا محمد عالم ذوالحجہ دسمبر ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰ء بروز جمعہ برہی پور کے قریبی گاؤں چنیہ پنڈ میں پیدا ہوئے۔ کافی تک کتابیں والد ماجد سے پڑھیں، بقیہ فنون میں سے زیادہ تر کتابیں استاذ الاسلام مولانا احمد دین (بھوئی) کی مجلس پور سے پڑھیں۔ استاذ العلماء مولانا محبت العینی بجا العلوم مولانا محمد بنیدالوی، استاذ شہیر مولانا قطب الدین غورخشتوی، مولانا میاں عبد الحق غورخشتوی اور علامہ مشتاق احمد کاپوری سے بھی درس لیا، دورہ حدیث کے لئے حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خاں بریلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دارالعلوم منظر اسلام سے سند فراغت حاصل کی۔

فارغ ہونے کے بعد کچھ عرصہ بھار ضلع لاکھنؤ اور تین سال تک ریسرچ ڈپارٹمنٹ گجرات میں پڑھاتے رہے۔ ۱۹۳۵ء میں وزیر آباد ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک جامع مسجد میں تشریف لائے اور جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی، یہیں آپ نے دورہ قرآن پڑھانے کی ابتداء کی جسے تاحیات بڑی دھوم دھام سے جاری رکھا۔ بڑے بڑے فضلاء اس دورہ قرآن میں شریک ہوئے۔

زمانہ تعلیم میں آپ حضرت شیخ الاسلام خواجہ میر علی شاہ گورکھپوری قدس سرہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور پوری زندگی عرس کی محفل خاص میں خطاب

۱۔ غلام میر علی مولانا : ایضاً اہمیریہ ، ص ۱۱۳

۲۔ حضرت میاں صاحب نے ناظم سے بیان فرمایا۔

۳۔ عبد العینی کوکب، قاضی ، سیرت مالک ، ص ۳۱

فرماتے رہے آپ نے ہر ذی اور ملی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ۱۹۴۶ء میں سنی کانفرنس
بنارس میں شریک ہوئے اور پاکستان ایسی نظریاتی اسلامی نمائندگی کے حق میں پُر نواز تقریر
کی تحریک پاکستان، ختم نبوت اور تحریک جمہوریت میں آپ کی مساعی ناقابل فراموش
ہیں ۱۹۶۸ء میں آپ جمیہ علماء پاکستان کے صدر منتخب ہوئے اور نہایت سرگرمی سے
کام کرتے رہے۔

حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی قدس سرہ گاہے گاہے شعر کی صورت میں اپنے
جذبات کا اظہار فرماتے تھے، ان کے کلام میں بلا کا سوز تھا، پیشانی مخلص کرتے تھے
کھڑی شریعت، حضرت پیرے شاہ غازی اور حضرت میاں محمد بخش قدس سرہما کے مراد پر
حاضری کے وقت کہتے ہوئے بعض اشعار ملاحظہ ہوں سے

برخ مہر و خشاہم تو باشی بقدر سوز خاناہم تو باشی
زخوف رہزناں امین لشیہم متابع دین و ایمانم تو باشی
شوم آزاد از فکر طیبیاں طیب و درو درانم تو باشی

زقلبت ہائے مرقد من نہ ترسم

جو با من مہر تاہم تو باشی

علامہ ہزاروی علوم و فنون کے بے نظیر ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ جادو بیان مقرر بھی
تھے، تصرف کے پیچیدہ مسائل کو آسان ترین لفظوں میں بیان کر دینا ان کے قادر الکلام ہونے
کا تین ثبوت تھا، جہاں مجلس و عظیم سامعین ان کی خوش بیانی پر مجبور مجبور کہ داد دیتے
تھے وہاں سیاسی سیخ پر ایسی تقریر کرنے کہ بڑے بڑے سیاستدان گمشت بدنیاں زدہ جلتے
۹ اکتوبر (۱۳۹۰/۱۹۷۰ء) کو وزیر آباد جی ٹی روڈ پر ٹرک کے حادثے میں جام
شہادت نوش کیا، جناب حکیم مہر و سہارنپوری نے سندرجہ ذیل قطعہ تاریخ لکھا ہے سے

لہ منقولہ احضان، ص ۱، حدیث شیح القرآن (اگست ۱۹۷۱ء) ص ۲۸-۲۷

لہ منقولہ احضان، ص ۱، حدیث شیح القرآن (نومبر دسمبر ۱۹۷۱ء) ص ۱۹

آج بے نور ہوئی مظل علم و حکمت اظہر گیا و اظہر اسرار کتاب و سنت
دہن میں آیا ہے یہ مصرعہ تاریخ و وقت اہل سنت کا امواج ہوا ہے بخصت
حضرت مولانا سید شریف احمد شرافت نوشا ہی نے قطعہ تاریخ وصال لکھا ہے سے
زبے مولوی پیر عبد الغفور کہ روشن بیدار چہرہ اشع نور
مبعقول و منقول مندر زمان فیوضات او منتشر در جہاں
ہزاراں غلاف نمودہ جہوم شدہ فارغ اذوئے درس علوم
بہم و عمل کامل وقت برد بتوحید اہل وجود و کثرت ہود
زدنیا رواں سوسے فردوس شد در اجمدا فلک پابوس شد
بتاریخ آں فاضل راست گو ز مغفور ناجی و صالحش بجز

شرافت سن عیسوی گو ضرور

بخوانی "کرم پیشہ عبد الغفور"

فاضلِ مہلبیل حضرت مولانا عبد الغنی صابری قدس سرہ

مولانا عبد الغنی ابن مولانا حکیم غلام رسول رحمہ اللہ تھالیے ۱۱۳۱ھ / ۲۰ - ۱۸۹۳ء میں
بقام دسومہ اضلع ہوشیار پور، بھارت میں پیدا ہوئے، عبد الغنی سعدی (۱۳۱۱ھ)
سے خود سن ولادت کا استخراج کیا آپ کے اساتذہ کے بارے میں تفصیلاً ذیل میں صرف
اتنا معلوم ہو سکا کہ امرتسر کے کسی مدرسہ میں تعلیم حاصل کی۔ ابتداً آپ غیر مقلد تھے جب کہ
آپ کے والد ماجد اور برادر گرامی دولت علی عارف سنی حنفی تھے لیکن عارف باللہ حضرت
شاہ سلج الحق گورداسپوٹی قدس سرہ کی مجلس میں حاضری کا یہ اثر ہوا کہ آپ صحیح العقیدہ
سنی بن گئے اور ان کے دستِ حق پرست پر بیعت جوئے اور خلعتِ خلافت حاصل کی ان
کے علاوہ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری، حضرت میاں عبد الحق (جہانگیراں ہوشیار پور)
امیرتہ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاہوری پوری
اور سائیں فتح علی مدظلہ بیبیاں پاکدامن (لاہور) وغیرہم (قدست امرہم) سے بھی مستفیض
ہوئے۔

تبلیغِ دین کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے، کئی کئی ماہ سلسلہ تبلیغ گھر سے باہر رہنے کو بھی
کسی سے معاوضہ طلب نہ کرتے، فرمایا کرتے تھے پنجاب کا کوئی گاؤں اور پاک و ہند کا کوئی
شہر لیا نہیں جہاں میں نہ تبلیغ نہ کی ہو۔ اعلا کلمۃ الحق آپ کا شیوہ تھا، اہل ثروت کے
سامنے جھکا بھی گوارا نہ کیا، مسلمانوں کی زبوں حالی اور تجارتی و تعلیمی میدان میں ہندوؤں کی
اجارہ داری کو بے نگاہ و تشویش دیکھتے تھے، اسی بنا پر چند متمول مسلمانوں کے تعاون سے اپنے
اسلامیہ ہائی سکول (دسومہ) قائم کیا جس کی بنیاد امیرتہ محدث علی پوری قدس سرہ نے
رکھی، اسی گھر سے ذہر کثیر صرف کر کے مسلمانوں کو تجارت کا مشورہ دیا، تحریکِ پاکستان شروع
ہوئی تو مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور امیرتہ حضرت پیر جماعت علی محدث علی پوری قدس سرہ
کی صحبت میں شہرِ شہر نظریہ پاکستان کے حق میں تھریں گے۔

علمائے دین سے صحابانِ زمان حضرت مولانا سید محمد محدث کچھوچھوی، حجۃ الاسلام مولانا
حامد رضا خاں بریلوی، صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی، صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین
مراد آبادی، استاذِ اہل حدیث مولانا سید محمد دیدار علی شاہ الوری اقدس امرتہم اسے گھر سے
تعلقات تھے، آپ کی خدمت میں دیوبندی اور اہل حدیث بھی عقیدت و احترام سے حاضر
ہوا کرتے تھے، ایک دفعہ فرمایا:

”دیوبندی اور اہل حدیث بھی مولانا سید محمد دیدار علی شاہ کے علم کا
لوہا ملتے تھے، واقعی ان کا علم بہت زیادہ تھا“

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ مولانا
علی اصغر چشتی (لاہور) کے نام ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:-

”بفضلِ خدا اہل سنت و جماعت ہوں، بریلوی حضرات سے عقیدت
ہے اور میرے پیر و مرشد (شاہ سلج الحق گورداسپوری) حضرت قبیلہ
مجدد ملت دورِ حاضر (امام احمد رضا بریلوی) رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی عقیدت
رکھتے تھے بلکہ آپ کا فرمان تھا، اگر احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
شخصیت ہندوستان میں نہ ہوتی تو تمام اہل ہند وہاں بیت کا سبق پڑھتے
اور آپ کا علم تمام علماء سے اعلیٰ تھا“ (مکتوب یکم اگست، ۱۹۵۰ء)

محدثِ اعظم پاکستان مولانا سردار احمد لائل پوری، خطیب پاکستان مولانا غلام دین (لاہور)
خطیبِ ملت مولانا غلام محمد زہرہ اور مولانا رفیق احمد خاں میکیش وغیرہم (رحمہم اللہ تعالیٰ) آپ کو قدر
منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

حضرت مولانا عبد الغنی رحمہ اللہ تعالیٰ عبادت و ریاضت میں اپنی مثال آپ تھے، اٹھارہ
سال کی عمر میں نماز تہجد اور اعتکاف کی ابتدا کی اور باقاعدگی سے ادا کرتے رہے حتیٰ کہ ۱۹۵۵ء
میں ٹانگ لڑتے جانے سے معذور ہو گئے، عشاء کے بعد جلد ہی سو جاتے اور رات کے بارہ بجے
اٹھ کر نوافل ادا کرتے اور پھر صبح کی نماز تک کہ فجر میں مصروف رہتے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے یا سنتے تو بے اختیار آنکھیں اشکبار ہو جاتیں۔

قیام پاکستان کے بعد لاہور تشریف لاکر ادا می بارغ میں مقیم ہو گئے، پہلے پگوشا مسجد میں خطبہ دیتے رہے پھر ۱۹۳۹ء سے ۱۹۵۶ء تک جامع مسجد شاہ ابوالعالی قدس سرہ میں فی سبیل اللہ خطبہ دیتے رہے۔ ۱۹۵۶ء میں حرمین شریفین کی حاضری سے مشرف ہوئے اس سفر میں حضرت فقید شیخ الحدیث مولانا سردار احمد لال پوری قدس سرہ کے ہم سفر رہے۔

۸ ربیع الثانی ۱۳۴۹ھ / اکتوبر ۱۹۵۹ء بروز اتوار مولانا عبدالغنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا۔ ادا می بارغ ریڈ کے کسٹیشن کے شمال میں ایک گنہریں آپ کا مزار ہے جہاں ہر سال ۱۱ اکتوبر کو آپ کا عرس ہوتا ہے۔ پیر عبدالغنی (۱۳۴۹ھ) مادہ تاریخ ہے آپ کے فرزند ارجمند جناب محمد فضل حق خالہ گورنمنٹ کالج بھمبر آزاد کشمیر میں لیکچرار ہیں۔

سلہ یہ تمام حالات آپ کے مرید صادق مولانا علی اصغر حسینی دلا جو ان سے مرحمت فرمائے۔

مولانا ابوالشہ محمد عبدالقادر شہید قدس سرہ

مولانا حاج ابوالشہ محمد عبدالقادر ابن مولانا علامہ حکیم غلام محی الدین ابن حضرت مولانا علامہ مفتی عبدالرحیم (تمیذ ارشد امام احمد رضا بریلوی) ۲۷۰۰ جب ۲۷۰۰ / ۱۳۴۱ھ / مارچ ۱۹۲۲ء کو مدنیہ الاویہ راجھ آباد شریف میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی اس کے بعد انجمن اسلامیہ ہائی سکول احمد آباد میں داخل ہوئے اور میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ۱۹۴۶ء میں گجرات کالج احمد آباد سے ایف اے کا امتحان نمایاں نمبر سے کر پاس کیا انہی دنوں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد حسینی قادری بریلی شریف سے مولوی سلطان حسن سنہلی سے مناظرہ کرنے کے لئے احمد آباد تشریف لائے، مناظرہ میں کامیابی کے بعد وعظ و تقریر کا سلسلہ شروع ہوا چونکہ حضرت شیخ الحدیث کا قیام مولانا عبدالقادر کے خراجیہ کے ہاں تھا اس لئے انہیں حاضری کے دور بھی زیادہ مواقع مہیا ہوئے نگاہ حضرت شیخ الحدیث کا اثر یہ ہوا کہ مولانا عبدالقادر دنیاوی تعلیم کو خیر باد کہہ کر مشرقیہ علم و حکمت بریلی شریف چلے گئے۔ حضرت شیخ الحدیث نے ان کی تعلیم کا معقول انتظام کر دیا۔ رمضان المبارک کی تعطیلات میں اپنے استاذ مولانا عبدالرشید جھنگوی دام ظلہ کے ساتھ جھنگ چلے آئے اور جب مولانا عبدالرشید جھنگوی جامعہ نقشبندیہ علی پور سیدال تشریف لے گئے تو بھی مولانا ان کے ہمراہ تھے۔ دوسرا بعد مولانا عبدالقادر پھر بریلی تشریف لے گئے اور مولانا علامہ وفار الدین اور حضرت محدث اعظم سے معقول و منقول کی کتابوں کا درس لیا۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت محدث اعظم کے ہمراہ پاکستان چلے آئے اور تحصیل علم کے لئے کچھ عرصہ سرگودھا اور شرق پور رہے جب حضرت محدث اعظم پاکستان نے محلہ سنت لائل پور میں دورہ حدیث کا اجراء فرمایا تو مولانا عبدالقادر بھی درس حدیث میں شریک ہوئے اور شعبان اعظم ۱۳۶۹ھ / ۱۹۵۰ء میں سند فراغت حاصل کی حضرت محدث اعظم نے جامعہ رضویہ کی بنیاد رکھی تو آپ کے فیض اصحاب کی جماعت میں مولانا عبدالقادر بھی تھے۔ شاہی مسجد کی امامت اور جامعہ رضویہ کی نظامت کو اس خوبی سے نبھایا کہ باہر و شاہد سنی فاضل

جامع مسجد کابینہ ڈوان گیا تو دوسرے علماء کے ساتھ مولانا عبدالقادر بھی جیمنت سر پر ہوا کرتے تھے۔
 کاروبار ہے۔ ۱۳۷۲ھ/۱۹۵۳ء میں جبل پور کے معزز خاندان کے فرد محترم مصوفی محمد حسین خاں
 کی دختر نیک اختر سے آپ کا نکاح ہوا یہ رشتہ خود حضرت محدث اعظم نے کرایا تھا۔ ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۷ء
 میں آپ نے بغداد شریف کی حاضری دی اور ہاں سے بذریعہ ہوائی جہاز حج و زیارت کی سعادت
 سے مشرف ہوئے۔ ۱۳۸۱ھ/۱۹۶۱ء میں سیلون کے احباب کی فرمائش اور حضرت محدث اعظم
 کے ارشاد کی بنا پر سیلون شریف نے گئے اور وہاں کمال خوبی سے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ایک
 سال بعد حضرت محدث اعظم کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے واپس لائل پور آئے۔ مولانا عبدالقادر
 کے خاص کام اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ دو سال تک پتو کی منڈی ضلع لاہور جو بچھڑھانے
 کے لئے جاتے رہے لیکن کبھی اپنی ذات کے لئے کراہتے تک کامطابہ کیا۔ مولانا بہترین
 مدرس اعلیٰ ہوئے مقرر اور بلند مرتبہ منتظم تھے، جلد سازی کے فن سے بھی بخوبی آگاہ تھے، حضرت
 محدث اعظم کے دست راست اور محترم خاص تھے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت محدث
 اعظم کی قابل قدر خدمات انجام دی تھیں حضرت محدث اعظم کی وصیت کے مطابق لائل پور میں
 آپ کی نماز جنازہ مولانا عبدالقادر نے ہی پڑھائی بعض ناگزیر حالات کی بنا پر مولانا سیلون اور
 مولانا معین الدین لاکھور سے کراچی جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ بعض احباب کے اصرار پر
 ان دونوں حضرات نے لائل پور میں قیام کیا اور عارضی طور پر کارخانہ بازار میں کرائے کے مکان
 میں جامعہ قادریہ کے نام سے ۳۰ اگست ۱۹۶۳ء کو ایک درس گاہ کا اجراء کیا گیا۔ بعد ازاں
 مصطفیٰ آباد سرگودھا روڈ لائل پور میں ۷۷ مرے زمین لے کر جامعہ قادریہ اور جامعہ مسجد طیبہ
 کاسنگ بنیاد رکھا گیا۔

۱۳ رمضان المبارک ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۳ء کو آپ کا رخ بازار جامعہ قادریہ میں
 نماز ظہر پڑھانے تشریف لائے آپ نے جامعہ کی پہلی میٹرھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک شیعہ قلی قلب
 نے بیچے سے آگے چاقو کے پے در پے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش
 کی مگر آپ جانبر نہ ہو سکے اور جام شہادت نوش کر گئے، دھوبی گھاٹ میں قریباً ایک لاکھ
 مسلمانوں نے نماز جنازہ ادا کی اور آپ کو جامعہ مسجد طیبہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ حزار پر گنبد

تعمیر ہو چکا ہے اور آپ کی عظمت شان دینی یادگار جامعہ قادریہ ترقی پر گامزن ہے۔ آپ نے
 اپنے پیچھے ایک صاحبزادی اور تین صاحبزادے عطا، مصطفیٰ، ضیا، مصطفیٰ اور رضا، مصطفیٰ
 چھوڑے۔

جناب مولانا غلام قطب الدین احمد نسیمی مدیر سواد اعظم لاہور نے درج ذیل قطعہ تاریخ
 وفات کہا ہے۔

مولانا عبدالقادر، اہل سنن کے حامی قاتل نے آہ ان پر کی شجر آزمانی
 دینا ہے خون ناحق اس بات کی گواہی رمضان میں شہادت سنت ہے مرقضانی

اب طبعی طور پر دور کر کے تاریخ لکھ اسے احمد

اتیس سو ہے چونٹھ اور تیس جنوری کی

۱۳۰۲ - ۳۱۹ = ۱۳۸۳ھ

لے محمد فضل کھٹولی، مولانا شہباز جیمنت (مطرب و جامعہ قادریہ، مصطفیٰ آباد، لائل پور)
 لے سواد اعظم لاہور

عزت کامل حضرت خواجہ حافظ محمد عبد الکریم نقشبندی قدس سرہ (راولپنڈی)

زبدۃ العارفین قدوة السالکین حضرت خواجہ محمد عبد الکریم ابن نذر محمد قدس سرہ
 ۱۱ اپریل، رجب المرجب (۱۲۶۳ھ/۱۸۴۷ء) بروز شنبہ بوقت صبح پیدا ہوئے تین ماہ
 کی عمر میں والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا اور ابھی آپ کی عمر دو برس بھی نہیں ہوئی تھی کہ والد ماجد
 کا سایہ شفقت بھی سر سے اٹھ گیا لہذا آپ کی پرورش آپ کے چچا میاں بہ بخش اور عابدہ و
 زادہ بچھو بھی نے بحسن و خوبی انجام دی۔ آپ جب چھو بھی صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے
 تو کہتے، مجھے بھی مصیبت بنا دیجئے تاکہ میں بھی نماز پڑھا کروں، چھو بھی صاحب تہجد کے بعد دعا کیا
 کرتی تھیں کہ اے اللہ اس بچے کو اپنا بندہ بنا اور دین و دنیا میں اس پر برکت نازل فرما!
 حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس دعا کی شدت تک اب بھی اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں
 اور یہ سب سنی عادات تھیں۔

جب آپ کی عمر ۱۰ برس ہوئی تو آپ کو محدثی مسجد کے امام قاضی محمد زمان رحمہ اللہ
 تعلقہ کے پڑھایا گیا چنانچہ مختصر عرصہ میں آپ نے قرآن مجید پڑھ لیا، بعد ازاں کتب درسیہ
 حفظ و حدیث و تفسیر بھی انہی سے پڑھیں جن میں سے فتاویٰ شریف، احیاء العلوم اور مشکوٰۃ
 شریف خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ سو سال کی عمر میں آپ کو کلام مجید کے حفظ کا شوق پیدا ہوا،
 اٹھائی سال کے عرصہ میں قرآن پاک یاد کر لیا، قرأت و تجوید مولانا محمد حسین علی سے پڑھی حضرت
 حافظ صاحب نہایت دلکش آواز میں قرآن مجید پڑھتے تھے، جس مسجد میں آپ نماز تراویح پڑھایا
 کرتے وہاں لوگ مغرب کے وقت ہی اپنی جگہ مخصوص کر لیتے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جگہ
 ہی نہ ملے، غیر مسلم بھی مسجد کے متصل گلی میں بیٹھ کر آپ کے سن قرأت سے محظوظ ہوا کرتے تھے۔

بیس برس کی عمر میں آپ کے دل میں محبت الہی کے جذبات موجزن ہوئے، سوچا کہ
 کسی مرد خدا کی غلامی اختیار کی جائے تاکہ قرب الہی کی دولت میسر ہو چنانچہ جہاں کسی بزرگ کے
 متصل سنے کشاں پہنچ جاتے، جب آپ زندگی کا چھ سو بیس منزل طے کر رہے تھے تو بہت

چکا کہ حضرت خواجہ فقیر محمد المعروف حضرت بابا جی قدس سرہ (چورہ شریف، راولپنڈی شریف
 لائے ہیں، پھر کیا تھا سربراہ اشتیاق بن کر حاضر خدمت ہوئے۔ پہلی ہی نظر میں سولہ جان
 سے ندا ہو گئے اور حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے، حضرت بابا جی قدس سرہ نے بھی نہایت
 شفقت و محبت سے نوازا اور یوں ایک لافانی تعلق پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت
 حافظ صاحب کا معمول بن گیا کہ ہفتہ عشرہ بعد چورہ شریف پہنچ جاتے، جو بھی اچھی سے
 اچھی چیز نظر آتی خرید کر لے جاتے اور حضرت شیخ کی نذر کر دیتے اور مرشد کی توجہات عالیہ
 سے مستفیض ہو کر واپس آجاتے اور یہ واپسی ہی حاضری کی تمہید بن جاتی، آخر ہاراج سلوک
 کو طے کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ گئے کہ حضرت بابا جی رحمہ اللہ تعلقہ نے آپ کو
 خرقہ خلافت و اجازت سے نوازا دیا۔

آپ دو دفعہ حج کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ پہلی دفعہ کسی وجہ سے حکومت
 نے حجاج کے مدبرہ طلبہ پر جانے پر پابندی مانگ کر دی، حضرت حافظ صاحب کی طبیعت
 میں اس بات کا بڑا تعلق پیدا ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربارِ اقدس
 میں حاضری نہ ہو سکی شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ ایک رات منہجد کے وقت سید عالم صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو حالت مراقبہ میں زیارت سے سرفراز فرمایا اور ارشاد فرمایا
 کہ اس وقت واپس جانا ہی مناسب ہے، انشاء اللہ تعلقہ نے ہمیں پھر بلائیں گے۔ پونچھ
 آپ ۱۹۱۱ء میں دوبارہ حج کے لئے گئے تو دربارِ رسالت کی حاضری سے بھی مشرف ہوئے،
 یہ کیفیت ہو گئی کہ واپسی کو قطعاً دل نہیں چاہتا تھا اور روزانہ دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے دیار
 حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہمیشہ کے لئے قیام نصیب ہو۔

ایک دفعہ عشاء کے بعد ایک نورانی صورت بزرگ شریف لائے اور فرمایا نبی اکرم صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ واپس بند جائیں، آپ کے وجود سے بہت سی
 مخلوق فیضیاب ہوگی اور آپ کی قبر بھی وہیں ہوگی، ساتھ ہی قبر کی جگہ بھی دکھا دی گئی چنانچہ
 اسی جگہ حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ تعلقہ کا مزار پُر نوار بنا۔

حضرت حافظ صاحب قدس سرہ کثر الکرامات بزرگ تھے، آپ کی سب سے

بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ نے ہزاروں افراد کو ڈکڑوں کی لذت سے آشنا کر دیا۔ بے شمار بے نماز آپ کے فیضِ صحبت سے شجرہ گوار بن گئے۔ شیعہ اور مرزائیہ کا مدلل رد فرمایا کرتے تھے، متعدد افراد آپ کے دستِ حق پرست پر عقائد باطلہ سے تائب ہوئے۔ پہلے پہل آپ کا رد ہار کیا کرتے تھے لیکن بعد ازاں ہمد وقت خلقِ خدا کی رہنمائی میں صرٹ کرنے لگے۔ آپ کی عام گفتگو اور وعظ و تقریر یاد الہی، اتباعِ سنت، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی تعین پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔

آپ کی شب و روز کی مصروفیات اس قدر زیادہ تھیں کہ آپ تصنیف و تالیف کی طرف زیادہ توجہ دے سکے، تاہم ہدایۃ الانسان الی سبیل العرفان تصوف و اخلاق پر آپ کی نہایت اہم کتاب ہے۔ یہ مکتوبات امام ربانی مجدد العتباتی قدس سرہ العزیز کا اردو میں ترجمہ کروا کر شائع کیا تاکہ علوم و معارف کے اس بجز خفا کا فائدہ عام سے عام تر ہو۔ اس کے علاوہ دعائے حزب البحر حضرت امام ابو الحسن شاذلی قدس سرہ کو از سر نو مرتب فرما کر شائع کیا، اس ترتیب کے دوران متحدہ پاک و ہند کے اطراف و اکناف جگہ جگہ بیروت سے دعائے حزب البحر کے نسخے منگوائے اور انہیں سامنے رکھ کر ایک قابل و ثوق نسخہ مرتب فرمایا، علی گاہ راولپنڈی کی موجودہ عمارت بھی آپ کی توجہات کا نتیجہ ہے۔

معاصرین میں سے مندرجہ ذیل حضرات سے آپ کے گہرے تعلقات تھے :-

۱۔ حضرت پیر سید مر علی شاہ، گواڑہ شریف

۲۔ حضرت میاں شیر محمد، شہر قیوڑ شریف

۳۔ حضرت سائیں توکل شاہ انبالوی

۴۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ، علی پور شریف (رحمہم اللہ تعالیٰ)

آپ کے ہاں چار صاحبزادے مولانا عبد العزیز ام ۱۳۴۲ھ/۱۹۲۴ء مولانا عبد الرحیم ام ۱۳۴۶ھ مولانا عبد الحق اور مولانا عبد الرحمن پیدا ہوئے جن میں سے آخر لاکر آپ کے ہاں ہوئے آپ نے ۲۴ بذات کو خرقہ خلافت عطا فرمایا جن میں سے فقیہ اعظم حضرت مولانا صاحب دلی پور، مولانا حکیم خادم علی خواجہ صوفی نواب لدین موہری شریف، مولانا

عبدالرحمن (فرزند) اور مولانا قاضی عالم الدین نہایت مشہور ہوئے۔

حضرت مولانا حافظ محمد عبدالمکریم قدس سرہ کا وصال ۲۸ صفر ۲۰۰۰ مئی ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء بروز جمعہ ہوا، آپ کا مزار پرانوار علی گاہ راولپنڈی میں مرجعِ خلائق ہے۔ فقیہ اعظم مولانا محمد شریف کوئی لوہاراں نے قطعاً تاریخ وفات کما حقہ

قبلاً دین و کتبہ امیاں ناصر دین و مذہبِ نعمان

دارتِ علم مصطفوی قطب ہر وغوثِ زماں

چشمہ فیض و عارفِ کابل مطلع نور و معدنِ عرفان

یعنی شیخ عبد کریم واقفِ علم و حافظِ قرآن

در شبِ بستم ماہِ مئی گشت از چشمہ پائیناں

باقفِ گفتہ سالِ وصالش پر عظیم ذیب جنان ۱۳

۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء (تصوف اور علم)

علامہ زمان مولانا محمد عبد الکریم قعداری رحمتہ تعالیٰ

فاضل جلیل مولانا محمد عبد الکریم ابن مولانا فضل احمد ابن مولانا حافظ خان محمد رحمہ اللہ تعالیٰ بمقام سہتی قلعہ دار ضلع گجرات میں پیدا ہوئے، آپ قریشی خاندان کے چہلم و چہراغ تھے۔ آپ کے اکابر اباعن عبد علم و فضل اور خدمت دین میں بلند مقام رکھتے تھے۔ مولانا نے اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلنے ہوئے اپنے دور کے اجہ فضلار سے اکتساب فیض کیا جن میں سے مولانا کلیم اللہ پھیبائی، مولانا محمد عبد اللہ ٹونکی (مٹھی حمد اللہ شرح سلم مولانا عبد الحکیم کلا نوری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ نے السنہ شریفہ کے امتحانات امتیازی پوزیشن میں پاس کئے۔ سنہ ۱۹۱۱ء میں حضرت خواجہ پیر سید حیدر شاہ جلالپوری قدس سرہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے۔

تحصیل علوم سے فراغت کے بعد ۱۹۱۳ء/۱۸۹۶ء میں مشن ہائی سکول جلالپور جٹال میں عربی مدرس مقرر ہوئے، بعد ازاں گورنمنٹ ہائی سکول پنڈو ادھال (ضلع جلم) میں رہے اور ۱۹۳۱ء میں مشن پراگئے۔ انگریزی دور میں اگرچہ انگریزی سکولوں میں السنہ شریفہ کے ساتھ کونگاہ حقارت سے دیکھا جاتا تھا لیکن مولانا جہاں رہے عزت و وقار سے رہے اور تدریسی ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ خطابت اور افتاء کے فرائض بھی انجام دیتے رہے، اسکاری طرزت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے والد ماجد کی طرح مسجد میں فی سبیل اللہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور تازہ سیت اس شکل کو جاری رکھا۔

مولانا بہترین خطاط، قادر الکلام شاعر اور صاحب تصنیف محقق تھے۔ آپ کی تصنیفات تصنیف اور تفسیر خطوط کا ذخیرہ آپ کے علم و دست لرنڈ پروفیسر قریشی (احمد حسین قعداری) (گجرات) کے پاس محفوظ ہے۔ تصانیف درج ذیل ہیں :-

- ۱۔ دیوان الکریم (عربی)
- ۲۔ دیوان الکریم (فارسی)
- ۳۔ تفسیر سورہ فاتحہ (عربی)
- ۴۔ لغوی البیانات فی مسائل الاموات

۵۔ تاج المؤمنین

۶۔ خیر الخیر فی مسائل سنت النبی

۷۔ القول العاصد فی حکم القیام الطلقات الثلاث فی مجلس الواحد

۸۔ روح العباد فی ذکر المیلاد

۹۔ اور تاریخ صلح حدیبیہ و فتح مکہ وغیرہ وغیرہ

روح العباد کے علاوہ باقی تصانیف تاہنوز غیر مطبوعہ ہیں۔

۲۴ صفر ۱۹۱۰ء ستمبر (۱۳۲۷/۱۹۰۷ء) بروز جمعرات شام کے وقت داعی اجل کو لبیک

کہی، آپ کے وصال سے قعداری علماء کی بزم کا ایک عظیم نمائندہ رخصت ہو گیا اور محراب و منبر کی رونق اپنے ساتھ لے گیا ہے

مولانا محمد فاضل ساکن حبیب نوالی نے قطعہ تاریخ وفات لکھا ہے

حبیب حضرت مولوی عبد الکریم

جسکو مردم کہ ہائف گفت یار

فخرت زاہدے "ساش شمار" ۱۳۰۷

۱۷۔ احمد حسین قریشی قعداری : یاد و صلعت

ص ۳۶

استاذ الافاضل مولانا شیخ عبداللہ شیخ گجراتی قدس سرہ

فاضل متبحر مرجع الفضلاء، بے مثل تالوع گو، مولانا شیخ عبداللہ ابن مولانا صدرالدین (۱۳۶۹ھ/۲-۱۸۵۱ء) سکھوں کے عہد حکومت میں اپنے نسیال موضع دینہ (ضلع جلم) میں ۵۰-۱۲۳۹ھ/۱۸۳۴ء میں پیدا ہوئے، بچپن کے چند سال اپنے عابد و زاہد نانا حافظ نورجی رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۱۳۷۰ھ/۵۲-۱۸۵۳ء) کے زیر سایہ گزارے۔ ساڑھے چار سال کی عمر میں حافظ نور دین ٹپک بکر کی خدمت میں حاضر کئے گئے اور حافظ صاحب کی توجہ سے جلد ہی قرآن پاک یاد کر لیا بعد ازاں علوم متداولہ کی تحصیل والد ماجد سے کی جو اپنے دور کے نامور اساتذہ میں شمار ہوتے تھے، ان کے علاوہ مولانا غلام محیی (میٹھی ڈھوک) استاذ حضرت خواجہ شمس العارفین قدس سرہ اور اپنے علم محترم مولانا میاں مخدوم عالم سے بھی استفادہ کیا۔ تکمیل علوم کے بعد شیخ نے چک بکر تحصیل کھاریاں میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، بے شمار علماء آپ کے چہرہ فیض سے سیراب ہوئے، چک بکر اگرچہ آپ کے پردادا مولانا حافظ شیخ محمد شکر اللہ علیہ الرحمۃ حضرت خواجہ فخر الحق والدین حبشی دہلوی کے زمانہ ہی سے منبع فیض چلا آ رہا تھا لیکن شیخ عبداللہ کی شانہ روز مسامحی کی بدولت علم و فضل کا گوارہ بن گیا، علامہ صغر علی رومی قدس سرہ نے ایک دفع فرمایا:

”میں نے لاہور کی مساجد اور علماء کی فہرست تیار کی تو نصف سے زیادہ

حضرت مولانا شیخ عبداللہ کے شاگرد ثابت ہوئے“

آپ کے چند مشہور تلامذہ کے نام یہ ہیں :-

۱۔ مولانا محمد عبدالملک، ساکن کھوڑی، مشیر مال ریاست بہاولپور۔

۲۔ آپ کے مرنے والی حضرت خواجہ محمود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت غوث بہاء الحق مدنی قدس سرہ

کے عہد مبارک کی شاہی مہلت موضع حاصہ فار تحصیل پھار میں ہے۔

۲۔ قاضی عطاء محمد گجراتی، تحصیلدار فشنر۔

۳۔ مولانا نیاز احمد ساکن قصبہ بہوڑہ۔

۴۔ مولانا حکیم غلام محی الدین قریشی ساکن دیالی۔

۵۔ مولانا محمد عالم قریشی سرگدھن۔

۶۔ مولانا حافظ نور دین مفتی اہل سنت بہاولپور جٹاں۔

۷۔ مولانا نور احمد، باگڑیا نوالہ۔

۸۔ سید بقاشاہ، کیرا نوالہ شہانہ۔

۹۔ سید محمد نور شاہ، گولیکھی۔

۱۰۔ سید فضل شاہ، چک عبدالخالق سیداں۔ (دفعہ ہجرت)

مولانا شیخ عبداللہ بے نظیر فاضل اور مناظرہ میں یکیتے روز گزار تھے۔ آپ کے عقیدت مندوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، امیر حبیب اللہ خاں والی کابل اور ہمارا احبہ بنیر سنگھ حاکم ریاست جہوں و کشمیر آپ کے مداحوں میں سے تھے۔

حضرت پیر سید غلام حیدر شاہ جلاپوری قدس سرہ نے آپ کو حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی قدس سرہ سے بیعت کرایا اور جلد ہی آپ کا شاہد خفا میں ہونے لگا، سلسلہ چشتیہ کے علاوہ آپ کو سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ میں بھی اجازت تھی۔

مولانا شیخ عبداللہ کے دو صاحبزادے مولانا محمد بقا (مولوی فاضل) اور حافظ محمد رضا آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے اس لئے آپ کے باوفا بھتیجے مولانا سلام اللہ شائق آپ کے جانشین ہوئے۔

آج سے قریباً پون صدی پہلے موضع چک جانی متصل ڈوگہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرنے مبارک تھا، مزار و عید قربانی کے موقع پر اس کی زیارت کرایا کرتے تھے، اس کی زیارت کے لئے بے انداز حلق خدام حاضر ہوا کرتی تھی، مزار اسے اپنے رہائشی مکان پر رکھتے تھے جہاں اس کی بے ادبی کا احتمال ہوتا تھا اس لئے مولانا شیخ

عبداللہ نے اپنی گزراہ اور اپنے احباب کے چندہ سے ایک مسجد اور ایک زیارت گاہ تعمیر کرا دی
جہاں بعد ادب و احترام ہوئے مبارک رکھو ادیا۔

مولانا شیخ عبداللہ نے عربی و فارسی میں ایک منظوم نصیحت نامہ مرزا غلام احمد قادیانی
کے لئے لکھا تھا۔

آپ کی ایک تالیف تاریخ الدیوان (حالات حاجی عبداللہ دیوان قادری قدس سرہ
جو لیسندہ در علاقہ پٹھوار (ہلم) کے رہنے والے تھے، متوفی ۲۰ شوال ۱۲۰۷ھ کا علمی نسخہ مولانا
عبدالرشید، لاجپت، بک، شاہدہ کے پاس موجود ہے جس میں حضرت دیوان رحمان اللہ نقاش
کے تفصیلی حالات بیان کئے گئے ہیں، قطعہ تاریخ مولانا شیخ عبداللہ رحمان اللہ نقاش کے
لکھا ہوا ہے۔

حضرت دیوان صاحب فقہ متین بر بساط قادری پروردہ اندلس نشین
چو کچہ بردندان در دنیا بگنوتنا نہاں در قصور جنت الماویٰ شدہ خلوت گزین

شیخ ذر سال وصال مصرع پاکیزہ گفت

حاجی دیوان عبداللہ بختت، آفرین لے

۱۰ ۲

آپ عربی فارسی اور پنجابی میں طبع آزمائی فرمایا کرتے تھے، آپ کا مجموعہ کلام جس کا تاریخی
نام نشان شیخ (۱۳۱۱ھ) ہے تاہنوز طبع نہیں ہو سکا آپ کا فارسی کلام حافظ شیرازی، مہربان
مہمان اور ناصر علی مرہدی کی زمینوں اور انہی کے رنگ میں ہے۔

تاریخ گوئی میں آپ کو قدرت کاملہ حاصل تھی، برجستہ تاریخ کہنے میں آپ اپنی مثال
نہ کہتے تھے، آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں تاریخیں رقم فرمائیں ۶۰، ۱۸۹، ۱۸۹ میں پسیدا اخبار
نے انعامی مقابلہ کرایا، آپ نے بھی عربی، فارسی اور اردو میں قطعہ تاریخ لکھ کر ارسال کئے
اور اول نمبر نے پر آپ کی خدمت میں تین انعام پیش کئے گئے۔

بھارتی مولانا محمد سلام اللہ شائق نے تاریخ وفات کئی سے
بھارتی مولانا محمد سلام اللہ شائق نے تاریخ وفات کئی سے

چو مولائے ماقبہ الہ دیں چراغ ہدایت بروئے زمین
چراغے بگویم کہ مہر جہاں زینت گاہ گشت ناگہ نہاں
ذفقہ شمس گشت عالم تمام شدہ خواب در چشم شائق حرام
خداکش بجات بخشہ مقام بحق محمد علیہ السلام
بسال سیمی چو داری خیال بگو "گوچ شیخ المشائخ" بسال لے

۱۹ ۶ ۲۱

ملہ جملہ کوائف، ماخوذ از مکتوب جناب حکیم محمد مظفر علی دہلوی ساکن پیکلہ (گجرات) بنام حکیم محمد عیوب
امر تشریحی زید مجہد۔

فاضل متبحر مولانا حافظ سید عبداللہ شاہ رحمانی

مولانا حافظ سید عبداللہ ابن مولانا سید چراغ شاہ ۱۲۴۴ھ / ۱۸۵۷ء میں کشمیری علم سیکھنے کے لئے پید ہوئے، قرآن مجید اور کچھ دوسری کتب مولانا علم الدین سیالکوٹی سے پڑھیں منطق فلسفہ اور ریاضی کی منتہی کتب حضرت خواجہ عبدالمعین قسافی سے پڑھیں۔ آپ کو کتب علیہ سے بے حد رگد تھا چنانچہ آپ نے اس دور کی متعدد نویسیوں کو کتب کی نقل کی تھی ان خطوط سے آپ کے قابل قدر علمی ذوق کا نشان ملتا ہے۔ یہ خطوط آپ کے ضلع رشت پید مولانا سید نور محمد قادری مدظلہ کے پاس محفوظ ہیں۔ آپ نے سورہ آل عمران کی چند آیات کی تفسیر فارسی میں بھی لکھی تھی جو بڑے سائز کے دو سو صفحات پر مشتمل ہے۔

آپ نوجوانی میں ۱۳۰۰ھ / ۱۸۸۲ء میں حضرت مولانا قاضی سلطان محمد لادانی قدس سرہ کے دستِ اقدس پر سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہو گئے تھے۔ حضرت قاضی صاحب آپ پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی حضرت قاضی صاحب مزارات عالیہ کی زیارت کے لئے سیالکوٹ تشریف لاتے تو آپ کے گھر ملکہ کشمیری میں ضرور رونق افروز ہوا کرتے تھے۔ حضرت قاضی صاحب نے آپ کو ایک خط میں "مشفق چراغ دو دمان مصطفیٰ" اور حضرت قاضی صاحب کے برادر اصغر قاضی محمد سعید رحمانی نے "اکرم الناس" اور اشرف العباد ایسے القاب سے نوازا۔ ۱۹۱۴ء میں جب آپ کے بڑے صاحبزادے سید شاہ ولایت مرحوم ایک ملک مرض میں مبتلا ہو گئے تو حضرت قاضی صاحب نے ازراہ عنایت سراج الملک حکیم اجل خاں کے نام تعارفی خط لکھ کر دیا تھا جو مقامات محمودہ، مرتبہ نواب مستوفی یا جنگ ۸-۲۳۷ میں مندرج ہے۔

علامہ محمد حسن فیضی، مولانا محمود گنجوی مصنف طریق السالکین (تصور شیخ کے موضوع پر) صاحب کتاب مولانا اکرم الدین علی اور مولانا نادو بخش ملتانی وغیرہ معاصر علماء کے ساتھ آپ کے لئے گہرے عقائد تھے۔ آخر ان کے دو حضرات نواکرت آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔

یہ روایت کے مطابق ایک دفعہ مولوی نور الدین بھیروی قادریانی ایک مسئلہ کی تحقیق کے لئے آپ کے پاس آئے تھے۔

آپ کے پاس دینی کتب کا بہت بڑا فرائی ذخیرہ موجود تھا جس کا بڑا حصہ میک کی نذر ہو چکا ہے البتہ کچھ حصہ اب بھی محفوظ ہے جس میں بعض نادری خطوط بھی موجود ہیں مثلاً تتمہ فتاویٰ محمود خانی علی مولانا محمد اکرم، قول صواب فی رد خضاب (فارسی) مولانا تراب علی کشمیری جامع الرموز عربی کامل، شجرۃ النبی تا آدم علیہ السلام (علی مرتبہ مولانا عبدالرحمن سیالکوٹی) آخر عمر میں تمام تعلقات اور مصروفیات ترک کر کے گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے یا پھر اپنے مسئلہ کے منتہی وظیفہ انت الہادی انت الحق لیس انت الہادی الاھو کا ورد فرمایا کرتے تھے۔

۴ دسمبر ۱۹۳۱ء / ۱۳۳۳ھ کو ۸۴ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا اور یک ۱۵ شمالی ضلع گجرات میں آپ کا مزار بنا۔ آپ کے خلف رشید میکر می مولانا سید نور محمد قادری مولف نقوش محبت، و اعلیٰ حضرت بریلوی کی سیاسی بصیرت، صاحب علم و فضل اور علم دوست شخصیت میں جو دور افتادہ ذہنی ماحول (جگہ) میں رہ کر علم کا چراغ روشن کئے ہوئے ہیں۔

۱۵۔ یہ نام مولانا محمد سید نور محمد قادری مدظلہ نے فراہم کئے۔

مولانا افضل محمد عبداللہ جھنگوی رحمہ اللہ تعالیٰ

مولانا محمد عبداللہ بن احمد یار (رحمہما اللہ تعالیٰ) ۱۲ محرم ۱۲۵۰ (ستمبر ۱۹۳۲ء) کو لنگرانہ چک ۲۳۷، نزد محمدی شریف، ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ محمدی شریف میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد ابتدائی کتابیں پڑھیں، بعد ازاں پھر ضلع سرگودھا میں مولانا سید ابوالحسن ہزاروی سے علمی استفادہ کیا، پھر موضع قنبری (ضلع سرگودھا) میں مولانا خدا بخش سے درس نظامی کی آفری کتابیں حمد اللہ شرح سلم، مسلم الثبوت اور توفیق ترویج وغیرہ پڑھیں پھر کچھ عرصہ محمدی شریف جا کر پڑھتے رہے، درس حدیث کے لئے مرکز علم و عرفان بریلی شریف گئے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا ابو افضل سردار احمد قدس سرہ العزیز سے اکتساب فیض کیا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی مدظلہ العالی کے مرید بنے۔

تعمیل علوم کے بعد مدرسہ ضیاء شمس الاسلام، سیال شریف (ضلع سرگودھا) میں مدرس مقرر ہوئے۔ اسی دوران جب استاذ الاساتذہ مولانا مظاہر محمد بندیلوی دامت الطاف سیال شریف تشریف لائے تو مولانا محمد عبداللہ جھنگوی تبرکات ان کے حلقہ درس میں شریک ہوئے اور سبزی وغیرہ کتب پڑھیں۔

غالباً ۱۹۵۷ء میں حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قدس سرہ کے بلانے پر مولانا صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول مدظلہ کی تعلیم کے لئے جامعہ رضویہ لاکھ پور شریف لے گئے، ان دنوں راقم الحروف کو بھی آپ سے صرف کی بعض کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، لیکن چند ماہ بعد ہی حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی مدظلہ العالی بنفس نفیس لاکھ پور شریف لائے اور مولانا کو اپنے ساتھ سیال شریف لے گئے۔ بعد ازاں ایک سال جامعہ حنفیہ قصور اور دو تین سال شمس العلوم مظفریہ رضویہ، وال بھجراں میں

درس رہے۔ اس کے علاوہ استاذ عالیہ سیال شریف ہی میں قیام رہا اور زندگی کے آخری دنوں تک درس و تدریس میں مصروف رہے۔

مولانا محمد عبداللہ جھنگوی رحمہما اللہ تعالیٰ خوش اخلاق، طہنسا اور پر خلوص انسان تھے، دن رات طلباء کو پڑھانے اور محنت کرانے میں لگے رہتے۔ ۱۹۷۳ء میں آپ کا نوجوان صاحبزادہ فوت ہو گیا، یہ صدمہ جان یوں ثابت ہوا اور آپ ۲۵ ذوالحجہ ۱۹ جنوری ۱۳۹۳ھ / ۱۲۱۹۷۲ء کو دار فانی سے ودعت فرما گئے۔



لے نظم سر مولانا: البواقیت المہربۃ، ص ۱۳۔

لے مکتوب گرامی مولانا صاحبزادہ عزیز احمد قدس ضیاء شمس الاسلام، سیال شریف نام راقم الحروف۔

فاضل گجرات مولانا ابوالبرکات محمد عبدالملک کھڑوی قدس سرہ

ادب عربی کے بے نظیر فاضل مولانا ابوالبرکات محمد عبدالملک کھڑوی قدس سرہ علامہ صادق بن مولانا محمد عالم بن گوہر خاں رحمہ اللہ تعالیٰ موضع کھڑوی متصل لاہور (موضع گجرات) میں خاندان گوہر جو بان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد مولانا محمد عالم اپنے دور کے مقتدر عالم دین اور فاضل منطق، حساب اور خوش نویسی میں کامل دسترس رکھتے تھے، حضرت مولانا جان محمد قادری لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرید اور مبارک تھے۔

مولانا محمد عبدالملک نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی اور برادر محترم مولانا غلام غوث سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لئے استادان کل مولانا شیخ عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں چک عمر (نزد لالہ موسیٰ) حاضر ہوئے اور نو دس برس تک اکتساب علوم کیا تکمیل علوم کے بعد محکمہ مال میں مددگار پٹواری کی حیثیت سے ملازم ہوئے اور ترقی کرتے کرتے افسر مال کے عہدہ تک پہنچ گئے۔ آپ کے علم و فضل کا شہرہ نواب صادق محمد خاں خامس (بہاولپور) تک پہنچا تو انہوں نے آپ کو بہاولپور بلایا اور اپنی ریاست میں مشیر مال مقرر کیا اور اس کے علاوہ بہت سی مدداریاں سپرد کیں، اس جگہ آپ نے تقریباً ۳۵ سال بکمال حسن و خوبی اپنے فرائض انجام دئے۔

شہر میں ایک قطعہ زمین حاصل کرنے کے لئے مسلمان اور ہندو دونوں کو نشان تھے آپ نے حالات کی نزاکت کے تحت نواب صاحب کی اجازت سے وہاں مسجد بنوادی اور اس کا نام مسجد قاضی رکھا اور نواب صاحب سے اس کا افتتاح کرایا، نہر صادقہ کے نقشہ اور کھدوائی کا آپ ہی نے انتظام کیا اس طرح آپ نے بہت بڑے ریکی تانی مغلطے کو میسراب کرنے کا اہتمام کر دیا۔

مولانا محمد عبدالملک قادر الکلام شاعر اور ادب عربی کے فقید المثال عالم تھے ۱۳۱۰ھ میں نواب محمد صادق والی بہاولپور کی مدح میں ایک تاریخی تصنیف لکھا جس کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے ہر ایک مصرعے سے تاریخ (۱۳۱۰ھ) نکلتی تھی، اگر دو مصرعوں کے صرف منقوٹ

یہ منقوٹ کو جمع کیا جاتا تو بھی یہی تاریخ نکلتی، اس تصنیف کا مطلع یہ ہے۔

مصلح جود و صداقت منبع ستر سناں ہدم عدل و جلالت صادق ماجدال
منقطع یہ ہے۔

اس تصنیفہ گفت مالک مرعالم لا جواب آفریں ہمد جا اشنخت صد گوید جہاں
علامہ صادق نے عربی کی زمین میں، کار و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس
میں ہدیہ نعت پیش کیا ہے، چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

اے بزدلہ برعش بریں نقش قدم را دزد نام تو علم ازلی لوح و قلم را
اے فخر بذات تو صنادید عروب را دے ناز بنام تو اقالیم عجم را
مشاطہ تقدیر، رخ حسن تو آراست تا ہست تماشا بکنند حسن عجم را
فطرت، لیسر زانوئے اندیشہ ہند سر آجلوہ بہ بیند ز ضرورت تو قدم را
ہر گہ کہ تصور بادب دست تو بوسد آرام زہر گوہ دہ درد و آلم را
اگس کہ گل روضہ خضرائے تو بوید فارغ کند از مشک سخن قوت شمع را
در پیشہ، بنام تو پناہ جنت، اگر کس بر پائے خود انگند سر شیر آجم را
اے فخر رسل اجز تو پناہ ہے بکہ جویم؟ چوں چرخ ہند بر سرم آفات علم را
نور است وجودت کہ بیگت جنبش خزان طے کرد مقامات خلک داد حرم را

بردر گہ تو صادق آورد پناہ ہے

بنواز بہ اظاف، در افتادہ غم را ملہ

۱۳۳۳ھ/۱۹۱۵ء میں نواب صاحب کی سمیت میں حرمین شریفین کی حاضری سے مشرف
ہوئے، دربارہ رسالت میں منظوم ہدیہ سلام پیش کیا جس کا ایک ایک لفظ قرآنی شوق اور
گری عقیدت کا پتہ دیتا ہے، ذیل میں دو شعر پیش کئے جاتے ہیں۔

السلام اے نیر تابندہ بُرج وجود السلام اے گوہر زشنندہ انعام وجود

۱۱۔ شاہان گوہر ، مطبوعہ مطبع معارفیہ اعظم گڑھ ، قوم گوہر کی مستند تاریخ ہے سلفہ

علاء صادق مولانا محمد عبدالملک رحمان اللہ تعالیٰ کا وصال ۲۶ جمادی الثانیہ ۱۴۱۰ھ جولائی

۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء بروز سوموار موضع کھوڑی (ضلع گجرات) میں ہوا سلفہ

مولوی غلام احمد اختر مورخ کمرشہ تالیفات بہاولپور نے قطعہ تاریخ کہا ہے

کے نیک ہر روئے عبدالملک مالک رسد بست رشت زندگی را سوائے زر کا و محمد

جنت اختر از فلک تاریخ رحیل و بگفت مالک ملک فصاحت جہر با ہمیش ابد سلفہ

مولانا حکیم محمد مظفر علی رحمان ساکن چک عمر گجرات نے درج ذیل تاریخ دیکھی ہے

فخر گوہر عبدالملک نیک نام کرد ملت جانب دار السلام

بود عالم با مل از اب وحید فیض یاب از خاندان ہر خاص و عام

گفت شائق با مظفر دیں چنین کن رقم تاریخ اں ذی استرم

۱۳۶۰ھ

سلفہ حسن الجودہ ، مائیکل بیچ ، ۲ ص

سلفہ ماہنامہ عزیز بہاولپور ، ستمبر ۱۹۳۱ء ، ص ۳۲ (نوٹ: تاریخ وصال ۲۶ جمادی الثانیہ ۱۴۱۰ھ جولائی

سلفہ ایضاً ، ص ۳۵ ، ۱۳۶۰ھ/۱۹۴۱ء بروز سوموار ہے)

سلفہ یہ حالات جناب حکیم محمد مظفر علی رحمان کے مکتوب بنام ذوق اعجاز، الحاج حکیم محمد سائے امرتسری مدظلہ سے

لئے لکھے ہیں، ۱۰ جولائی ۱۹۴۱ء سے ماخوذ ہیں ان کا حوالہ دے دیا گیا ہے۔

فاضل عیال حضرت مولانا عبدالواحد عثمانی بدایونی قدس سرہ

مولانا عبدالواحد عثمانی ابن مولانا حکیم ابوالمنظور عبدالعزیز عبدالواحد بدایونی (پاپا) کبیر مولانا عبدالعزیز

بدایونی (رحمہ اللہ تعالیٰ بدایوں میں پیدا ہوئے، علمی ماحول اور ناز و نعم میں پرورش پائی، ابتدائی تعلیم

گھر پر حاصل کی، مدرسہ قادریہ بدایوں اور مدرسہ شمس العلوم، بدایوں میں اجتہاد سائنہ حضرت مولانا

مفتی حافظ بخش بدایونی اور مولانا صاحب الرحمن قادری سے استفادہ کیا، پھر مولانا مفتی تقدیر بخش

بدایونی کے پاس مدرسہ تعلیم الاسلام، جسے پور میں حاضر ہو کر دو تین سال میں تکمیل کی، مولانا مفتی تقدیر بخش

نے ان کے سلفے بڑا آدمی وہ انتظام کیا تھا، مولانا عبدالواحد بدایونی اپنے استاد مکرم کلاؤ کر بڑی

عقیدت سے کیا کرتے تھے، مولانا عبدالعزیز بدایونی انہیں جامعہ ازہر مصر بھیجا چاہتے تھے

لیکن ان کی وفات سے یہ منصوبہ پاپا تکمیل تک نہ پہنچ سکا، البتہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے

مولوی فاضل کا امتحان دیا اور کامیاب ہوئے، سلسلہ عالیہ قادریہ میں عاشق رسول حضرت

مولانا محمد عبدالقدیر بدایونی ابن تاج الفحول حضرت مولانا شاہ صاحب رسول عبدالقادر بدایونی قدس

سرہا سے بیعت تھے اور مشہور گرامی سے دالمانہ محبت و عقیدت رکھتے تھے۔

مولانا عبدالواحد عثمانی بدایونی رحمان اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں ماہنامہ المنظور بدایوں سنبھالا ہے

مولانا مظفر الدین تیرکونی (م ۱۹۳۹ء) مالک و مدیر یہ روزہ الامان (دہلی) نے انہیں اپنے

پاس بلانیا اور الامان کی ادارت ان کے سپرد کر دی، ان دنوں تحریک پاکستان بڑے زور شور

سے جاری تھی، مولانا عبدالواحد نے الامان اور دیگر جرائد و اخبارات میں مضامین لکھے و تشدد

سے نظریہ پاکستان کی حمایت کی، قیام پاکستان تک دہلی میں رہے پھر وہاں سے بدایوں اور پھر

کراچی آ گئے، لاکھیت میں خاموشی اور گناہی سے وقت بسر کیا، کچھ دنوں محکمہ آباد کاری میں ملازم بنا

کئی اسکولوں اور مدرسوں سے متعلق رہے، پنجاب یونیورسٹی کے سائنس شریک کے محقق بھی رہے۔

حضرت مولانا عبدالواحد بدایونی ادب عربی کے زبردست فاضل اور سید ان خطابت کے

شعلہ بیان مقرر تھے، موزوں عقیدت کے مالک تھے، کبھی کبھی نعت اور سلام لکھا کرتے تھے، الامان دہلی

سے ادا کرتے رہے اور ساتھ ساتھ والد ماجد سے روحانی استفادہ کرتے رہے کیونکہ آپ کی
راہبوں سے والہی سے پہلے ہی آپ کے مرشد حضرت خواجہ دوست محمد قدس سرہ کا وصال ہو چکا
تھا، بعد ازاں تعلیمی مشاغل سے کنارہ کش ہو کر عبادت و ریاضت اور فتنہ خدا کی اصلاح و ہدایت
میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔

مفتی صاحب اپنے دور کے بہترین مقرر اور خطیب تھے۔ جب آپ روح پرور
آواز سے مثنوی شریف کے اشعار پڑھتے تو لوگوں میں حسوس ہوتا تھا کہ پوری فضا جھوم رہی ہے
لہذا شریف میں معراج شریف کی تقریبات میں آپ کے والد ماجد نے تقریباً تیس سال تک اور
مفتی صاحب نے چالیس سال تک شرکت کی اور حاضرین کو اپنے وجد اور بیانات سے
مستفید کیا۔ آپ کے علمی نکات اور حقائق و حکم سے معمور بیانات نصف شب سے شروع
ہو کر صبح تک جاری رہتے، سامعین کو محویت کے عالم میں رات کے گزرنے کا احساس تک نہ ہوتا۔

مفتی صاحب کے مریدین تللذہ اور فیضیائے افراد کی بہت زیادہ تعداد ہے لہذا شریف کے
موجودہ چارہ نشین حضرت صاحبزادہ الحاج محمد مہذب الرسول مدظلہ العالی سات سال تک آپ سے
روحانی استفادہ کرتے رہے ہیں حضرت مفتی صاحب کے وصال کے بعد آپ کے چھوٹے صاحبزادے
حضرت مولانا مفتی محمد عبدالقدوس ہاشمی مذہبی رہنما گورنمنٹ کالج سرگودھا، فاضل مرکزی جرنل جنات
لاہور (۱۹۵۴ء) آپ کے جانشین ہوئے، مولانا ہاشمی مدظلہ العالی جید عالم دین اور خوش بیان
خطیب ہیں بری رموں کو مٹانے اور اصلاح معاشرہ کے لئے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔

۱۰ رجب ۱۰، فروری ۱۳۷۶ھ / ۱۹۵۶ء کو حضرت مفتی عطاء محمد قدس سرہ کا وصال ہوا۔
موضوع رتہ تحصیل چکوال ہیں والد ماجد کے پہلو میں دفن ہوئے، ہر سال ۱۰ رجب کو مولانا مفتی
عبدالقدوس ہاشمی مدظلہ کے زیر اہتمام آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔

شیخ العصر حضرت میاں علی محمد خاں قدس سرہ (بسی شریف)

مجمع علم و عرفان حضرت الحاج میاں علی محمد خاں ابن حضرت محمد عرفان قدس سرہ ۱۲۹۹ھ /
۱۸۸۱ء میں بسی عرفان متصل ہریانہ ضلع ہوشیار پور (مہارت) میں پیدا ہوئے، مشہور تاریخ گو
بزرگ سید ہر ظلام دستگیر نامی نے غالباً ۱۳۷۶ھ میں آپ کی ولادت مبارکہ کا قطعہ تاریخ لکھا تھا
جس کا تاریخی شعریہ ہے۔

رقم کن "ظہور علی ریب ہند"
پنے سال تولد آن خوش سپر

آپ کے والد ماجد حضرت محمد عرفان رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب علم و فضل، فقیر منش
زمیندار تھے، "یا پیر" اور "تہذیب دہرم" (ردّ جنود) وغیرہ تصانیف یادگار ہیں۔
آپ کے نانا حضرت خواجہ میاں محمد عرفان المعروف میاں محمد شاہ حقیقی نظامی فخری قدس سرہ
اپنے دور کے ولی کامل تھے، ان کا مزار بسی نو، متصل ہوشیار پور میں مرجع ضلالت ہے۔
حضرت میاں علی محمد خاں نے اپنے نانا کی لگائی میں افاضل اساتذہ سے درس
نظامی کی تعلیم حاصل کی، علم طب اور فنون کسبگری پر بھی خصوصی توجہ فرمائی، آپ کے اساتذہ
میں حضرت مولانا دین محمد (مدنون بسی نو)، مولانا حکیم محمد عبداللہ حبیبک انوی و مولانا مرید احمد خاں
اچھے دور میں علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب ہوئے ہیں، مر و جہ علوم سے فارغ ہو کر
اپنے نانا اور مرشد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلوک و معرفت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ
بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہو کر کتاب فیض کرتے رہے۔

۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۴ء میں حضرت خواجہ میاں محمد عرفان رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال پر حضرت
خواجہ میاں علی محمد خاں قدس سرہ مسند شیعہ پرفائز ہوئے اور سجادگی کا حق ادا کر دیا حضرت
ملک الشعراء گلامی مرحوم نے ایک قطعہ لکھا ہے
محمد مکتہ خفی و حبلی جانشین محمد راست علی

آفتاب آفتاب راست وسیلہ درخورد سند ولی مست ولی
حضرت گرامی، میاں صاحب کے عقیدت مندوں میں سے تھے، انہوں نے
کئی رہائیوں میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت میاں صاحب موجودہ دور میں
سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سب سے عمر بزرگ تھے۔ علم و فضل، جود و سخا، زہد و تقویٰ،
اتباع شریعت اور استقامت میں نادر روزگار تھے، خاموشی سے گرانقدر دینی خدمات
انجام دیتے اور کسی کو خبر تک نہ ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ حسن
ظاہری عطا فرمایا تھا جو ان کے باطنی حسن و جمال کا آئینہ دار تھا، مجیب الرحمن شامی
کھتے ہیں :-

”چاندنی صورت کا محاورہ پڑھا بھی تھا اور دیکھا بھی — لیکن سچ
پوچھنے تو جس طرح میاں صاحب اس پر پورے اترتے تھے، بہت کم لوگ
اترتے ہوں گے، صورت بوسہاس، صفائی اور پاکیزگی میں ایک سے بڑھ کر
ایک — ایک بار ان کی طرف دیکھیں تو دوسری بار دیکھنے کے لئے
دل پبل میں جائے۔ اگر یہ درست ہے کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے تو پھر میاں
صاحب ایسے صاحب دل تھے کہ جو اس دور میں انگلیوں پر گنے جا سکیں، اسلئے
حضرت میاں صاحب قدس سرہ بزم رشد و ہدایت کی شہین نورانی تھے، ملکی سیاست
سے کبھی تعلق نہ رکھا البتہ تحریک پاکستان کے ایام میں مکمل طور پر تحریک کے حامی اور معاون
رہے۔ ۱۹۳۵ء میں پھر صاحب مانگی شریعت پاکستان شریعت عرس کے موقع پر منگ کر ام
سے ملے اور تحریک پاکستان کے سلسلے میں مشورے کرتے رہے۔ حضرت میاں صاحب
سے بھی ملے اور ایک گھنٹہ سے زیادہ وقت تک گفتگو ہوتی رہی، بعد ازاں ان کا ایک
نمائندہ بسی نوہنچا اور علیحدگی میں کچھ گفتگو کر کے فوراً واپس چلا گیا، انتخاب بالکل قریب
آگئے تو عقیدت مندوں اور تحریک کے قائدین نے اصرار کیا کہ آپ ایک بیان کے ذریعے

اپنے نیاز مندوں کو حکم دیں کہ دو سٹ مسلم لیگ کو دیں، چنانچہ آپ کا بیان فوائے وقت
میں شائع ہوا، تحصیل امرتسر سے چوہدری نصر اللہ اور ہوشیار پور سے رانا نصر اللہ خاں
محض آپ کی حمایت کی بنا پر منتخب ہوئے تھے، لہذا یہاں میں یونیورسٹی پارٹی کا نمائندہ
آپ سے تعلق رکھتا تھا، اس نے ہزار کوشش کی کہ حضرت میاں صاحب اس کی حمایت
فرمائیں لیکن آپ کسی طور پر رضامند نہ ہوئے اور مسلم لیگ کا نمائندہ بھاری اکثریت سے
کا میاب ہو گیا۔

قیام پاکستان کے بعد حضرت میاں صاحب لاہور شریعت سے آئے اور حضرت
داگج بخش علی جوہری قدس سرہ کے زیر سایہ اپنی قیام گاہ میں ڈیڑھ دو ماہ قیام کیا۔ ایک
موقع پر فرمایا ہمیں حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہی اپنے پاس بٹھا رہیں گے، پھر حضرت
فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایسے حاضر ہوئے کہ آپ کا مزار بھی
انہی کے مبارک قدموں میں بنا۔

حضرت میاں صاحب اور ادو و غافلقت کی بے مثال پابندی کے ساتھ ساتھ
کتاب تصوف کے پڑھنے پڑھانے میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ شیخ اکبر حضرت محی الدین
ابن عربی قدس سرہ کی تصنیف تعلیفات فصوص الحکم سے تو آپ کو عشق تھا، مولانا
فیض احمد (قبولہ شریعت) نے فصوص الحکم آپ سے سبق پڑھی تھی۔

جناب مجیب الرحمن شامی نے حضرت میاں صاحب کے چہلم پر منقرحہ جامع تازہ لکھا تھا،
ذیل میں اس کا کچھ حصہ پیش کیا جاتا ہے :

”میاں صاحب کی زندگی تو بندگی سے عبارت تھی، ان کے دل مجزی بجز حق
غور اور گہمہ نگہ کو ان کے دربار میں حاضر کی اجازت ہی نہ ملی تھی۔

کوئی ایک مہینہ پہلے میاں صاحب ۹ سال ایک ماہ کی عمر میں اسی شہر لاہور
میں اپنے رب سے جاملے اور پاکستان میں درگاہ بابا فرید میں اپنی وصیت کے مطابق
دفن ہوئے، دل کا عارضہ تھا اور رگ کابستر، کاکٹروں نے مکمل آرام کا شورہ دے
رکھا تھا، بستر سے اٹھنا اور چلنا پھرنا تو ذرا قابل نظر تھا لیکن نماز کا وقت آیا تو اٹھنے

لگے تاکہ وضو کر کے نماز پڑھ سکیں، ڈاکٹر نے منع کیا تو بولے "ڈاکٹر صاحب
یہ زندگی اسی لئے تو درکار ہے کہ فرائض ادا کر سکیں اگر فرائض ہی ادا نہ ہوں تو ایسی
زندگی کس کام کی؟" اس پر ڈاکٹر صاحب پیچھے ہٹ گئے اور میاں صاحب نے
اظہار نماز ادا کی تکلیف برہمی تو رات دو بجے پتھریں کے ۲ انجکشن لگائے
گئے، جونہی چار بجے اظہار بیٹھے تاکہ تہجد ادا کر سکیں اٹھتے ہوئے مسکرائے اور
فرمایا:

"یہ دو سوئیاں میری ۲ سال کی عادت نہیں بدل سکتیں؟"

اپنے رب سے اس اہتمام سے ملاقات کی کہ دل کی دھڑکن بند اور نبض بھی
بند، ڈاکٹر طبعی طور پر موت کا اعلان کر چکے ہیں لیکن میاں صاحب اس دنیا
میں موجود ہیں، دل کے دھڑکنے کی آواز نہیں آ رہی، نبض کی ٹپک ٹپک نہیں
چل رہی لیکن وہ ہیں کہ زندہ سلامت ہیں، دو گھنٹے تک اسی کیفیت میں بیٹھے
کے بعد وہ عالم مکمل طور پر طاری ہوا جسے عالم مرگ کہتے ہیں۔

علی طور پر سیاست سے ہمیشہ دور رہے، کسی گروہی منافقت میں حصہ
لیا، نہ سرکار دربار میں جانا مناسب سمجھا جس کو آنا ہوتا ان کے پاس جل کر آنا
جنہیں دنیا بڑا ماننی ہے میاں صاحب کے پاس چھوٹے کن کر سر جھکا کر
آتے، کونست سرگرم ہوئے، امن چین درہم برہم ہوا اور پاکستان کے نظریاتی
تشخص کو خطرہ لاحق ہو گیا تو میاں صاحب نے کونستوں کے خلاف جدوجہد
پر زور دیتے ہوئے باقاعدہ ایک اعلان پر دستخط کئے، عقیدہ مندوں اور مریدوں
کو کو لازم کے خلاف جہاد کی ہدایت ہماری ہوئی اور سب ہدایت ان کا پیغام مسلسل ہے۔
وہاں بھی جو جس جگہ پر بھی ہو، وطن عزیز کے نظریاتی کردار کی حفاظت کرو،
اس کے لئے سر دھڑکی بازی لگا دو"۔

تمام معاصر علماء و مشائخ آپ کو محبت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ایک مرتبہ
آپ امام الحدیث مولانا سید دیدار علی شاہ قدس سرہ سے ملاقات کرنے کے لئے جزیرہ الافغان
لاہور تشریف لائے، اس وقت امام الحدیث یہ حدیث بیان کر رہے تھے،
"النظر الی علی عبادة" (الصواعق المحرقة، ص ۱۲۳)
اور اس کا ترجمہ یہ فرما رہے تھے:

"علی مرتضیٰ کی زیارت عبادت ہے"

حضرت میاں صاحب نے بے ساختہ فرمایا، حضرت یوں کیوں نہیں کہتے:

"دیدار علی عبادت ہے"۔

۱۹۶۱ء میں یوم رضا کے موقع پر آپ نے مختصر پیغام میں فرمایا:

"حضرت علامہ مولانا احمد رضا خاں قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات

محتاج بیان نہیں

آفتاب آمد دلیل آفتاب

الداعی

علی محمد بقلم خود

حضرت میاں صاحب قدس سرہ سے ذکر و فکر اور رشد و ہدایت کی بے انداز
مصروفیات کے باوجود تین رسالے یادگار ہیں۔

۱۔ راہ فرسدا

۲۔ تفسیر سورہ فون المعروف بہ میلاد نامہ

۳۔ مکتوب در مسئلہ وحدۃ الوجود

۱۵ محرم الحرام ۲۸۱۰ ہجری (۱۹۹۵ء/۱۹۷۵ء) بروز منگل آفتاب شریعت و طریقت

سلہ منکر، حشا، برنہ، ابوالنصر، اسلامی جہاد، ساہیوال، شہیدان، بیاد مبارک، قدس سرہ، ص ۴

سلہ محمد شہید، احمد قادری، بیہت یوم رضا، سلہ مرکزی مجلس، لاہور، ۱۹۷۲ء، ص ۱۳

وصیاء العصر، فرید الدین ہر حضرت میان علی محمد خاں چشتی نظامی فخری قدس سرہ کا لاہور میں وصال
ہوا اور دوسرے دن تین بجے بعد نماز ظہر حضرت بابا فرید الدین گنجشک قدس سرہ العزیز کی خانقاہ
شریف میں نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں علماء و مشائخ کی کثیر تعداد کے علاوہ ہزاروں عقیدت مندوں
نے شرکت کی۔ ان کی آخری آرام گاہ حضرت خواجہ گنجشک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ شریف
میں بنائی گئی۔

استاذ العلماء مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا سید ابوالبرکات دام ظلہ العالی نے تلمیذیت
میں فرمایا۔

حضرت میان علی محمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ
سلف صالحین کی یادگار، تقویٰ، پرہیزگاری کی جوتی جاگتی تصویر تھے، حضرت
میاں صاحب علیہ الرحمہ جدید عالم دین، واقف، رموز معرفت و اسرار تصوف
اور عالم باعمل تھے۔ آہ! اب وہ پیکر حسن سیرت و صورت اقداسی آنکھوں سے
اوجھل ہو گئے۔

آپ کے وصال پر اہل سنت کے معروف و مشہور دارالعلوم حنفیہ فرید پور بصیر لوہ
ضلع ساہیوال میں فقہیہ اعظم مولانا الحاج ابوالخیر محمد نور اللہ نعیمی مدظلہ العالی نے متواتر چالیس
دن تک بیسیوں علماء و حفاظ سے آپ کے ایصالِ ثواب کے لئے قرآن خوانی کرائی۔
مخدومی حکیم محمد موسیٰ ہر تسری مدظلہ العالی نے مادہ ہائے تاریخ استخراج کئے،

فخر نمک، فرود عالم
سلطان کشور طریقت

سلسلہ مشائخ و شاہان مولانا ابوالنصر
اسلامی جمہوریہ سماجیوں اشاعت خاص م م
نوٹ: پیشانیات یوم رضا اور اداکار کے حوالوں کے علاوہ تمام حالات مکتوب حکیم محمد موسیٰ ہر تری
مدظلہ العالی مصنفوں سے ماخوذ ہیں (پہنت ۱۷۷۱، بہاولپور، مشائخ نمبر ۲۱، فروری ۱۹۷۵ء)

عالم باعمل حضرت مولانا علی محمد جماعتی فیروز پوری قدس سرہ

حضرت مولانا علی محمد بن مولوی احمد الدین، موضع فتو والا ضلع فیروز پور (بھارت) میں تقریباً
۱۳۰۸ھ میں پیدا ہوئے۔ آباء و اجداد نہایت نیک سیرت تھے۔ آپ نے قرآن کریم اپنے
والد ماجد سے پڑھا اور جب حضرت مولانا محمد حسین ساکن اننگ شریف ضلع سرگودھا تلمیذ شریف
امام اہلسنت مولانا شاہ احمد رضا خاں قدس سرہ) بریلی شریف میں تدریسی خدمات انجام
دیتے ہوئے فیروز پور پلٹیں میں تشریف لائے تو درس نظامی کی تحصیل کے لئے ان
کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ معمول یہ تھا کہ مغرب کی نماز پلٹیں میں ادا کرتے اور رات کے
بارے سے بجے اسباق سے فارغ ہو کر واپس آتے نیز روزانہ گائے کا دودھ استاد
کی خدمت میں پیش کرتے۔ مولانا محمد حسین آپ پر نہایت مہربان تھے۔ مولانا علی محمد
کو بھی ان سے حد درجہ عقیدت تھی وہ نہ صرف ایک بلند پایہ فاضل تھے بلکہ ولی کامل بھی
تھے، دوران تدریس ہاتھ ہلا ہلا کر فرمایا کرتے کہ "مولوی علی محمد! ہوش کرو، فتنے آئے،
فتنے آئے" مولانا فرمایا کرتے کہ ہم نے آپ کے اس ارشاد کی تصدیق ہونے اپنی آنکھوں
سے دیکھی۔ اسی زمانہ میں منظر اسلام مولانا محمد عمر چھوڑی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ہاں
قیام پذیر رہے اور مولانا محمد حسین قدس سرہ سے اسباق پڑھ کر واپس آجائے
اور آپ سے بھی استفادہ کرتے۔

مولانا علی محمد قدس سرہ فتو والا سے فرائض امامت و خطابت کے لئے
فیروز شریف میں آگئے اور سلسلہ تعلیم جاری رکھا۔ نصف بخاری شریف پڑھی کر استاذ
مکرم کا وصال ہو گیا چنانچہ آپ ہمہ تن خدمت دین میں مصروف ہو گئے، علم دین کا شغف
دیکھتے کہ آپ علوم دینیہ کی تحصیل میں تقریباً تیس سال تک منہمک رہے۔ فیروز پور شریف میں
۱۹۴۶ء سے ۱۹۴۷ء تک معروف شیخ طریقت حضرت سید محمد اسماعیل شاہ قدس سرہ العزیز
دکروا لہ) آپ کی اقتدار میں نماز جمعہ ادا فرماتے رہے، شاہ صاحب آپ کو ولی کامل سمجھتے تھے

اور اس کا اظہار اپنے مریدین میں بھی کیا کرتے۔

آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری قدس کے دست اقدس پر بیعت تھے، پیرو مرشد کی آپ پر نظر عنایت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب آپ حاضر خدمت ہوتے تو وہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔

تعمیر ملک کے بعد آپ لاکھ پور شیعہ میں آگئے اور یہاں ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی حضرت محدث اعظم لاکھ پوری قدس سرہ نے جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی تو آپ نے اپنی ذاتی کتب کا مستجدہ جسد دارالعلوم کی نذر کر دیا اور دارالعلوم کی ترقی میں پوری دلچسپی لینے لگے۔

لاکھ پور سے آپ کوٹ ایل گڑھ فقہ تشریف لے آئے اور یہاں مسجد چھٹی گلی میں فرائض امامت انجام دینا شروع کر دیا نیز کوٹ علیہم غاں کی جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتے رہے۔ مسجد چھٹی گلی میں بھی آپ نے سلسلہ تدریس جاری رکھا اور مسلسل کئی سال تک فارسی، صرف و نحو اور تفسیر کا درس دیتے رہے۔ کتب بینی آپ کا محبوب ترین مشغول تھا، آپ نے کئی مرتبہ بخاری شریف پڑھی اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آج تک جس مقصد کے لئے اسے پڑھا ہے، بحمدہ تعالیٰ ہمیشہ کامیاب رہا ہوں۔ دینی معاملات میں آپ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی رعایت نہ کرتے اور ٹکٹے کی چوڑی صحیح مسد بیان کرتے، فرقہ واریت کے تو آپ جانی دشمن تھے اور مسائل متنازعہ کے حل کے لئے دلائل کے انبار لگا دیا کرتے تھے۔

فقہ میں آپ سے جن تلامذہ نے استفادہ کیا ان میں مولانا سرور احمد امام و خطیب کوٹ علیہم غاں، مولوی برکت اللہ (مان)، شاہ محمد حسینی، نوشونوی اور حافظ عبدالحق قابل ذکر ہیں۔ آپ کے ہاں تین صاحبزادے تھے جو جو مغربی ہی میں انتقال کر گئے۔

۲۶ ربیع الثانی، جولائی ۱۳۸۹ھ (۱۹۶۹ء) بروز ہفتہ صبح ۸ بجے آپ کا وصال ہوا اور کوٹ ایل گڑھ کے بڑے قبرستان کی جنازہ گاہ میں آپ کی آخری آرام گاہ بنی۔

آپ کے نواسے حافظ عبدالحق زید مجروح اور علی بن الحنفی آپ کا سالانہ مدرس باقاعدگی سے کرتے ہیں

فاضل متبحر مولانا محمد عمر الدین ہزاروی قدس سرہ العزیز

حبر اہل سنت مولانا عمر الدین ابن مولانا قمر الدین بن عمار الدین بن مراد بخش بن گل محمد

کوٹ نجیب اللہ (ہری پور ہزارہ سے چھ میل دور ایک قصبہ) میں پیدا ہوئے۔ آپ مبلغ ہزارہ کے مشہور دانشور فاضل مولانا فیض عالم مصنف "وجیز الصراط" کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کے آبا و اجداد گجرات کا تھپیا واڑا تجارت سے ہزارہ آئے تھے۔ آپ نے مبلغ ہزارہ اور تجارت کے مشاہیر سے کسب فیض کیا، اور علم و فضل، تحریر و مناظرہ میں کمال حاصل کیا۔ حضرت

مولانا تاج الفحول محبت رسول مولانا شاہ عبد القادر قادری بدایونی کے مرید خاص اور خلیفہ تھے کہ

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ سے آپ کے نہایت گہرے تعلقات تھے چنانچہ مولانا کی تصنیف "اہلک لومہ بین" پر امام اہل سنت نے مہبوط تقریظاً تحریر فرمائی تھی

مولانا ہزاروی عالی مرتبت مدرس اور مرجع اہم مفتی تھے۔ آپ کے مقالات اہل

سنت کے موقر جریدہ "تحفہ حنفیہ" پٹنہ میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ اہل نامہ تحفہ حنفیہ

مولانا ابوالسکین ضیاء الدین متوطن پہلی بھیت کی ادارت میں جمادی الاولیٰ ۱۳۱۶ھ کو مصلح لودی کٹرہ پٹنہ میں جاری ہوا اور عرصہ دراز تک مسلک اہل سنت کی ترجمانی پوری سبے باکی سے کرتا رہا۔ اس جریدہ سے میں امام احمد رضا بریلوی، مولانا سلامت اللہ لاکھ پوری، مولانا

مولانا ظفر الدین ہزاری، مولانا عمر الدین ہزاروی وغیرہ ماحولہ علماء کے گرانقدر مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔

مولانا محمد عمر الدین ہزاروی کثیر التصانیف عالم تھے، لیکن ان کی اکثر و بیشتر تصانیف

نکد رسائی نہیں ہو سکی، چند رسائل واقف کی نظر سے گزرے ہیں جن کے نام یہ ہیں:-

۱۔ امیر شاہ قادری، مولانا سید ۱، تذکرہ علماء و مشائخ سجدہ (مطبوعہ لکھنؤ) ۲۰۰۶ء - ص ۲۰۶

۲۔ مولانا احمد قادری، مولانا شاہ ۱، تذکرہ علماء، اہل سنت ۱، ص ۱۰۵

۱۔ الاجازہ جنازہ کے ساتھ ذکر با بھر کے جواز میں۔

۲۔ اہلک الوالیین علی توہین قبر المسلمین۔

۳۔ فتوے العلماء بتعظیم آثار العلماء۔

۴۔ فتویٰ الشفقت بجز سجدة الشکر بعد الصلوٰۃ۔

۵۔ فوز المؤمنین بشفا عذرا شافعیین۔

۶۔ صیانتہ الصبا و عن الخصاب بالسواد (۱۳۲۷) اس کا فقہی نسخہ کتاب خانہ

گلج بخش راولپنڈی میں محفوظ ہے۔

مولانا مرحوم کی زندگی کے تقریباً ساٹھ سال جاہلی بستی میں خطابت و افتاء کے فرائض انجام

دینے میں گذرے آپ کے دو صاحبزادے ہیں۔ بڑے صاحبزادے قاضی عبدالقادر سیٹھ رڈ

سکول ماسٹر اور چھوٹے قاضی فضل رسول میونسپل کمیٹی ہری پور میں پیپل کلرک ہیں۔

شب قدر کی رات دو اور تین جنوری کی درمیانی رات کو ۱۳۴۹ھ/۱۹۳۱ء میں

۶۵ یا ۶۰ برس کی عمر میں کوٹ نجیب اللہ اہری پور ہزار گلیں آپ کا وصال ہوا اور اسی

جگہ دفن ہوئے، راقم ایک دفعہ فاتحہ خوانی کے لئے آپ کے مزار پر حاضر ہوا تھا۔

سے اہر شاہ قادری مولانا سید : تذکرہ علماء و مشائخ مجدد ، ج ۲ - ص ۳۰۷

نوٹ : مولانا شاہ محمد احمد قادری زیچہ نے تذکرہ علماء اہلسنت ۱۹۵۵ء میں لکھا ہے کہ آپ کا پیکر مہیوں میں دھال ہوا

جو درست نہیں ہے۔

استاذ الافاضل مولانا غلام احمد حافظ آبادی قدس سرہ العزیز

فاضل متبحر استاذ العلماء فقیر اجل مولانا غلام احمد بن شیخ احمد ۱۲۷۳ھ/۱۸۵۶ء میں

کوٹ اسحق (مصنافات حافظ آباد) میں پیدا ہوئے قرآن مجید اور فارسی کی کتابیں گھر میں

پڑھیں پھر مولانا غلام الدین بھابھہ ضلع ہوشیار پور، مولانا محمد دین، مولانا شام الدین احمد نگر

(ضلع گوجرانوالہ) مولانا ابوالاحمد زاہد علی (کپور تھلہ) اور مولانا غلام قادر بھروی وغیرہم مستاذ

افاضل سے کسب فیض کیا۔ فراغت کے بعد جامعہ نعمانیہ لاہور میں تدریس کا آغاز کیا اور

تمام عمر صدر مدرس رہتے تھے

آپ کا شمار اپنے دور کے اکابر مدرسین میں ہوتا تھا، بشیرا فضلہ آپ کے شاگرد

ہوئے جن میں سے مندرجہ ذیل بہت مشہور ہوئے:

۱۔ مولانا فیض الحسن جلیلی

۲۔ مولانا محمد عالم آسی امرتسری

۳۔ مولانا احمد علی سابق نائب شیخ الجامعہ بہاولپور

۴۔ مولانا سید محمد حسین خلیفہ حضرت پیر سب جامعہ علی شاہ علی پوری

۵۔ مولانا غلام محمد کھولوی

مولانا عبداللہ ٹونگی (مفتی محمد اللہ) آپ کے بڑے عقیدت مند تھے اور حواشی میں آپ

کے مشورے قبول کرتے تھے جب ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء میں طاعون کی وبا پھیلی تو آپ بیمار

ہو گئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے، اسی سال ۱۶ رات ۱۶ اپریل کو وصال فرمایا اور

مولانا غلام عبدالرسول کو اپنا جانشین چھوڑ گئے تھے آپ کے فرزند ارجمند ہیں۔

سے اقبال قادری، علماء : تذکرہ علماء اہلسنت لاہور (مطبوعہ جنوری ۱۹۷۵ء) ص ۲۳۱

سے قدم برقی، علماء : ایوانیت الہریہ ، ص ۱۳۷-۱۳۸

حضرت مولانا حکیم غلام احمد حافظ آبادی قدس سرہ

عاشت باللہ حضرت مولانا حکیم غلام احمد بن شیر محمد بن جان محمد بن فقیر اللہ (رحمہم اللہ تعالیٰ) موضع سہارن خور تحصیل وزیر آباد میں پیدا ہوئے۔ اپنے دور کے مشہور و افضل سے علوم دینی کی تحصیل کی جن میں سے حضرت مولانا محمد موسیٰ فتح پوری اور مولانا غلام رسول ساکن علی پور تحصیل وزیر آباد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ میں اپنے استاد حضرت مولانا محمد موسیٰ غلیظہ حضرت مولانا محمد علی کھلاوی غلیظہ حضرت پیر پیمان خواجہ محمد سلیمان تونسوی (دست امراہم) سے بیعت ہوئے اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔

مولانا غلام احمد اپنے وقت کے عارف ربانی اور فاضل بگیاڑ تھے، شعر و ادب، طب اور خطاطی میں خاصی دسترس رکھتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت صادق اور حضور ہی تھے۔

مولانا غلام احمد قدس سرہ نے تکمیل علوم کے بعد موضع کوتاوار پور تحصیل حافظ آباد ضلع گوجرانوالہ میں سکونت اختیار کر لی اور یہیں تمام عمر خلق خدا کو راہ خدا دکھانے میں مشغول رہے مولانا کے تشریف لانے سے قبل یہ علاقہ جہالت کا گوارا تھا لیکن آپ کی تعلیم سے لوگوں کو دین سے اچھا خاصا لگاؤ پیدا ہو گیا۔ آپ تمام زندگی درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ میں مصروف رہے، حلقہ درس وسیع تھا، جنات بھی آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔

آپ عربی، فارسی اور پنجابی میں شعر کہتے، علیہ شریف پنجابی منظومہ (۱۲۹۸ھ) اور علیہ شریف فارسی منظومہ (۱۲۹۹ھ) طبع ہو چکے ہیں، دونوں علیہ شریف آپ نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر لکھے تھے، پنجابی علیہ شریف کا پہلا بند یہ ہے۔

لکھ کر ڈٹاں حمد الہی

نعت نبی سرور اخوانی

صلی اللہ علیہ وسلم

تاج ذابلسنوں شاہی

فارسی علیہ شریف کا پہلا شعر یہ ہے۔

سے کہ تفسیر مجال روئے تو شدوا لضعف

شرح جہانے تو الشمس آمدہ اندر بنا

آپ کے منظوم پنجابی اور فارسی علیہ شریف کی تفصیلی شرح آپ کے پوتے حضرت مولانا محمد عالم آسی امرتسری نے وضع اطوار محمدی کے نام سے لاہور سے شائع کی تھی، مولانا غلام احمد کا ایک مصرعہ یہ ہے۔

غلام احمد محمد شاہ

آپ کے پانچ فرزند تھے اور سب اللہ ولے تھے، ان میں سے ایک مولوی حافظ علی حمید صاحب دل اور صاحب علم بزرگ تھے جو موضع راگھوسیدان مسافرات کوتاوار پور میں مقیم ہو گئے تھے، مولانا عبدالحمید کے ہاں دو فرزند نولد ہوئے، لا مشہور ذناذ فاضل مولانا محمد عالم آسی نقشبندی محمد وی غلیظہ حضرت شاہ ابوالخیر دہلوی قدس سرہ، جو امرتسر میں مقیم ہو گئے تھے (۲) مولانا حکیم محبوب عالم راگھوسیدان میں مقیم ہو گئے ہیں اور غایت درجہ نفع و نفاہت کے باوجود خدمت خلق میں مصروف ہیں اور اپنے علاقے کے سب سے بڑے طبیب ہیں۔

حضرت مولانا غلام احمد ۱۸ ربیع الآخر ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۲ء کو راہی دار آخرت ہوئے، مزار پراوار کوتاوار پور میں ہے۔

حضرت مولانا غلام قادر شائق رسول بگڑی قدس سرہ نے آپ کی تاریخیں کہیں:

۱۔ بقرۃ مفیدہ حقا (۱۲۹۹ھ)

۲۔ عالمے فیاض عالم باکمالے بود (")

۳۔ چچیکس بود فیاض زمان (")

۱۷ محمد وی امرتسری و محمد علی منت : نظم یادداشت

خطیبِ پاکستان مولانا غلام الدین قدس سرہ الغزینی

اشرفی ہوں بندہ مسکین ہوں خادم قوم و غلام دین ہوں
 مجاہد تحریکِ ختمِ نبوت خطیبِ پاکستان حضرت مولانا غلام دین ابن علی بن سید احمد ابن
 میاں فضل دین ابن میاں کرم دین چکولہی ضلع گجرات میں پیدا ہوئے، انگریزوں سے ۵ میل دور
 سرگودھا روڈ پر گناہ اور سنگوال کے درمیان چکولہی چکوکا اسٹاپ ہے، قرآن مجید والد ماجد سے
 پڑھا، ڈیڑھ میل دور قصبہ گناہ کے سکول میں سات جماعت تک تعلیم حاصل کی، مولانا محمد عبدالقدیر
 گناہی سے سکندرنامہ تک فارسی کی کتابیں پڑھیں صرف و نحو کی ابتدائی کتب موضح ٹھیکریاں
 میں مولوی فضل حق سے پڑھیں پھر لاہور آ گئے، استاذ العظما مولانا محمد مہر الدین مولف
 تسہیل المسانی شرح مختصر المعانی، مفتی اعظم پاکستان مولانا ابوالبرکات سید احمد دامت برکاتہم
 العالیہ اور امام الحدیث مولانا سید دیدار علی شاہ قدس سرہ سے درس نظامی اور حدیث پاک
 کی تکمیل کی، ۱۳۵۲ھ میں سند فراغت حاصل کی، سند فراغت پر امام الحدیث کی مہربانی سے
 اور مفتی اعظم پاکستان کے تصدیقی دستخطان الفاظ میں رقم ہیں:

"انشہد ان المولوی غلام دین الحق اللہ بالنسب الصالحین قد قدم
 علی وتعلو منی ومن غیر من مدرستہ دارالعلوم حزب الاحناف لکنبہ
 المتداولتہ اذ قد اللہ جل جلالہ العلوم المنافع ولما الفتیوا فی التوی العسدر
 مسید احمد تروود لعد المتکفی ما فی البرکات ناظم حزب الاحناف لاھور فی ۱۳۵۲ھ

حضرت شاہ علی حسین اشرفی کچھ چھوٹی کے دستِ اقدس پر جمعیت تھے، فارغ التحصیل ہونے
 کے بعد انجن شیلہ لاہور کی چھوٹی سی مسجد میں خطیب مقرر ہوئے، آپ کی جادو بیانی اور خوش لوائی نے
 سامعین کے دل جود لئے، جمعہ کے موقع پر عظیم اجتماع ہوتا، آپ کی مساعلی جمیلہ سے اس وقت

ملہ بہا بہت مولانا محمد بن مغلہ، راجم حضرت مولانا غلام دین و والدہ گرامی مولانا محمد شریف لڑی جرن استدر
 کے منقول از سند حضرت مولانا غلام دین برما شہ قضاے۔

جامع مسجد صدیقیہ، شاہی مسجد اور مسجد وزیر خاں کے بعد لاہور کی تقریباً سب سے بڑی مسجد ہے
 مولانا قادر الکلام، بخش بیان اور مجمع پر چھپا جانے والے مقرر تھے، جمعیت علماء پاکستان کے قیام
 اور تحریک پاکستان میں قابلِ قدر خدمات انجام دیں، تحریک ختمِ نبوت میں شریک ہوئے اور قیدی
 بندی مصیبتیں برداشت کیں، تحریک آزادی کشمیر میں نمایاں حصہ لیا، فضائل امام اعظم
 فضائل درود شریف اور رفیق الوداع میں آپ کی تصانیف ہیں۔

مولانا محمد رفیق اشرفی آپ کے فرزند ارجمند حیدر عالم دین اور شعلہ بیان خطیب ہیں۔
 ارشدیہان اعظم، ۱۲ اکتوبر (۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء) بروز پیر واصل بحق ہو کر جامع مسجد صدیقیہ
 کی جنوبی جانب دفن ہوئے، ان کے مزار پر گندہ تعمیر ہو چکا ہے ملہ
 حضرت مولانا سید شریف احمد شرافت نوشاہی مدظلہ العالی نے قطعہ تاریخ
 وفات کہا ہے ملہ

زچے مولوی سعادت قریشی	غلام جناب شہراہل دین
پہ سنت جماعت بے نیک نام	بہ تبلیغ اسلام والا مقام
ذو عظم شریف شیش خلعت ہزار	بہ راہ ہدایت شدہ بے شمار
بہ لاہور فیضانِ ادبے حساب	بہ تبلیغ ادب ہر کے فیضیاب
چو بہت رخت سفر از زمین	بہ فردوسِ اعلیٰ شدہ جاگزین
ذرحیل آں زبده الکاملین	بہانفت نداگشت مغفور دین

چو رخش بہار الجنان گشت شاد
 شرافت گبو افتخار العباد

ثانی لائانی حضرت میاں غلام اللہ شرقپوری قدس سرہ العزیز

حضرت ثانی لائانی میاں غلام اللہ شرقپوری ابن حضرت میاں عزیز الدین قدس سرہما
۱۳۰۹ھ/۱۸۹۱ء میں شرقپور شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے بھائی شیر بانی حضرت میاں شیر محمد
شرقپوری قدس سرہ سے تیس سال چھوٹے تھے۔ ابھی پانچ سال کے تھے کہ والد گرامی کا سایہ
سر سے اٹھ گیا اور تمام نژاد پرورش حضرت میاں شیر محمد شرقپوری قدس سرہ نے کی چونکہ حضرت
میاں صاحب کے اولاد زمین نہ تھی اس لئے آپ نے تمام نژاد پرورش ہی پر صرف فرمائی۔ میرٹک
پاس کرنے کے بعد آپ نے طبیہ کالج لاہور سے حکیم حادق کا امتحان دیا اور کامیابی حاصل کرنے
کے بعد شرقپور شریف میں علاج معالجہ شروع کر دیا۔ حضرت میاں صاحب قدس سرہ
انہیں روحانی طبیب بنا چاہتے تھے اس لئے اس شغل سے منع فرما دیا۔ آپ نے یہ سلسلہ
توک کر کے میونسپل کمیٹی میں بطور سیکریٹری ملازمت اختیار کر لی۔ حضرت میاں کو پتہ چلا تو
سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔

حضرت میاں صاحب نے پندرہ سال کی عمر میں آپ کی شادی کر دی اور نہ صرف
اپنی تمام زمین حوالے کر دی بلکہ ان کے نام لگا دی۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ امیر الدین قدس سرہ
کے جیتے جی حکیم بابا اکرام خاں نے حضرت میاں صاحب سے عرض کیا، آپ کے بعد کیا ہوگا؟
حضرت میاں صاحب نے حضرت میاں غلام اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ جو ہے
حکیم صاحب نے عرض کیا ان کی طبیعت تو تبلیغ و ارشاد کی طرف مائل نہیں ہے۔ آپ نے
پر جوش لہجے میں فرمایا،

”میں اسی کو دوں گا“

اور واقعی ایک سرو کمال کی نگاہ نشان میں وہ صلاحیت پیدا کر دی کہ دیکھنے والے حیران و
ششدر رہ گئے۔

کیسا پیدا کن الممشیت گلے

بوسہ زن بر آستان کاٹے

حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے وفات سے پہلے آپ کو خلافت ورجائشینی
کا شرف بخشا۔ آپ نے حضرت میاں صاحب کی روشن کی ہوئی شمع کو بجھنے نہ دیا اور اسی طرح
تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اس سلسلے میں دور دراز کے سفر بھی کئے اور خلق خدا کو
فیض باب کیا۔ آپ کی شخصیت پر کشش اور گفتگو پر تاثیر ہوا کرتی تھی۔

ایک دہریہ لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے صرف اتنا فرمایا ”نماز
پڑھا کرو“ اس مختصر سے جملے کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکا دین میں کاپا بند ہو گیا اور وجود
باری تعالیٰ پر ایسی ایسی دلیل قائم کرنا کہ سننے والے حیران رہ جاتے۔

حضرت میاں صاحب سادہ لباس زیب تن فرماتے اور کفنیس کا یہ حال تھا کہ صاحب
سادہ ہونے کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اسی قدر ہوں کہ جو کوئی حضرت اعلیٰ کا مہمان آئے
اس کے ہاتھ دھلا دیا کروں اور کھانا کھلا دیا کروں! حضرت میاں شیر محمد شرقپوری قدس سرہ
نے شرقپور شریف میں جو متعدد مساجد تعمیر کرائی تھیں انہیں آپ نے نچھتہ بنا دیا اور بعض مساجد
کو وسیع کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک مدرسہ تعمیر کرایا جس میں دینی تعلیم کے لئے بہترین اساتذہ
کو متعین کیا جو اب بھی جاری ہے اور ”درس حضرت میاں صاحب“ کے نام سے مشہور
ہے۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرقپوری قدس سرہ کے ایک خلیفہ حضرت الحاج
عبدالرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانی لائانی کا لقب دیا جو زبان زد خاص و
عام ہے۔

آپ کے دو صاحبزادے حضرت میاں غلام احمد مدظلہ (فرزند اکبر) اور حضرت
میاں جمیل احمد صاحب شرقپوری مدظلہ (فرزند اصغر) آپ کے طریق پر قائم ہیں اور دین میں
کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت میاں جمیل احمد شرقپوری مدظلہ العالی نے ایک تبلیغی
ادارہ ”دار البلیغین“ قائم کیا ہے جس سے علماء اور حفاظ مستفیض ہو رہے ہیں۔ حال ہی
میں حضرت میاں جمیل احمد شرقپوری مدظلہ کی سرپرستی میں اہ نامہ نور اسلام کا امام اعظم نمبر

اشارہ ستمبر اکتوبر ۱۹۷۵ء شائع ہوا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اتنا عمدہ اور
 ضمیمہ نمبر آج تک پاک وہند میں شائع نہیں ہوا جو گا۔ مولانا نے کریم الرحمن صاحب کے ذریعہ دین اسلام کو معاہدہ کیا۔
 حضرت میاں غلام اللہ شرف پوری متعدد بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہوئے اور
 تین مرتبہ حج و زیارت کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ پہلی دفعہ اپنی طرف سے، دوسری مرتبہ
 والدہ ماجدہ کی طرف سے اور تیسری مرتبہ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے حج کیا، تقریباً تیس سال تک تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے۔

۴ ربیع الاول، ۲۱ اکتوبر (۱۳۷۷ھ/۱۹۵۷ء) بروز بدھ تین بجے دن محبوب حقیقی
 سے جاتے اور حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پہلو میں دفن ہوئے۔

سید ابوسید ایم اے قاضی : ایثار نذر اسلام، شرفیہ (اکتوبر ۱۹۷۲ء) ص ۳۷-۳۸

حضرت علامہ مولانا مفتی غلام جان ہزاروی ثم لاہوری قدس سرہ العزیز

بروالمظفر سے کہ عبدالمصطفیٰ مصداق ابقیان عالی دودماں
 باغلامان محمد نبش در شریعت رہبر پرورد جوان
 مفتی اعظم سے بے قیل و قال ایک در لاہور چو پیشینگان

حضرت مولانا مفتی ابوالمظفر عبدالمصطفیٰ غلام جان ابن مولانا احمد جی ابن مولانا محمد عالم
 ۱۳۱۶ھ/۱۸۹۶ء میں مقام اوگرہ تحصیل مانسہرہ ضلع ہزارہ میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید اور فارسی
 نظم و نثر اور صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں اپنے والد سے پڑھیں، اس کے بعد شرفیہ میں دہلوی
 ساران پور کی درس گاہوں میں بھی گئے۔ مدرسہ عالیہ جامع مسجد گڑھ کے اساتذہ سے بھی
 کسب علم کیا۔ مولانا غلام رسول (انتہی ضلع گجرات) سے حمد اللہ اور زواہد اللہ کا درس لیا۔
 بینہ ضلع اعظم گڑھ اور گلوالی ضلع بلند شہر میں معقول کی کتابیں پڑھیں، تو کتابیں حضرت
 علامہ حکیم سید برکات احمد سے ریاضی اور معقولات میں استفادہ کیا۔ ۱۳۳۵ھ میں مدرسہ
 عالیہ رام پور سے درجہ تکمیل پاس کیا۔ مولانا شاہ سلامت اللہ رام پوری آپ پر بے حد
 شفقت فرماتے تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کا شہرہ سن کر مرکز علم و عرفان
 بریلی شریف پہنچے اور شمس العلماء مولانا ظہور الحسن فاروقی رام پوری اور صدر الشریعہ مولانا
 حکیم محمد امجد علی (مصنف بہار شریعت) سے درس نظامی کی آخری کتابیں پڑھ کر صحاح
 ستہ کا دورہ کیا۔ ۱۳۳۷ھ کے جلسہ دستار بندی میں امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی
 نے دستار بندی فرمائی اور سند فضیلت عطا فرمائی۔ امام اہل سنت کے دست اقدس پر مہر
 ہوئے اور پھر خلافت سے نوانے گئے۔ فراغت کے بعد مدرسہ مظاہر اسلام بریلی میں
 مدرس اور سجدہ بی بی جی (بریلی) میں امام و خطیب مقرر ہوئے۔ حضرت مولانا خواجہ
 محمد تونسوی کی دعوت پر وہاں سے مدرسہ سلیمانہ تونسہ شریف جا کر کچھ عرصہ کام کیا۔
 ایک سال مکہ شریف رہے، اس کے بعد خان محمد امیر خاں رئیس شیلیہ ضلع ہزارہ

نے آپ کو بلا کر عمدہ قصا پر امور کیا لیکن کچھ دن بعد ہی آپ لاہور چلے گئے اور جامعہ لغمانیہ لاہور میں صدر مدرس اور مفتی مقرر ہوئے۔ ۱۳۴۵ھ میں بریلی شریف اور الجھیر شریف حاضری دیتے ہوئے حج و زیارت کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ شب بیداری یتیموں، میواؤں کی دستگیری اور اپنا کام خود کرنا آپ کے اوصاف تھے۔ دین متین کی تبلیغ و ترویج کا جذبہ بدرجہا تم موجود تھا۔ آپ کی تصانیف یہ ہیں :-

- ۱۔ فتاویٰ غلامیہ
- ۲۔ نور العینین فی سفر الحرمین
- ۳۔ سیفِ رحمانی علی راسِ النعادیانی
- ۴۔ دیوان غلامیہ
- ۵۔ نغمہ شہادت (یہ ہنزوی غیر مطبوعہ ہیں)
- ۶۔ القبول الخاطی فی جواز الخیلة والاسقاط
- ۷۔ رسالہ اذان علی القبر و تعدد الجمعہ فی مساجد المصر۔ (یہ طبع ہو چکی ہیں)

۲۵ محرم الحرام، یکم اگست (۱۳۷۹ھ/۱۹۵۹ء) کو کلمہ شریف اور صلوة و سلام کا ذکر کرتے ہوئے عین اس وقت جب مؤذن نے اذان ظہر کی آواز بلند کی، آپ نے اپنی جان جاں آفریں کے سپرد کر دی۔ دوسرے دن غازی معلم دین شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار کے جنوبی جانب دفن کئے گئے۔ نماز جنازہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا ابوبکر کات سید احمد رحمہ اللہ نے پڑھائی۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا مظفر اقبال سابق مدرس دارالعلوم جامعہ لغمانیہ لاہور آپ کے جانشین ہیں، مکرمی الخدیج حکیم محمد یونس امرتسری مدظلہ نے معارف اگاہ مفتی اعظم (۱۹۵۹ء) تاریخ عیسوی اور فوت شدہ مفتی نجماں تاریخ ہجری کمی ہے۔

۱۰۲ ص ۲۳۸-۲۴۵ تذکرہ علامہ شیخ سرحد ج ۱

عارف کامل حضرت پیر سید غلام حیدر علی شاہ جلالپوری قدس سرہ العزیز

امام عرفان حضرت پیر سید غلام حیدر شاہ ابن سید محمد شاہ ۳ صفر ۱۲۹۰ھ اپریل (۱۲۵۳ھ/۱۸۳۸ء) کو جلال پور میں رونق افرازے دار دنیا ہوئے، آپ کا سلسلہ نسب دسویں پشت میں حضرت سید محمد دوم جہانیاں سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار اور صالحہ خاتون تھیں، آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہماری والدہ بابا سید الدین گنجشکر کی والدہ کی مانند تھیں جنہوں نے ابتدا ہی سے اپنے نعت جگ کر نماز روزہ کا پابند بنا دیا تھا۔

جب آپ نے ہوش سنبھالا تو قرآن پاک کی تعلیم کے لئے آپ کو میاں خان محمد اعظم پوری کے سپرد کیا انہوں نے قرآن مجید پڑھانا شروع کیا جس کی تکمیل آپ کے چچا سید اہام شاہ نے فرمائی۔ اس کے بعد میاں عبداللہ چکروی سے فارسی اور اردو کی درسی کتب پڑھیں پھر جلال پور سے پانچ کوس کے فاصلہ پر قاضی محمد کمال کی خدمت میں نین دال تشریف لے گئے اور ان سے کتب فقہ کا درس لیا، اپنے علاقے کے مشہور عالم مفتی غلام محی الدین سے استفادہ کیا اور کنز الدقائق پڑھی، اس سے زیادہ آپ نے علامہ بری علم باقاعدگی سے نہیں پڑھا لیکن بلند صلاحیتوں اور اہل علم کی مجلسوں کی وجہ سے وہ عالمانہ مقام حاصل کر لیا جس سے بہت سے عالم بھی محروم تھے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی قدس سرہ سے مرقع اور کشکول کا درس لیا۔

ابھی آپ کی عمر ۷ سال تھی کہ والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ تلماش میں سید غلام شاہ کی خدمت میں بہن پور پہنچے اور بیعت کی درخواست کی، انہوں نے سیال شریف جانے کا مشورہ دیا بلکہ خود ساتھ لے گئے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین قدس سرہ نے انہیں دیکھا تو کھڑے ہو گئے، مزاج پوچھا اور بیٹھے کا حکم دیا چنانچہ آپ ۷ رجب ۱۲۷۱ھ کو ان کے دستِ حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ بیعت کے بعد ہر ماہ دو تین مرتبہ شیخ کی

۳۰۲
 خدمت میں حاضر ہوتے اور شیخ کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ ان کے سامنے بوسنے کی
 بھی ہمت نہ ہوتی تھی۔ جب چشم مرتبہ حاضر ہوئے تو حضرت شیخ نے خرقہ خلافت اور اجازت
 بیعت سے سرفراز فرمایا۔

حضرت پیر حیدر شاہ قدس سرہ منکسر المزاج اور بلند اخلاق کے مالک تھے، آپ کو
 خود پسندی چھوڑ کر بھی نہیں گزری تھی۔ بناایت نرم دل اور مہربان شفقت و عنایت تھے۔
 غریبوں کی دلجوئی آپ کا خاص وصف تھا۔ اعمال میں بناایت محتاط اور پابند بشریت تھے۔ آپ
 حد درجہ خوبصورت تھے، دراز قامت، دککش آنکھیں، شانوں پر زلفیں، کلاہ چباز کی
 سر پہ، موسم سرا میں بانٹ کا کوٹ، گرمیوں میں مل کا کدندہ، پاؤں میں جلی جڑ کا سادہ جوتا
 پہنے ہوئے وہ حسن جسم معلوم ہوتے تھے۔

آپ کے چار صاحبزادے تھے: سید بیع الزمان شاہ ۶م، شعبان ۱۲۹۵ھ، سید
 قائم الدین شاہ ۱۲۱۳م، ۲۱ رجب ۱۳۱۶ھ، سید محمد رسول شاہ ۱۱م شیخواری میں فوت ہو گئے
 تھے، سید محمد مظفر علی شاہ ۱۱م، المتوفی ۱۹ رجب الآخر ۱۳۳۵ھ، رحمہ اللہ تھے۔

حضرت پیر سید حیدر شاہ قدس سرہ خدمت دین اور شاعت سلسلہ چشتیہ میں گرانقدر
 خدمات انجام دیں۔ بے شمار خلق خدا صحتہ ارادت میں داخل ہوئی اور راہ راست پر آئی، خاص
 طور پر بڑے بڑے جلیل القدر علماء آپ کے مرید ہوئے اور آپ کے فیض صحبت سے
 مستفیض ہوئے۔

۶ جمادی الاخریٰ ۱۲۰۰ھ جولائی (۱۳۲۶ھ/۱۹۰۹ء) کو آپ کا وصال ہوا اور جلا پتھر
 میں محاسن تراحت ابدی ہوئے، آج بھی آپ کا مزار مرجع خلایق ہے، علامہ اقبال نے تاریخ
 وصال کہی ہے۔

میر کہ برضاک مزار پیر حیدر شاہ رفت
 تربت او را امین جلد ہائے طور گفت
 بافت آگرہ دلی رسید و خاک و را بوسہ داد
 گفتش سال وفات او بگو منظور گفت

۳۰۳
 ۱۰۰ بابا ہمارے مولیٰ (مسیحی ہمدردی) ڈاکر صیب معداوں

اکبر الہ آبادی کے قطعہ تاریخ کہا سے
 معرفت کی جس کو ہو دل نصیب پھر سے کیا فکر مال و جاہ ہے
 حضرت مرحوم تھے مرد خدا ان کا جو پر و ہے حق آگاہ سے

ان کی تاریخ وصال از روئے درو

استغاث پیر حیدر شاہ ہے

۱۳۲۲ ۴ ۱۳۲۶ھ

آئندہ صفحات پر حضرت پیر سید حیدر شاہ جلا پتھر کی قدس سرہ، علامہ اقبال مرحوم اور
 اکبر الہ آبادی کی تحریرات کے عکس پیش کئے جا رہے ہیں۔

نوٹ: یہ تمام حالات ذکر صیب "حصہ اول" سے ماخوذ ہیں۔

تا بیخ قبله عالم پورج ازین عالم ذکر محمد قباله ایچ طو
ماده و صاحب حضرت جلای از برجا حقیقت سرتان پی پودی

هر که بر خاک فرار بر سر حیدر است
سزیت اورا این جلو با طور گفت

پانف از گزردن رسد و خاک اورا رس داد
گفتش سال وفات او گو مفسر گفت
۱۳۲۹ دانهد

ازسان العصر خان بهادر اکبر حسین صاحب شهنشاه الالباب

مرفت کی جکوه دولت لیب هر سه کن کمال دجاده
مفرت مروه پت رودخا آن جو پردی به منی آگاه به

آن تاریخ وصال از رویه در
انتقال بر میر شاه به
۱۳۳۲ + ۱۳۲۴

(ذکر اولاد)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یا کل الکل بیث الکل و منک الکل و الیت الکل صل علی نبیک و الاقدم
و المظهر الاثم لاسمت الا عظم ابابعد بس بر فائین که مسطور درین اوراق
بمنزله رتبه ایست که از میران خرقه پوشش سر ایا پوشش باین گدا رسیده
و بتا رجبت یا یکدیگر دوخته مر قعی برای پوششش ما سراجی از بصیرت
پیدا این مجموعه را مر قعی نام کرده و اقسام صلوة را بر او را د مقدم داشته
در بناییده را معنون بر قعه ساخته چون اختصار مطلوب به اقتضا بذكر بعضی
نموده آمد مقدمه عامل را باید که این شرایط مذکوره در ذیل در خود پیدا کند
بعد از ان عمل نماید که بی این بطالت است و امید دار نشایج جهالت
امام احمد بونی که راس و پیش عمل و عوقست این شرط ذکر فرموده اکل حلال
و صدق مقال و حضرت قلب و عجز و خضوع و بکا و اخلاص و سکوت حلال

عالیجناب غفران مآب حضرت قبله عالم پیر حیدر علی شاه صاحب کی دتی تحریر کا نمونه

حضرت علامہ مولانا غلام حیدر رحمہ اللہ تعالیٰ

مولانا غلام حیدر قدس سرہ اپنے دور کے متبحر فاضل اور یگانہ روزگار مدرس تھے، علم میراث میں تخصص کا درجہ رکھتے تھے، جامعہ مفتیہ چچہ (لاہور) میں استاذ الاساتذہ مولانا مہر محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے استفادہ کرنے والے منشی طلباء خاص طور پر سراجی پڑھنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، علم میراث میں کمال دسترس کی وجہ سے آپ سراجی بابا کے لقب سے مشہور تھے، آپ موضع پھلیاں تحصیل پلندری (آزاد کشمیر) میں پیدا ہوئے گجرات (پنجاب) اور پشاور کے فضلاء سے علمی استفادہ کرنے کے بعد لاہور آئے اور اہل سنت و جماعت کے مایہ ناز فاضل مولانا غلام قادر بھیروی قدس سرہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا اور علمی جہاں پاروں کو دامن مراد میں سمیٹا، کچھ عرصہ مدرسہ امداد الاسلام میرٹھ میں بھی پڑھتے رہے۔

تکمیل علوم کے بعد جامع مسجد خاسیاں اندرون لوہادی دروازہ لاہور (جس کے متصل ان دنوں جامعہ نظامیہ رضویہ قائم ہے) میں خطیب مقرر ہوئے، یہاں آپ نے ۲۸۰۲۷ سال قیام کیا اور خطابت کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ کی تدریس کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے، دور دراز کے طلباء نے آپ سے اکتساب فیض کیا، مولانا عتیق اللہ ابن حضرت مولانا فقیر اللہ بک بٹ شریف، حضرت مولانا محمد مظہر صاحب (کاذی قحطہ بروز شنبہ ۱۳۳۵ھ) بانی درتعلیم القرآن پلندری اور مولوی محمد یوسف (دیوبندی) بہتم مدرسہ تعلیم القرآن پلندری کے نام آپ کے تلامذہ سے معلوم ہو سکے ہیں۔

آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت مولانا فقیر اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ، بکریٹ شریف کے مرید تھے، حضرت مولانا غلام قادر بھیروی آپ پر بڑا اعتماد فرماتے تھے، جب کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی جگہ مولانا کو جمعہ پڑھانے کے لئے مقرر فرمایا کرتے۔

۱۳ محرم الحرام، ۲۰ جولائی (۱۳۷۹/۱۹۵۹ء) کو ۸۷ سال کی عمر میں حضرت مولانا

لے آپ مولانا غلام حیدر رضویہ کے نواسے ہیں۔

غلام حیدر رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، آپ کا مزار موضع راجکوت (ماہین گوندلا نوارہ و گوجرانوادر) ضلع گوجرانوادر میں ہے۔

آپ کے دو صاحبزادے اس وقت بچہ تھے، ایک مولانا رمضان علی اور دوسرے مولانا قاری محمد حسن علی، قاری صاحب اس وقت مسجد درخشاں (لاہور) میں نائب خطیب اور مدرس ہیں نیز مجلس عمل علماء اوقاف لاہور کے صدر اور دارالعلوم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے قدیم معاون اور سہی خواہ ہیں، آپ حلقہ علماء اور محکمہ اوقاف کے کارکنوں میں خاصے معروف ہیں، ان کی بے لوثی کا یہ عالم ہے کہ اپنے کاموں کو پس پشت ڈال کر دوسروں کے کام آتے ہیں، جس کسی کو ان کی کام ہو بلا حیل و حجت اس کے ساتھ چل دیتے ہیں، مولانا تعالیٰ انہیں دینی و ملی خدمات انجام دینے کی زیادہ سے زیادہ توفیق ارزانی فرمائے۔

ملہ یہ تمام سلومات انہی کی فراہم کردہ ہیں، اس کے لئے لائق ان کا شکوگزار ہے۔

عارفِ کامل حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر قسوسی قدس سرہ

مولانا غلام دستگیر ہاشمی قریشی صدیقی ابن مولانا حسن بخش صدیقی صاحب
جلیلہ بیبیاں اندرون موچی دروازہ لاہور میں پیدا ہوئے اور حضرت مولانا
غلام محی الدین قصوری دائم المحضوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر علوم و
معارف کے دریا دامن مراد میں سمیٹے۔ مولانا غلام دستگیر کو حضرت مولانا
غلام محی الدین قصوری کا شاگرد، خواہر زادہ، داماد، مرید باصفا اور خلیفہ ہونے
کا شرف حاصل تھا۔ ۱۸۹۰ء میں حج و زیارت سے مشرف ہوئے تبلیغ اسلام
اور مخالفین اسلام کی سرکوبی میں آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ جو صغیر پاک و سبب
میں کوئی مناظر آپ کا ہمسرنہ تھا۔ مناظرہ بہاولپور وہ یا دیگر مناظرہ ہے جس میں
آپ کو مولوی غلیل احمد بیٹھوری کے مقابلہ میں زبردست کامیابی ہوئی۔

یہ تاریخی مناظرہ ماہ شوال ۱۳۰۶ھ میں براہین قاطعہ (مؤلف مولوی غلیل احمد
ابیطوی) کی گستاخانہ عبارات پر ہوا تھا جس کے حکم نواب محمد صادق عباسی، والی
بہاول پور کے پیرو مشد شیخ المشائخ حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ ہماچڑال
مشریت، سچھے حکم مناظرہ نے لکھ دیا کہ دیوبندی علماء کے عقائد ان وہابی علماء
سے ملتے ہیں جو برصغیر میں غلط فہمی کا باعث بنے ہوئے ہیں اس فیصلے کے بعد
نواب صاحب مرحوم نے مولوی غلیل احمد کو ریاست سے نکل جانے کا حکم صادر
فرما دیا۔

اس مناظرہ کی روئیداد تقدیس الوکیل کے نام سے چھپ چکی ہے
جس کے آخر میں علامہ حرمین علیہ السلام کی تصدیقات ثبت ہیں۔ شیخ الدلائل حضرت
مولانا عبدالحق مساجرمکی اور حضرت حاجی امداد اللہ مساجرمکی قدس سرہا نے بھی
حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری کی تائید فرمائی۔

حضرت مولانا رحمت اللہ مساجرمکی رحمہ اللہ تعالیٰ بانی مدرسہ صولتیہ نے بھی
تقدیس الوکیل پر شاندار تقریظ لکھی اور تقریظ میں فرمایا :

”میں جناب مولوی رشید احمد کو رشید سمجھتا تھا، مگر میرے گمان
کے خلافت کچھ اور ہی نکلتے“۔ سہ

سلسلہ نقشبندیہ میں ہزار ہا افراد آپ کے دستِ اقدس پر بیعت ہوئے
آپ نے تمام عمر تبلیغ و تلقین میں صرف فرمائی، فرق باطلہ اور مذاہب فاسدہ کی تردید
میں متعدد و محققانہ کتابیں لکھیں اور شائع کر کے مفت تقسیم کیں۔ چند تصانیف کے
نام یہ ہیں :

۱۔ مخرج عقائد نواری بحواب لغزہ مطبوری، رد عیسائیت میں۔

۲۔ رجہ الشیاطین براغلطات البراہین۔

۳۔ تحقیقات دستگیر یہ فی رد مفہوات براہینہ۔

۴۔ فتح الرحمانی بدفع کید قادیانی، مرزائیت کے رد میں۔

۵۔ جواہر مضیہ، نیچر کے رد میں۔

۶۔ بدیہ الشیعتین، رد افض اور خوارج کے رد میں۔

۷۔ تقدیس الوکیل عن توہین ارشید و الخلیل۔

۸۔ عمدۃ البیان فی اعلان مناقب النعمان۔

۹۔ تحفہ دستگیر یہ بحواب اثنا عشریہ۔ ۱۲۔ نصرۃ الابرار۔

۱۰۔ عرۃ المقلدین۔ ۱۳۔ بحاث فرید کوٹ

۱۱۔ ظفر المقلدین۔ ۱۴۔ تحقیق صلوة الجعہ

۱۳۱۵ھ/ ۱۸۹۷ء میں آپ کا وصال ہوا اور قسوس کے مشہور قبرستان میں آپ کی

آخری آرام گاہ بنی گئے

سہ تقدیس الوکیل مطبوعہ نواری کراچی، ص ۴۱۵۔

سہ اتالی احمد قادری اپر زادہ، تقدیس الوکیل عن توہین ارشید و الخلیل اقدار و صفت مطبوعہ نواری کراچی لاہور

حضرت مولانا نجی بخش مولائی قدس سرہ (مصنف تفسیر نبوی) نے آپ تاریخ وصال

رقم فرمائی ہے

بعد از ثنا رب العالی، صلوات بر خیر الوری
 اسے قبلہ ام عالی جناب اسے مرشد اہل سواد
 منظور حق مقبول حق بودی تو اسے حساب و قدر
 در خلق و علم و علم و عمل اخلاص گشتی بے نظیر
 دریائے فیضان فقر جاری نمودی چار سُو
 حامی شدی دین نہیں قاصد ضلالت بالیقین
 شبلی زمان خود شدی جببید اندر وقت خود
 صلوات بر شاہ عرب از جان و دل روز و شب
 اسے صاحب لوری نظر اسے مرشد عالی قدر
 تاریخ آن پیر پدی گفستہ سروش خوشنوا
 اسے ملجا و اوائے ما بسنگر بھلوانی گدا
 بر عترت نشن اہل صفا از دل بگویم صد دعا
 داری بسا چون آفتاب حسن و عنیاء نزد خدا
 نافع خلقت بس شدی گمشکال دار ہنما
 عقل و ذکر فہم رسا میداشتی اسے پارسا
 محمود در خلق خدا ہستی تو اسے حساب صفا
 عامل بستت شاہ دین اسے معدن جود و سخا
 شام و سحر ظہر و عصر مشغول در ذکر خدا
 خواندی مدام از صدوب اسما جب عرفان خدا
 بر طالبان خود نگر از ہر والطف و عطا
 غفرلہ اسے مر لقا نغمہ سرا شد ہر کجا
 در ہر قصص ہر ماجرا آمد ذکر اسے مفتدا

مؤرخ اہل سنت مولانا پیر غلام دستگیر نامی قدس سرہ

حضرت پیر غلام دستگیر نامی بن پیر حامد شاہ (م ۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۴ء) رحمہ اللہ تعالیٰ ۲۳ جمادی
 الاخریٰ ۱۲۸۳ھ (۱۸۸۳ء) بروز شنبہ ۱۰ دن کے گیارہ بجے اپنے نانا پیر غلام محی الدین کے
 گھر رتہ پیراں (ضلع شیخوپورہ) میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش نے حسن اہل سنت مولانا غلام دستگیر
 قصویٰ (۱۳۱۵ھ) کے نام پر آپ کا نام رکھا خود فرماتے ہیں :-

نادم و گشتم غلام دستگیر
 بنام نیک مولانا قصوی
 من شدم نامی بنام دستگیر
 غلام دستگیر نام کر دند

آپ لاہور کے قدیم علمی روحانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے مورث اعلیٰ
 قطب العالم حضرت شیخ عبدالجلیل چڑھندگی (م ۹۱۰ھ) داماد سلطان بہلول لودھی لاہور کے اولین
 مبلغ اسلام سروردی بزرگ ہیں جن کی بدولت پنجاب میں سلسلہ عالیہ سہروردیہ کو بہت فروغ حاصل
 ہوا اور کئی قبائل مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ان کے علاوہ اس خاندان میں اور بھی متعدد صاحب علم و
 فضل روحانی پیشوا ہوئے ہیں۔

نومبر ۱۸۹۰ء میں مولانا نامی کو مسجد علامہ محمد علی صاحب دیوبند (لاہور) میں مولانا محمد بخش بلبل
 (م ۱۳۱۰ھ / ۱۸۹۲ء) برادر اکبر مولانا غلام دستگیر قصوی کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لئے بٹھایا
 گیا۔ نومبر ۱۸۹۱ء میں آپ نے قرآن کریم شتم کر لیا، پھر والد ماجد نے اسلامیہ سکول کی پرنسپل واقع
 حویلی کابلی مل کی دوسری جماعت میں داخل کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد پیر حامد شاہ کا تبارک و تعالیٰ ہو گیا چنانچہ
 مولانا نامی ۱۸۹۳ء کے دہائی ربیع میں قصور گورنمنٹ سکول میں پڑھنے سے رے اوہیں اکتوبر ۱۸۹۴ء
 میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا اور آپ داغِ تیری لیکر رتہ پیراں چلے گئے۔

۱۸۹۵ء میں آپ اسلامیہ سکول شہزادہ لکھنؤ لاہور کی پانچویں جماعت میں داخل ہوئے اور
 ۱۹۰۳ء میں فیسٹ ڈویژن میں انٹرمس پاس کیا، سکول کی تعلیم کے دوران لاہور کے ممتاز فاضل
 مشاہیر و فیسر شجاع الدین صدر شعبہ تاریخ دیال سنگھ کالج، لاہور (م ۱۹۲۵ء) کے نانا محمد حسین

اور مولانا علامہ اصغر علی رومی سے انساب فیض کیا، ان کے علاوہ دیگر متعدد اہل علم کے فیض صحبت سے مستفید ہوئے جن کی صحبت نے آپ کے ذوق علمی کو نکھا و عطا کیا۔

مولانا نامی نے کسی دینی درس گاہ میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی اس کے باوجود اردو، فارسی اور انگریزی میں مہارت کے ساتھ ساتھ عربی سے بھی اچھی طرح آشنا تھے چونکہ قدرت نے آپ کو ابتداء سے ہی ذہانت و فطانت کے جوہر اعلیٰ سے نوازا تھا اس لئے بہت جلد بہترین مضمون نگار مصنف، شاعر، تاریخ گو، ماہر قانون وراثت اور ماہر علم الانساب کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔

تحصیل علم کے بعد چند ماہ محکمہ ریلوے میں ملازمت کی پھر محکمہ ڈاک میں بھرتی ہو کر کئی کرام کی فرینک حاصل کی، اسی اثنا میں ڈپٹی کمشنر لاہور نے انطرس پاس مسلمانوں کو ضلع کچہری کی ملازمت کے لئے طلب کیا چنانچہ آپ ضلع کچہری میں چھ ماہ تک بلا تنخواہ کام کرتے رہے بالآخر مئی ۱۹۰۵ء میں مستقل ملازمت مل گئی لیکن یہاں کی رشوت آلود فضا آپ کو پسند نہ آئی اور آپ ۱۹۰۶ء میں محکمہ تعلیم میں منتقل ہو گئے اور آخر تک اسی محکمہ میں مختلف کاموں پر مامور رہے بالآخر مستقل فرینک کا لچ لاہور میں تب دلہ ہو گیا اور یہاں خالان رہ کر ۱۹۳۸ء میں ریٹائر ہو گئے۔

مولانا نامی کو بچپن ہی سے اپنے خاندانی بزرگوں کے حالات، علمی کمالات اور نسب معلوم کرنے کا شوق تھا۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنے بزرگوں کے نادر مخطوطات اور دیگر کتب تاریخ کاڑھی دلپسی سے مطالعہ کیا حتیٰ کہ تاریخی شخصیات اور کتب مینی کا ذوق لازم فرینک بن گیا، بار بار کاؤٹیں پیدا ہوئیں مگر ہر بار آپ کے پھاڑ ایسے عزم و استقلال سے ٹکرا کر پاپا ہو گئیں اور آپ کے تصنیف و تالیف اور مطالعہ کے ذوق میں بدستور اضافہ ہی ہوتا رہا۔ ملازمت کے زمانہ میں فارغ وقت تالیف اور مضامین نویسی میں صرف کرتے اور ریٹائر ہونے کے بعد تو گویا آپ اس کام کے لئے وقف ہو گئے، آپ نے ایک سو سے زائد کتابیں اور رسائل لکھے جنہیں قدر و وقت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ ان میں سے بعض تصانیف تو لازوال اہمیت کی حامل ہیں۔ مختلف اخبارات و رسائل میں شائع ہونے والے مضامین کی تعداد ہزاروں تک

پہنچتی ہے چند تصانیف کے نام یہ ہیں:

- ۱۔ تاریخ جلیلیہ : خاندانی بزرگوں کے حالات اور دیگر اہم تاریخی معلومات۔
- ۲۔ بزرگان لاہور : لاہور کے طوطی سوز بزرگان دین کے حالات۔
- ۳۔ نسب نامہ رسول نامہ و صحابہ کرام۔
- ۴۔ مناقب خلفائے راشدین (منظوم)۔
- ۵۔ اسلامی قانون وراثت۔
- ۶۔ تاریخ نجدیہ : یعنی حقیقت و باہیہ۔

۷۔ صدیق اور فاروق مستشرقین کی نظر میں، وغیرہ وغیرہ

ان مستقل تصانیف کے علاوہ آپ نے کئی کتابوں کو جامعہ اردو بھی پیش کیا۔

جناب نامی کو شعر گوئی کا مکہ درتے میں ملا تھا۔ پہلے پہل از خود طبع آزمائی کرتے رہے۔ ۱۹۰۷ء میں علامہ اصغر علی رومی رحمانہ تعالیٰ کو اپنا کلام سناتے رہے اور بہت جلد نچتہ کلام پر دسترس حاصل کر لی۔ ابتداً فریال نگاری کی جانب میلان تھا پھر نعت، منقبت اور تاریخ گوئی سے لگاؤ پیدا ہو گیا، تاریخ گوئی میں آپ کو کمال حاصل تھا، بلاشبہ آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں منظوم تاریخیں کہی ہیں۔

مولانا نامی نے اپنے بعض مفصل دستوں کے تعاون سے ۱۵-۱۹۱۴ء میں اصلاح رسوم اور اصلاح اخلاق کی غرض سے دائرۃ الاصلاح کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کے تحت شریعہ شائع ہو کر مفت تقسیم ہونا رہا، پھر اس ادارے کی طرف سے فضائل صحابہ کرام اور اتحاد بین المسلمین کے موضوع پر رسائل طبع ہونے لگے، اس ادارے کی طرف سے تقریباً نوے کتب اور رسائل طبع ہو کر مفت تقسیم کئے جا چکے ہیں جن میں سے دس بارہ کے علاوہ باقی سب مولانا نامی کی کاوش قائم کا نتیجہ ہیں، اس کے علاوہ حضرت نامی کے ماموں اور خسر جناب پیر محمد اشرف عالم شاہ (م ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء) متولی خانقاہ حضرت عبد الملک چوہدر شاہ ہندگی نے اپنی وفات سے قبل وصیت لکھ دی تھی کہ میرے بعد اوقاف کے متولی نامی صاحب ہوں گے چنانچہ آپ نے اس ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا اور درصرت بزرگوں کے مزارات

کی دیکھ بھال کی بکدان کے علمی تبرکات کو شاخ کر کے مہینہ کے لئے محفوظ کر دیا، تعرض جناب نامی نے ایک پیرناہ اور مزارات کا متولی ہونے کی حیثیت سے وہ کاروائی کے نمایاں انجام دئے کہ ان کا طرز عمل موجودہ دور کے بعض مشائخ کے لئے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

۷ رجب المرجب ۱۲۹۱ دسمبر (۱۳۸۱/۱۹۶۱ء) کو ایک ماہ صاحب فرماش رہنے کے بعد اسلام کے فتنے غلام اور مسلمانوں کے علم جناب پر غلام دستگیر نامی کا انتقال محلہ چیلوہ پورہ لاہور میں ہوا اور آپ کی میت رتہ پیراں (ضلع شیخوپورہ) لے جا کر حضرت قلندر شاہ کے پائوں میں دفن کی گئی۔

قطعہ تاریخ وفات از جناب حضرت مولانا شریف احمد شرافت نوشاہی مدظلہ العالی سے
غلام دستگیراں پیر نامی بہ جنت اعلیٰ کر دمسکن
زرتحلیش شرافت گفت تاریخ "بفر دوس بریں شد شاد محسن"
جناب حکیم محمد موسی امرتسری مدظلہ العالی نے ان الفاظ سے تاریخ وصال کا استخراج کیا۔
"بجھا آج ہائے چہ راغ علوم" سے

سلفہ محمد موسی امرتسری، حکیم ابوہنست، مقدم بزرگان دہلی

علامۃ العصر قوۃ العارفين حضرت خواجہ غلام رسول توگیر دی قدس سرہ

مام الفضلہ، والعرفا حضرت خواجہ غلام رسول توگیر دی ابن حضرت خواجہ سلطان محمود قدس سرہما ۱۲۳۰/۱۸۱۵ء میں بونگہ محمد نگاہ (مضافات بہاولنگر) میں پیدا ہوئے قرآن مجید اور فارسی کی ابتدائی کتابیں جدا جدا حضرت مولانا حافظ محمد عظمت اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ (خلیفہ حضرت شیخ محمد فاضل نیکو کارہ خلیفہ حضرت خواجہ قندلہ عالم نور محمد مہاروی قدس سرہما سے پڑھیں، پھر جدا جدا کے ایما پر ۱۲۳۵ء میں بہار شریف گئے اور فارسی صرف کی بعض کتابیں مولانا نور الدین اور مولانا محمد عمر تونسوی سے پڑھیں، بعد ازاں بہاولپور تشریف لے گئے اور مولانا محمد کمال بہاولپوری سے علوم و فنون کی تحصیل کی، کچھ کتابیں مولانا غلام رسول بہاولپوری سے پڑھیں، انہاں بعد موضع چیلوہ میں (مضافات بہاولپور) میں جا کر مولانا حافظ محمد فضل سے علمی استفادہ کیا۔ اس کے بعد موضع مہنتہ جھینڈو (مضافات بہاولنگر) میں گئے اور مولانا جان محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے اکتساب فیض کیا، پھر لاہور گئے اور حضرت مولانا خلیفہ حمید الدین لاہوری سے کسب کمال کر کے آٹھ میں دہلی جا کر مولانا عبد الرحمن پنجابی مدرس مدرسہ مولوی محمد حیات (دہلی) کی خدمت میں حاضر ہو کر تکمیل علوم کی اور سند فراغت حاصل کی۔

وطن واپس آکر جدا جدا اور حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی قدس سرہما سے روحانی فیض حاصل کیا اور ظاہری و باطنی علوم و معارف میں کمال کو پہنچے، آپ نے تمام علم دینیہ کی قدیس اور رشد و ہدایت کی اشاعت میں صرف کی، بیٹیا و خلق خدا ظاہری علوم اور باطنی فیوض سے مستفید ہوئی۔ آپ کے چند مشاہیر قلمندہ کے نام یہ ہیں :-

- ۱- مولانا محمد سرفراز، جلال آباد مضافات فیروز پور۔
- ۲- مولانا نبی بخش، موضع ٹکڑہ مضافات حصار۔
- ۳- مولانا کریم الدین، موضع بھو متقل توگیر شریف۔ (وغیر ہم)

آپ کے بعض خلفاء کے اسماریہ ہیں۔

- ۱۔ مولانا الی بخش، موضع جی بل بیگ مضافات ساہیوال۔
- ۲۔ مرشد کبیر حضرت مولانا عبدالعلیم، حویلی بکھا۔
- ۳۔ حضرت خواجہ نور محمد، موضع کئی مانیچے۔
- ۴۔ حضرت مولانا عبداللہ الحق، موضع ستیکا مضافات بہاولنگر۔
- ۵۔ مولانا اللہ جویا، موضع ہندوواں۔
- ۶۔ حضرت مولانا نور محمد نوگیروی۔
- ۷۔ مولانا غلام علی، چک تحصیلدار مضافات بہاولنگر۔

۸۔ مولانا محمد براہیم، مؤلف گل فردوسی، موضع کندو وال مضافات فیروز پور (دو غیر ہم)۔
 حضرت خواجہ غلام رسول نوگیروی قدس سرہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے کثیر الاحسان اور عظیم فیض بزرگ تھے، آج بھی ان کا مزار گوہر بار فیض وجود کا سرخسہ ہے۔
 ۱۲۸۴ھ/۱۸۶۷ء کو آپ کا وصال ہوا اور نوگیروی شریف (تحصیل ضلع بہاولنگر) میں
 جہرا احمد کے پہلو میں مجواستراحت ابدی ہوئے۔ آپ کے استاد عالیہ پر کمال العلوم کے نام سے
 ایک دینی درس گاہ قائم ہے اور علم و معرفت کے شہدائی مستفید ہو رہے ہیں سہ

سلسلہ غلام برقی، مولانا : ایوانیت المرہ : ۱ ص ۸۹-۹۰

مؤرخ و جلیل حضرت مولانا مفتی غلام سرور لاہوری قدس سرہ العزیز

حضرت علامہ مولانا حکیم مفتی غلام سرور تشریحی اسدی ہاشمی ابن حضرت مولانا مفتی
 غلام محمد (قدس سرہما) محلہ کوٹلی مفتیال لاہوری میں ۱۲۴۳ھ/۱۸۳۷ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی
 تعلیم والد ماجد سے حاصل کی، علوم عربیہ انہیں سے پڑھا اور سلسلہ عالیہ سرورویہ میں اس سے
 بیعت ہوئے پھر حضرت علامہ مولانا غلام اللہ قصوری ثم لاہوری کی خدمت میں حاضر ہو کر تلامذہ و
 علوم، تاریخ اور لغت کی تحصیل کی۔

مفتی صاحب نے شہارخوبوں کے مالک تھے، وہ بیک وقت جدید عالم، بلند پایہ
 شاعر و ادیب، عظیم خلاق، اکمال ناسخ گو، مستند مؤرخ، مشہور زمانہ سوانح نگار اور سب
 سے بڑھ کر سرور و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیائے عظام کے صحبت
 صادق تھے۔

زندگی کا کچھ ابتدائی حصہ ملازمت میں گزارا لیکن جلد ہی ملازمت سے کنارہ کش
 ہوئے اور تمام عمر علم و ادب کی خدمت میں صرف کر دی اور اس فن میں وہ ناموری حاصل
 کی کہ علم و ادب کی تاریخ میں آپ کا نام قیامت تک زندہ و پایندہ رہے گا۔

آپ کے خاندان کے تمام بزرگ علمی، تحقیقی، مفتی وقت اور جامع شریعت و طریقت
 تھے، مذہبی اور اخلاقی اقدار آپ کو ورثے میں ملی تھیں، آپ شگفتہ مزاج، لہنسا اور عبادت
 گزار صوفی تھے، شریعت و طریقت، تفسیر و حدیث، تاریخ و ادب پر گہری نظر رکھتے تھے
 جس موضوع پر گفتگو کرتے اس سے متعلق تمام تفصیلات کو بے تکلفی سے بیان کر دیتے، بات
 بات چیرا سچ کہہ دینا ان کے لئے معمولی کام تھا، آپ کو اہل علم و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے
 تھے، آپ کی طبیعت میں بے حد استغناء تھا، حکام و وقت کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے تھے۔
 غیر اور خود دار تھے، حق بات کہنے سے کبھی ہیلو تھی نہ کرتے تھے۔ ۱۸۸۴ء میں سرسید نے
 علی گڑھ کالج کی امداد کے لئے پنجاب کا دورہ کیا اور اپنے دیرینہ دوست خان بہادر ڈپٹی برکت علی

کے پاس قیام کیا۔ خان بہادر نے بیرون موچی دروازہ اپنی کوچی پر لاہور کے چیدہ چیدہ افراد کو مدعو کیا جن میں مفتی صاحب بھی تھے۔ خان بہادر نے مسرید سے آپ کا تعارف کرایا۔ مسرید آپ سے بہت متاثر ہوئے اور اپنے مشن کا کوئی کام آپ کے سپرد کرنا چاہا تو مفتی صاحب نے فرمایا :-

”سید صاحب! میں اس کام کے لئے موزوں نہیں ہوں، میں مشغول تصنیف و تالیف ہے، آپ نے جن لوگوں کی جماعت اپنے گرد اکٹھی کر لی ہے یہ اس مقصد کے لئے بہت مفید ہیں، اور پھر جماعتی اتحاد کے لئے عقائد کے اتحاد کی بھی ضرورت ہے اور یہ چیزیں میں یہاں نہیں دیکھتا“

یہ جواب سن کر مسرید خاموش ہو گئے۔

مفتی صاحب کا دنیا سے تاریخ پر عظیم احسان ہے کہ انہوں نے اپنی تالیفات میں پنجاب کے عظیم القاد علماء و مشائخ کے حالات کو بڑی حد تک تفصیل سے قلمبند کر دیا ہے۔ درنہ جس طرح تذکرہ نگاروں نے اس مردم خیر خطہ کو نظر انداز کیا ہے باعث تعجب ہی نہیں قابل افسوس بھی ہے۔

مفتی صاحب نے شعروادب، سوانح نگاری اور لغت میں اکیس یا دو گار زمانہ تصانیف لکھی ہیں جن کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ بعض کتابوں کے کسی کسی ایڈیشن شائع ہونے کے باوجود وہ کتابیں نایاب ہو گئیں اور شائقین کی طلب پرستور جاری رہی۔

آپ کی چند کتابوں کے ہم درج ذیل میں جنہیں آج بھی درجہ استناد حاصل ہے :-

- ۱۔ گلستا کرامات، ۱۲۷۷ھ میں لکھی گئی، اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مناقب اور کرامات کا بیان ہے، اشعشع مرصاد شیبانی کی مناقب خوشیہ کا ترجمہ ہے،
- ۲۔ گنجینہ سروری العسوف، بہ اسم تاریخی تاریخ ۱۰۱۳ھ، اس میں سرور و وصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر خلفائے راشدین، خلفائے بنو امیہ خلفائے

بنو عباس، سلاطین اسلام اور مشاہیر صوفیاء، علماء اور شعرا کی ولادت و وفات کی تاریخیں درج ہیں، اس کتاب میں کم و بیش دس ہزار مادہ ہائے تاریخ ہیں، اس سے فن تاریخ گوئی میں مفتی صاحب کے معراج کمال کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، سوحاشی میں مختصر تعارفی حالات شامل کرنے سے کتاب کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔

۳۔ تاریخ مخزن پنجاب پنجاب کی مفصل تاریخ اور جغرافیہ کے علاوہ کشمیر، لداخ اور کشمیر کی تاریخ پر مشتمل ہے۔

۴۔ حقیقۃ الاولیاء اردو نثر میں پنجاب کے اولیاء کرام کے ذکر پر مشتمل ہے۔

۵۔ خزینۃ الاصفیاء (۱۳۱۲ھ) اس میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لیکر مصنف کے زمانہ تک کے گیارہ سو شعرا، علماء اور شعرا کے تحقیقی حالات درج کئے ہیں، شخصیت کی تاریخ ولادت اور وفات نظم میں لکھی ہے، ممکنہ معارف گنج بخش روڈ لاہور نے اس کا اردو ترجمہ پانچ جلدوں میں مرتب کروایا ہے اور پہلی جلد نہایت آب و تاب سے شائع کر دی ہے۔

۶۔ جامع اللغات یہ آپ کی آخری اور نہایت قابل قدر تصنیف ہے اس میں عربی، فارسی، ترکی اور اردو الفاظ کے معانی اردو میں بیان کئے ہیں، بطور سند سائزہ کا کلام پیش کیا ہے اور جہاں کسی استاذ کا شعر نہیں مل سکا وہاں پر محل اپنا شعر پیش کیا ہے۔ ان کے علاوہ لغت سروری، اخلاق سروری، دیوان حمد ازیدی، کلیات لغت سروری، دیوان سروری گلشن شہری، مخزن حکمت، تحفہ سروری، انشائے یادگار اصغری وغیرہ پلندہ پایہ تصانیف آپ کے علمی و ادبی ذوق کی آئینہ دار ہیں۔

آپ نے چار فرزند مفتی غلام صید، مفتی غلام صغدر، مفتی غلام اکبر، مفتی محمد انور اور ایک صاحبزادی، اقبال بیگم یادگار چھوڑی۔

حضرت مولانا مفتی غلام سرور قدس سرہ کو حج بیت اللہ اور دربار رسالت میں حاضر کر کے کلبے انتہا شتیاق تھا چنانچہ جون ۱۸۹۰ء میں حج مبارک کی سعادت سے مشرف ہوئے

حج کے بعد ۲۰ ذوالحجہ کو مدینہ منورہ روانہ ہوئے، تیسری منزل پر پہنچے تھے کہ مسافروں میں چانک
 وبائے مبینہ پھوٹ پڑی، پانچویں منزل پر آپ بھی اس مرض میں مبتلا ہو گئے اور ساتویں منزل کے
 قریب پہنچ کر ۲۴ ذوالحجہ ۱۳۰۶ (اگست ۱۳۰۶ء/ ۱۸۹۰ء) بروز جمعرات سفر آخرت اختیار کیا۔
 نماز جنازہ حضرت مولانا غلام دستگیر قصوی نے پڑھائی اور آپ کو بیربال حسانی مصنافات
 میدان بدر میں سپرد خاک کیا گیا، روضہ اقدس کی ماضی کے متعلق آپ نے ایک قطعہ تاریخ
 لکھا جسے آپ دربار رسالت میں پڑھنا چاہتے تھے وہی قطعہ آپ کی تاریخ وفات بن گیا۔
 ابھی سردیوں کے ہی سرد عالم کی پالیسی (۱۳۰۶ء)

آپ کے وصال پر متعدد شعرا نے مرثیے لکھے، تاریخیں کہیں اور اپنے رنج و الم لکھا
 کیا، مولانا پیر غلام دستگیر نامی نے تاریخ وفات لکھی ہے۔
 گئے راو مدینہ میں گزر آہ جو تھے اک شہرہ آفاق سردور
 ہوا القاری نے تاریخ نامی قلم لے کر لکھو اشتیاق سردور

لے مولانا ہاشمی ہشتی : مقدمہ خزینۃ الصغیر (مطبوعہ مکتبہ المدینہ، ۱۳۹۲ھ) ص ۹-۱۰

بحر معرفت حضرت خواجہ غلام فرید فاروقی حقی قدس سرہ (چاچا چاچا شریف)

قدوة العاقین حضرت خواجہ غلام فرید ابن حضرت خواجہ غدا بخش (۱۲۴۱ ذوالحجہ
 ۱۱۲۹ھ) ابن حضرت خواجہ احمد علی (۹ شعبان ۱۰۲۳ھ) ابن حضرت قاضی محمد عاقل
 (۸ ربیع ۱۱۲۹ھ) خلیفہ حضرت تابد عالم خواجہ نور محمد ساروی قدس سرہ ۲۶ ذیقعدہ
 (۱۲۶۱ھ/ ۱۸۴۵ء) کو چاچا چاچا شریف (تخصیل خانپور) میں پیدا ہوئے، لے آپ کا سلسلہ
 نسب خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے
 اہلاد میں سے پہلے پہل مالک بن یحییٰ سندھ میں وارد ہوئے، بعد ازاں آپ کے اجداد
 نے کوٹ مظفر کو شرف سکونت بخشا لیکن آپ کے والد ماجد سکھوں کے مظالم سے تنگ
 آ کر نواب صادق محمد خان اول کی درخواست پر چاچا چاچا شریف میں قیام پذیر ہوئے تھے
 یہیں حضرت خواجہ صاحب قدس سرہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

آٹھ سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اسی دوران آپ کے والد ماجد کا وصال
 ہو گیا۔ ظاہری و باطنی علوم و معارف اپنے بڑے بھائی حضرت خواجہ فخر جہاں غلام
 فخر الدین رحمان اللہ تعالیٰ (مجموعہ جہادی الاولیٰ ۱۲۸۸ھ) سے حاصل کئے اور مرتبہ کمال کو
 پہنچے۔ حضرت خواجہ فخر جہاں قدس سرہ کے وصال کے بعد آپ سجادہ نشین ہوئے۔ لے
 حضرت خواجہ صاحب رحمان اللہ تعالیٰ نے ملائگی زبان کے ملک الشعراء تھے۔ آپ
 کے وجد آفریں کلام میں بلا کا سوز ہے۔ آپ کی کافیاں آج بھی اثر آفرینی میں جواب نہیں

لے احمد غزالی، نیرۃ بہادر شاہ غفر، مناقب زیدی (مطبع احمدی، ۱۳۱۴ھ) ص ۹۶

نوٹ: ۱۔ جناب مسعود حسن شاہ نے اپنی تالیف خواجہ غلام فرید میں بتایا ہے کہ اس مدینہ کوڑھی
 ہے کہ آپ کی وفات ذوالحجہ ۱۳۰۶ء کے آٹھ عشرہ کے عشرہ ۲۳ ذوالحجہ آکر ہوئی۔

لے مسعود حسن شاہ، خواجہ غلام فرید، اردو اکادمی، بہاولپور، ۱۹۶۴ء، ص ۲۰۶-۲۰۷

رکھتیں، عوام و خواص کے لئے کیفیت و سرور کا خمیسنہ اور عشق و عرفان کا سرچشمہ ہیں اس لئے علامہ اقبال نے کہا تھا۔

”جس قوم میں خواجہ فرید اور اس کی شاعری موجود ہے، اس قوم میں عشق و محبت کا موجود نہ ہونا تعجب انگیز ہے“۔

چونکہ آپ مسئلہ وحدۃ الوجود کے بہت بڑے حامی تھے اس لئے آپ کے کلام میں اس مسئلہ کی نمایاں ترجمانی پائی جاتی ہے۔ آپ نے اردو، فارسی اور مقامی زبان میں بھی اظہارِ خیال کیلئے، آپ کے مطلوبہ دیوان کے مطالعہ سے قدرتِ بیان، جودتِ طبع اور بلندیِ تخیل کا پتہ چلتا ہے۔

آپ شریعتِ مطہرہ اور سنتِ مبارکہ پر سختی سے کاربند تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے، رسومِ بد کو ختم کرنے کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے۔ اپنے زمانہ کی عورتوں اور مردوں کے نازیبا افعال پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے چلے فرماتے ہیں۔

”عورتیں غیر مردوں کے سامنے اور بھنی گندھے پر ڈال کر جل رہی ہوتی ہیں اور اسے باعثِ فخر سمجھتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر بہت سی بُری رسمیں پیدا ہو گئی ہیں مثلاً مرد اور عورتیں حلقہ باندھ کر فحش کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اور حلقہ کے درمیان نقارہ بجاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کئی ممنوع اور منسلک امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ناہنجار کافروں کے کاموں کو مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے اگر انہیں منع کیا جائے تو کہتے ہیں جس کام پر ہمارے باپ دادا تھے ہمیں وہی کافی ہے“۔

علامہ فیض احمد فیض، مولانا، انکار السعدی و دیگر خواجہ غلام فرید، مکتبہ اہلسیر، بہاولپور، ۱۳۸۱ھ، ص ۵۴

جو دو سماج کی کوئی انتہا نہ تھی، دور و نزدیک کے کثیر التعداد فرما رہے اور مساکین کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے، بہت سے یتیم اور بیوہ عورتیں آپ کے زیر سایہ و شمالی سے وقت گزارتے، کبھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتے۔ آپ نے سجادہٴ فقر پر فائز ہونے کے باوجود علومِ باطنی کے علاوہ ظاہری علوم کا درس بھی جاری رکھا، خاص طور پر حدیث شریف اور تصوف کی کتب کا درس ہمیشہ جاری رہتا۔ بڑے بڑے علماء حاضر خدمت رہتے لیکن جب آپ کسی مسئلہ پر اظہارِ خیال فرماتے اور تائید میں عقلی و نقلی دلائل کے انبار لگا دیتے تو انہیں اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرنا پڑتا۔

سوال ۱۳۰۶ء میں جب مولانا غلام دستگیر قصوری نے براہینِ قاطعہ کی بعض عبارات پر جو خلافِ مسلک اہل سنت تھیں، گرفت کی اور مولوی قلیل احمد انیسٹروی (مدرس اول جامعہ عباسیہ بہاولپور) سے ان عبارات پر مناظرہ کیا تو اس مجلس کے مکالم نواب بہاول پور نواب محمد صادق عباسی کے پیرو مشہور حضرت خواجہ صاحب ہی تھے آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ تنازعہ فیہا عبارات و ہا بیت کی ترجمانی کرتی ہیں اور مسلک اہل سنت کے خلاف ہیں۔

آپ نے چاچڑاں شریف میں ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام ہمامہ فریدیہ رکھا اور اس میں اس دور کے چوٹی کے فضلاء کو تدریس پر مقرر کیا، اس مدرسہ سے پیشاور فضلاء پیدا ہوئے۔

حضرت خواجہ صاحب ندس سرہ کے مریدین و معتقدین کا حلقہ بہت وسیع تھا عوام و خواص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مستفیض ہوتے۔ بڑے بڑے نواب اور امرا آپ کی نسبت ارادت اور خدمت کو اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتے۔ آپ کے درس توحید و ہدایت سے ہزاروں بگڑے لاکھوں افراد مستفید ہوئے اور متعدد حضرات منازلِ سلوک طے کر کے صاحب

کمال ہوئے۔ مخالفت معطاکرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے، فرماتے تھے، جب تک کل منازل طے نہ ہو جائیں شیخ کو لازم ہے کہ مرید کو خرقہ مخالفت نہ دے۔ آپ کے چند خلفاء کے اسرار یہ ہیں۔

۱۔ حضرت خواجہ محمد بخش المعروف بہ نازک کریم رحمہ اللہ تعالیٰ (فرزند ابراہیم)

۲۔ مخدوم سید ولایت شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ (اوپر شریف)

۳۔ حضرت خواجہ میاں فضل حق ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ

۴۔ میاں بلند و خان بیکانیری

۵۔ مولانا احمد بخش ساکن چیرہ عباسیان (بہاولپور) وغیرم

آپ کی بلند پایہ اور مقبول عام تصانیف یہ ہیں۔

۱۔ فوائد فریدیہ، مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر بہترین کتاب

۲۔ دیوان فریدیہ (اردو)

۳۔ " (مثنوی)

نیز آپ کے ملفوظات مرتبہ مولانا رکن الدین، اشادات فریدی، کے نام سے چار جلدوں میں طبع ہو چکے ہیں۔

۴۔ ربیع الاول ۱۳۱۹ھ/۱۹۰۱ء کو آپ کا وصال ہوا۔ مزار پر انوار کوٹ مٹھن شریف

(بہاولپور ڈویژن) میں مرجع خلائق ہے۔ قلعہ تاریخ وصال یہ ہے:

"خرامیدہ بہ قصر خلد امروز" (۱۳۱۹ھ)

۱۔ صفحہ ۶۸

۲۔ صفحہ ۶۵-۶۴

۳۔ صفحہ ۷۱



عارف باللہ حضرت مولانا غلام قادر بھروی قدس سرہ

استاذ الاساتذہ، مقتدائے اہل سنت حضرت مولانا عبدالقادر المعروف بہ غلام قادر ہاشمی ابن مولانا غلام حیدر رحمہما اللہ تعالیٰ علیہما ۱۲۶۵ھ/۱۸۴۹ء میں بھیرہ، ضلع سرگودھا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مولانا غلام محی الدین بھگوی (جو ان دنوں سوجیکیاں، اندرون بھائی دروازہ لاہور میں درس حدیث پاک دیا کرتے تھے) اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا احمد الدین بھگوی سے حاصل کی، مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے حضرت مورنا مفتی صدر الدین، آزرہ صدر الصدور دہلی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تکمیل علوم کے بعد لاہور تشریف لائے اور اندرون بھائی دروازہ، اونچی مسجد میں خطیب مقرر ہوئے، ان کی عالمانہ تقریر کی کوشش سے دور دور کے لوگ حاضر ہونے لگے۔ بیگم شاہی مسجد کی متولیدہ مائی جیواں آپ کے ارشادات سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنی مسجد کا خطیب مقرر کر دیا، بعد ازاں مسجد کی تولیت بھی آپ ہی کے سپرد کر دی گئی۔

سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی قدس سرہ سے بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے بہرہ ور ہوئے، آپ کے اوراد و اشغال میں حضور سیدنا عزت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی نسبت کی بنا پر قادریت کا غلبہ تھا۔ مشہور تاریخ گو اور تذکرہ نویس بزرگ مولانا غلام دستگیر نامی لکھتے ہیں :-
 ”آپ کو لاہور کا قطب سمجھا جاتا تھا“

۱۸۷۹ء میں اورینٹل کالج، لاہور میں عربی کے نائب استاد مقرر ہوئے اور دو سال تک طلباء کو علم و فضل سے فیضیاب کرتے رہے۔ انہی دنوں انگریزوں کو ایک فتوے سے

- ۱۔ مولانا غلام حیدر بھگوی، لاہور، ص ۲۳۲
- ۲۔ غلام دستگیر نامی، مولانا، بنگلہ دہلی، ص ۱۸۱
- ۳۔ غلام سرور مولانا، ابوالقیات العربیہ، ص ۱۳۸

کی ضرورت پیش آئی، متدین علماء نے صاف انکار کر دیا، کالج سے متعلق علماء سے رجوع کیا گیا تاکہ وہ وظیفہ خوار ہونے کی بنا پر انگریز کے منشا کے مطابق فتوے صادر کر دیں، مولانا غلام قادر بھروی کے سامنے دستخط کرنے کے لئے فتوے پیش کیا گیا تو انہوں نے استعفاء پیش کر دیا اور فرمایا :

”میں ملازمت سے دستبردار ہو سکتا ہوں لیکن غلط فتوے کی تائید نہیں کر سکتا“

چنانچہ آپ نے جامعہ نعمانیہ، لاہور میں درس و تدریس کا کام شروع کر دیا اور تمام تر توجہ قرآن و حدیث کی تعلیم پر صرف کر دی گئی۔

لاہور کے سادہ لوح مسلمانوں کو ورغلائے کے لئے عیاشیوں اور مریاٹوں کے علاوہ دلہندی، وہابی، نیچری اور شیعہ علماء نے سازشوں کے جال بچھانے شروع کئے تو مولانا غلام قادر بھروی قدس سرہ تحریر و تقریر اور وعظ و مناظرہ کے ذریعہ سب کے دانت کھٹے کر دئے، علمی دہد بسا اور طبیعت کے جلال کے سبب کسی کو سامنے آنے کی جرأت کم ہی ہوتی تھی، آپ نے مسجد میں مفسدین کا داخلہ بند کر رکھا تھا اور مسجد کی پیشانی پر ایک پتھر نصب کر دیا تھا جس پر یہ عبارت درج تھی :

”باتفاق الجمن حنفیہ و حکم شرعیہ شریعت قرار پایا کہ کوئی وہابی، رافضی، نیچری، مرزائی مسجد بنا میں نہ آئے اور غلام مذہب حنفی کوئی بات نہ کرے“

فقیر غلام قادر مفتی عنہ، متولی بیگم شاہی مسجد آج کل کے بعض ”دانثور“ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سنی وہابی اختلاف محض فروعی حیثیت رکھتا ہے لہذا آپس میں رواداری کا ثبوت دینا چاہئے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ اہل سنت کو کافر و مشرک کہتے ہوئے نہیں ٹھکتے، بارگاہ رسالت کے آداب کو پس پشت ڈال کر گستاخانہ روش اختیار کرتے ہیں وہ کس رواداری کے مستحق ہو سکتے ہیں؟

۱۔ اقبال احمد قادری، میرزا ادوہ، تذکرہ علمائے اہل سنت و جماعت، لاہور، ص ۲۲۸

مولانا غلام قادر بھیروی قدس سرہ کی مسجد میں کوئی بزم مذہب بغرض فساد داخل ہو جانا تو اسے دھکے دے کر باہر نکلوا دیتے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر علماء اہل سنت اس تعلق کا مظاہرہ نہ کرتے تو آج دین کا علیہ بگڑ چکا ہونا پنجاب کے علماء میں سب سے پہلے مرزا سے کاویائی کے خلاف آپ ہی نے فتوے دیا اور اس وقت مرزا کی تردید کی جب کہ اس نے ابھی تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔

پنجاب کے علماء کی غالب اکثریت آپ کے رشتہ تلمذ میں منسلک تھی چند قلمدانہ کے نام یہ ہیں :-

- ۱- امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری۔
 - ۲- مولانا محمد عالم آسی امرتسری (مصنف الکاوی علی الغاویہ)
 - ۳- مولانا سید بخش علوانی (مصنف تفسیر نبوی وغیرہ)
 - ۴- مولانا غلام احمد حافظ آبادی (سابق صدر مدرس جامعہ نعمانیہ، لاہور)
 - ۵- مولانا غلام حبیب در قریشی پوٹھوہری۔
 - ۶- قاضی ظفر الدین۔
 - ۷- صوفی غلام قادر چشتی سیالوی۔
 - ۸- حضرت مولانا محمد ضیاء الدین مدظلہ العالی مقیم مدینہ منورہ، خلیفہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ۔
- مولوی حکیم عبدالحی بکھنوی لکھتے ہیں :
- "لم یکن لہ نظیر نے کثرت الدرس والافادۃ" لکھ
- "درس وافادہ کی کثرت میں کوئی ان کا مقابل نہ تھا"

لکھ اقبال احمد قادری پیر زادہ : مذکورہ تصانیف سنت و جماعت، لاہور، ۱ ص ۲۲۹

لکھ عبدالحی بکھنوی، حکیم مدرس : لوہڑا خواطر، ج ۸، ص ۳۲۹

حضرت مولانا غلام قادر بھیروی قدس سرہ نے درس و تدریس اور رشد و ہدایت کی بے پایاں مصروفیات کے باوجود تصانیف کا گنا نقد و ذخیرہ یادگار چھوڑا، تصانیف کے نام یہ ہیں :-

- ۱- اسلام کی گیارہ کتابیں (دینی تعلیم کا بہترین نصاب)
- ۲- الشوارق الصمدیہ، ترجمہ و تلخیص البوارق الصمدیہ (از مولانا شاہ فضل رسول بدایونی)
- ۳- نماز حضوری۔
- ۴- نماز ضروری۔
- ۵- نعمات خواجگان۔
- ۶- حقیقت انوار محمدیہ
- ۷- شمس الخفییہ جو اپنے راجع الخفییہ (مسئلہ حق و باطل)۔
- ۸- جوہر ایامی۔
- ۹- نور الربانی فی مدح الجبرائیل جانی۔
- ۱۰- عکازہ در صلوة جنازہ۔
- ۱۱- شمس الضحیٰ فی مدح خیر الوری۔
- ۱۲- فاتحہ خوانی۔

حضرت میاں شیر محمد شہر قہوری قدس سرہ انگریزی خوان طبقے کو تواریح حبیب اللہ اور اسلام کی گیارہ کتابیں پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

استاذ اساتذۃ العرصہ حضرت مولانا غلام قادر قریشی ہاشمی بھیروی قدس سرہ العزیز ۱۹ ربیع الاول ۱۰ اپریل (۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء) کو واصل بن ہوئے اور حکیم شامی مسجد میں محو استراحت ابدی ہوئے۔ نماز جنازہ میں خلق خدا کا جو ہم اس قدر تھا کہ کل دھرتی کو جگہ نہ ملتی تھی، مولانا کرم الدین، رئیس بھیں ضلع جمل فرماتے ہیں :-

"مولانا غلام قادر صاحب مرحوم کا جنازہ جب شہر لاہور میں اٹھایا گیا تو جو ہم علاقے اس قدر تھا کہ نماز جنازہ ہا ہر پید میں پڑھی گئی، کارخانوں کے مزدوروں نے اس روز مزدوری ترک کر کے شمولیت جنازہ کی" لکھ

آپ کے شاگرد و رشید مولانا محمد عالم آسی امرتسری نے تاریخ وفات کسی

۱۳	۲۷	۲۷	۱۳
۱۳	۲۷	۲۷	۱۳

لکھ غلام دستگیر خاں امیر : بزرگان لاہور، ص ۷۲

لکھ کرم الدین امیر مولانا : تاریخ عبرت (۱۴۰۰ء) ص ۸-۱۶

مولانا فتح محمد فاروقی حقیر نے تاریخ وفات ۱۳۲۶ھ قرار دیتے ہوئے
قطرہ تاریخ کہتا ہے

تھے غلام قادر اک جو مولوی باصفا
تھے مگر ملازم ہوں کہ اب نہیں کہتے دوست
تھے ستون دین احمد بے ریاؤ با عمل
گو بہر علم اور تھے مناظر بے بدل
تھار بیع الاول اور انیسویں تاریخ تھی
چار شنبہ کا تھا دن جب آگئی ان کی اہل
فارغانی سے گئے ملک بھاگے جبکہ وہ
مرگ سے ان کی گیا سب متوں کا دل دہل

سال رحلت پوچھا ہفت جو میں نے لے لے حقیر

کان میں میرے کما مفنور اس نے بے مثل سلہ

۱۳۲۶

۱۔ محمد امام الدین مولانا ، ریاض النور ، شیخ المہر بخش ، محمد علی الدین لاہور ۱۳۳۳ھ ، ص ۲۲

حضرت مولانا غلام قادر شائق فاروقی رسول نگر ہی رحمت اللہ تعالیٰ

حضرت مولانا حاجی غلام قادر شائق فاروقی قادری نوشاہی رحمت اللہ تعالیٰ ابن مولانا
شیخ احمد (ت ۱۲۳۳ھ) قصیدہ رسول مگر ضلع گوجرانوالہ کے ایک قدیمی علمی گھرانے کے
چشم و چراغ تھے۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے تحصیل علوم کی اور حضرت حافظ سید قتل احمد
نوشاہانی برخورداری ساہن پالوی (ت ۱۲۸۶ھ) سے بیعت ہو کر خلافت سے نوازے گئے۔

مولانا شائق مولوی اور فارسی کے بلند پایہ ادیب و شاعر اور خوش نویس تھے، تاریخ گوئی
میں بھی باکمال تھے اور اپنے علاقہ کے مثنوی اعظم تھے۔ آپ کی تصنیف شائق نامہ جواب کوٹا نامہ
ہنزویہ مطبوعہ ہے۔ آپ کی بیاض کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علمائے عصر سے آپ کے
گہرے مراسم تھے، ان علمائے کرام میں سے چند ایک کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

- ۱۔ حضرت مولانا غلام علی الدین قصوری (ت ۱۲۷۰ھ)
- ۲۔ حضرت مولانا عبد الرسول قصوری (ت ۱۲۹۳ھ)
- ۳۔ مولانا سراج الدین (گوجرانوالہ)
- ۴۔ مولانا عبدالرحمن ساکن جوکا لیاں (ت ۱۲۶۸ھ)
- ۵۔ مولانا شیخ عبداللہ (پیک مریض گجرات)
- ۶۔ مولانا حکیم غلام احمد (کوٹا ٹروالے) (ت ۱۲۹۹ھ) جو حضرت مولانا

محمد عالم آسی امرتسری کے بھرا بھرا تھے۔

حضرت مولانا غلام قادر شائق رحمت اللہ تعالیٰ کے دو صاحبزادے تھے، مولانا محمد فرید
اور مولانا نور الدین، یہ دونوں حضرات جید عالم اور خوش نویس تھے۔ مولانا محمد دین کے
بیٹے مولانا مفتی بشیر حسین خطیب جامع مسجد محمد گورستان، گوجرانوالہ، باصلاحیت
اور صاحب تصانیف ہیں۔

حضرت مولانا شائق ۳۰۰/۳/۱۸۸۲ء میں واصل بحق ہوئے اور وصال سے ایک روز قبل خود ہی اپنی تاریخ وصال کی جو درج ذیل ہے۔

الہی از کرم پیدا کنی خلق
فتیحتی القربی فضلًا غیر عذر
جو بافضلت شدم محتاج گفتیم
کہ یا اللہ کرمیت بافضل

سلسلہ اس نامہ میں کے تفصیلی حالات مولانا سید شریف احمد شرافت نوشاہی نے "شریعت و تاریخ" مجلد سوم میں تحریر کیے ہیں، یہ حالات اسی کتب سے ملے گئے ہیں۔

مجاہد تحریک آزادی مولانا غلام مجدد و سرمنڈی مجذبی قدس سرہ

حضرت مولانا الحاج قلام مجدد و سرمنڈی ابن حضرت مولانا عبدالعلیم ابن حضرت عبدالرحیم مجددی سرمنڈی (قدست اسرارہم) ۳۰۱/۳/۱۸۸۳ء میں پیدا ہوئے، آپ کا سلسلہ نسب ۱۰ واسطوں سے نام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ تک پہنچتا ہے، تحصیل علوم کے بعد آپ نے میدان سیاست کو منتخب کیا اور فرنگی سامراج کے خاتمہ کے لئے زبردست جدوجہد کی، علی بردران کے ساتھ دو سال جیل میں لےھے، اسی دوران قرآن پاک کے پندرہ پارے حفظ کر لئے۔

آپ کو مسلم لیگی منجھے ہوئے سیاست دان، شعلہ بیان خلیب اور سروردو عالم علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے محب تھے، تحریک پاکستان کے سلسلے میں فضا ہموار کرنے کے لئے دھواں دار تقریریں کیں اور اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لئے شب و روز کام کیا۔ نواب زادہ لیاقت علی خاں اور سردار عبدالرب نشتر آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔

حق گوئی، بے باکی، مہمان نوازی اور خودداری آپ کے نمایاں اوصاف تھے، باوجودیکہ آپ ہندوؤں کے سخت مخالف تھے، ہندو آپ کا دلی طور پر احترام کرتے تھے، چنانچہ قیام پاکستان کے بعد کئی ہندو جانتے ہوئے اپنے مکانات آپ کے حوالے کر گئے، جو آپ نے مساجد بن کے حوالے کر دیئے، البتہ دیوان دلی رام کے بنگلہ واقع میرا آباد، حیدرآباد میں آپ نے رہائش اختیار کر لی، کچھ عرصہ کلکتہ حیدرآباد نے یہ کہہ کر آپ سے بنگلہ خالی کرالیا کہ یہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے، چھین منسٹر سندھ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اگر مولانا غلام مجدد مجھ سے ملیں تو میں انہیں بنگلہ واپس دلا دوں گا، آپ نے شان بے نیازی سے فرمایا:-

"میرے لئے بنگلے کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، میں اس کے پاس نہیں بلونگا"

یہ بات خان لیاقت علی خان کو بھی پہنچ گئی، انہوں نے معذرت کے ساتھ بنگلہ آپ کو واپس کر دیا اور کلکتہ صاحب پر ناراضگی کا اظہار کیا۔

اپریل ۱۹۵۶ء کو مجیدہ علم و فضل پیکر زہد و تقویٰ، میدان شجاعت و فصاحت کا شہسوار، تحریک پاکستان کی صفت اول کا مہابد دنیا سے رخصت ہو گیا جنہیں ایک ذیبا غلام مجید کے نام سے یاد کرتی تھی (رحمۃ اللہ تعالیٰ) ثنیاری ضلع حیدرآباد میں آپ کا منازہ شریف ہے۔

مولانا غلام رسول جان مرہندی درویش فاش بزرگ آپ کے فرزند ارجمند ہیں۔

لے مکتوب مولانا پیر محمد اسماعیل خان مرہندی مدظلہ (میرپور، سندھ) نام رقم حدود ۱۰ دسمبر ۱۹۶۰ء

شیخ الجا مو حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی قدس سرہ العزیز موضع گمرانی (گجرات)

علامہ زمان فاضل اہل مولانا غلام محمد گھوٹوی قدس سرہ العزیز موضع گمرانی (گجرات) میں جمادی الاولیٰ، جنوری ۱۳۰۵ھ/۱۸۸۶ء میں پیدا ہوئے۔ فارسی اور صرف و نحو کی کتابیں چکڑی (گجرات) میں مولانا محمد چران سے پڑھیں، پھر قصیدہ گھوٹو شائع ملتان) میں سیبویہ زمانہ مولانا حافظ محمد جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر قطعی اور سیدہ بی بی تک کتابیں پڑھیں بعد ازاں مولانا علامہ سید غلام حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں موضع گمرانی (مظفر گڑھ) حاضر ہوئے اور کتاب علوم کیا، پھر بمقام سبکی (مضافات کیمبلپور) مولانا علامہ محمد زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، انہیں آپ کی ظہری حالت بچھڑے ہوئے مال اور پرانے کپڑے دیکھ کر گمان ہوا کہ یہ پڑھنے والا طالب علم نہیں ہے اس لئے انہوں نے داغے کی اجازت نہ دی، مولانا خاموشی سے بیٹھ گئے، اتفاقاً صدرا (شرح ہدایۃ الحکمتہ) کا ایک مشکل ترین مقام زیر درس تھا، مولانا محمد زمان نے اس مقام کی تقریر کی اور طلبہ کو تقریر دہرانے کے لئے کہا لیکن کوئی بھی اسے دہرانہ سکا۔ علامہ گھوٹوی نے اجازت طلب کی اور پوری تفصیل سے اس مقام کو بیان کر دیا، اب جو مولانا محمد زمان کو ان کی قابلیت کا پتہ چلا تو نہ صرف داغے کی اجازت دی بلکہ انہیں قرب خاص سے نوازا۔

وہاں کچھ عرصہ استفادہ کرنے کے بعد جامعہ نعمانیہ لاہور چلے آئے اور مولانا علامہ غلام احمد حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں زانوسے تلمذ نہ کیا، پھر علاقہ فیض مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر فنون عالیہ کا درس لیا، ڈیڑھ سال بعد جب ان کا وصال ہو گیا تو آپ مدرسہ عالیہ رامپور میں مولانا فضل حق رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے درس میں شریک ہوئے اور کسب فیض کیا۔ طلب اور صلاح کا درس حضرت مولانا وزیر حسن رامپوری سے لیا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں شیخ الاسلام مرشد المسلمین حضرت خواجہ پیر سید علی شاہ گھوٹوی قدس سرہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے۔

فراغت کے بعد مدرسہ عالیہ رام پور میں مدرس مقرر ہوئے اور تین سال تک درس دیا، انہوں نے بعد قصبہ گھوٹڑ میں تشریف لے آئے، یہاں میں سال تک علوم فضل کے دریا بہائے اور قصبہ گھوٹڑ میں قیام کی وجہ سے گھوٹڑی مشہور ہوئے، پھر نواب صاحب کے بلائے پر بہاول پور تشریف لے گئے اور جامعہ عباسیہ (اب جامعہ اسلامیہ) بہاولپور کے شیخ الجامعہ مقرر ہوئے اور تقریباً بیس سال تک علوم دینیہ کی گرانقدر خدمات انجام دیں اور بے شمار متلاشیانِ دولتِ علم و فضل کو منزلِ مراد تک پہنچایا۔

مولانا غلام محمد گھوٹڑی قدس سرہ اپنے دور کے شہرہ آفاق علماء اور زبردست مناظر تھے، بہت سے مناظروں میں آپ کی شرکت کا ثبوت ملتا ہے۔

۱۹۱۱ء میں حرمین طیبین کی زیارت کے لئے روانہ ہوئے، ارادہ یہ تھا کہ جامعہ شریف حاضری دے کر مہجرت سے جہاد پر سوار ہوں گے لیکن دہلی کے اسٹیشن پر پتہ چلا کہ کسی گھنٹہ انتظار کرنی پڑے گی، اتفاقاً اس وقت دیوبند جانے والی گاڑی تیار تھی، آپ اس میں سوار ہو گئے۔ دیوبند پہنچے تو دیکھا کہ مولوی محمود حسن مسند سماع موتی پر اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں، حضرت شیخ الجامعہ نے اجلاس کے دوران مداخلت کرتے ہوئے فرمایا، علماء احناف کا مسک یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں آپ کی عالمانہ گفتگو سے مولوی محمود حسن متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ مولانا غلام محمد گھوٹڑی ہیں تو فوراً آپ کو اسٹیج پر لے گئے اور کہنے لگے۔

”مردے سنتے ہوں یا نہ سنتے ہوں مجھ کو کیا بگڑتا ہے؟“

۱۹۲۴ء میں جب حضرت مولانا مفتی غلام مرتضیٰ قدس سرہ اور مولوی جلال الدین مس قادیانی کے درمیان مسند ”حیاتِ بیخ“ پر مناظرہ ہوا تو مولانا غلام محمد گھوٹڑی اہل اسلام کی جماعت کے صدر تھے، اس مناظرہ میں اسلامی مناظر مولانا مفتی غلام مرتضیٰ قدس سرہ کو زبردست کامیابی ہوئی اور قادیانی مناظر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مقدمہ فیصلہ بہاولپور میں بھی

آپ نے اہم کردار ادا کیا۔

مولانا غلام محمد گھوٹڑی ابتداً فیشنل کالجس ملتان ڈویژن کے صدر تھے بعد ازاں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور تحریک پاکستان کے لئے دل و جان سے کام کیا، قیام پاکستان کے بعد جب مہاجرین کے قافلے بہاولپور آئے تو ان کی آباد کاری کے لئے نہایت سرگرمی سے کام کرتے رہے۔

حضرت مولانا غلام محمد گھوٹڑی رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ کا حلقہ نہایت وسیع تھا، ان میں سے استاذِ الاساتذہ حضرت مولانا مہر محمد اچھروی قدس سرہ العزیز کا نام نامی سرفہرست ہے۔

ان کے علاوہ چند تلامذہ کے اسما گرامی یہ ہیں:-

- ۱۔ پیر امام علی شاہ، میر آباد تحصیل لودھراں، ملتان
- ۲۔ مولوی محمد شفیع، مہتمم مدرسہ قاسم العلوم، چشتیاں شریف
- ۳۔ مولانا سید دین محمد شاہ، مظفر گڑھ
- ۴۔ مولانا محمد ذاکر، بانی جامعہ محمدی جھنگ
- ۵۔ مولانا محمد صادق، دیپالپور
- ۶۔ علامہ رحمت اللہ راشد (مشہور لیڈر) بہاولپور
- ۷۔ مولوی غلام یسین، وال پھراں
- ۸۔ مولانا فضل الحق، رامپور
- ۹۔ پیر ولایت شاہ، گجرات
- ۱۰۔ مولانا مفتی عطاء محمد، رتہ، کچھوال

حضرت شیخ الجامعہ نے غریب پر ایک مہسوطہ لکھا تھا جو طبع نہ ہو سکا۔

۱۔ تمہارا امام حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں

دیا، وہ تمہارے ہر کام دینی و دنیوی میں مدد و معاون ہوں گے۔" سہ

حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ آپ پر نہایت مہربان تھے، گاہ و بیگاہ ان کی عنایات کا ظہور ہوتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ خان نجیب الدین خان قصوری حاضر تھے، حضرت شاہ صاحب نے بطور انبساط فرمایا "غلام محی الدین کو کس جگہ کا پیر بنایا جائے؟" خان صاحب نے کہا "انہیں قصور کا پیر بنا دیجئے"

اس پر حضرت شاہ صاحب جوش میں آگئے اور فرمایا:

"تم بہت کم ہمت ہو، ہم انہیں سارے پنجاب کا پیر بنا لینگے،" سہ

آپ نے علم حدیث حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ سے چڑھا اور سلم

حدیث پڑھانے کی باقاعدہ سند حاصل کی سہ

خلافت و فراغت کے بعد آپ نے اپنے مسکن قصور کو رش و بدایت کامر کرنا بنا اور اپنے شیخ کے حکم سے دور دراز کا سفر کیا اور دس نوچید و معرفت کو عام کیا، ہزاروں افراد آپ کی تربیت اور راہنمائی سے راہ راست پر آئے۔ یہ وہ دور تھا جب پنجاب پر سکھوں کے تسلط نے ہر شخص کو ہراساں کر رکھا تھا۔ آپ کے اخلاق کریم، اخلاق نبوی کا بہترین نمونہ تھے لباس، خوراک، گفتگو، نشست و برخاست، غرض ہر کام میں سنت مطہرہ کے اتباع کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، بزرگان دین خاص طور پر حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمال عقیدت و محبت رکھتے تھے، ایک جگہ فرماتے ہیں سہ

طریقہ قادری عرف قریشی عینی مشرب مولد قصوی
غلام غوث اعظم محی الدین طفیش یا ستم ہر دم قصوی سہ

سہ محمد حسن نقشبندی، حالات مشائخ نقشبندیہ مجددیہ، ص ۳۵۹

سہ شہاب احمد سید، انوار محی الدین، ص ۵۰

سہ ایضاً، ص ۵۲

سہ ایضاً، ص ۹۹

آپ ہمیشہ ملاقات کرنے والوں کو اتباع شریعت کی تلقین، علماء مہر اور انگریزوں سے ڈکڑے رہنے کا درس دیا کرتے تھے، چنانچہ نواب شیر محمد خاں ٹوانہ کو فرمایا:

"علماء مہر کے وعظ میں شرکت نہ کرنا، شریعت کے احکام کی پابندی

کرنا، فریجی و کام سے نفرت رکھنا،" سہ

حضرت خواجہ قصوی اپنے دور کے خوار سیدہ بزرگ اور بلند پایہ ولی تھے۔ آپ سے کرامات کا ظہور ایک عام سی بات تھی، کوئی شخص اولاد کے حصول کے لئے تعویذ مانگتا تو تعویذ دیتے وقت اگر آپ ارشاد فرماتے کہ اسے چاندی کے خول میں بند کر کے رکھنا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ لڑکی ہوگی، ورنہ اگر فرماتے کہ اسے حبت کے خول میں رکھنا تو یہ لڑکا پیدا ہونے کی بشارت ہوتی تھی۔

ایک مرتبہ کسی نے تعویذ طلب کیا تو آپ نے فرمایا اسے چاندی کے خول میں رکھنا آپ کے عقیدہ اعظم حضرت مولانا غلام نبی نسیمی نے عرض کی، حضور سے لڑکے کی خواہش ہے، آپ نے فرمایا اب تو ہمارا ماہ گزر چکے ہیں چنانچہ اس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی سہ

تہذیب کے علاوہ تدریس پر بھی کافی توجہ صرف فرماتے تھے، تشنگان علوم، ظاہری اور باطنی علوم کے فیض سے مشرب ہوتے تھے، آپ تمام متداولہ علوم میں مہارت کا انداز رکھنے کے ساتھ ساتھ شعر و سخن کا بہترین ذوق بھی رکھتے تھے لیکن حمد باری، نعت شریعت اور منقبت کے علاوہ کسی موضوع پر خام فرسائی نہ فرماتے تھے، آپ عربی، فارسی، اردو اور پنجابی میں بے تکلف انداز خیال فرماتے تھے، آپ کے کلام میں روانی، قوت، بیان، کیفیت و مزہ اور استادانہ پرکاری کے جوہر بدرجہ اتم موجود ہیں۔

ایک قصیدہ نعتیہ کے چند اشعار ملاحظہ ہوں جس میں عربی و فارسی کے امتزاج نے دکھائی

اور عجیب حسن پیدا کر دیا ہے سہ

سہ شہاب احمد سید، انوار محی الدین، ص ۱۸۰

سہ ایضاً، ص ۱۶۵-۶۰

آپ نے دو صاحبزادے یادگار چھوڑے :-

۱۔ مولانا عبدالرحمن چشتی

۲۔ مولانا حافظ غلام احمد

۲۷ جولائی ۱۹۰۱ء (۱۹ مارچ ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۸ء) بروز پیر آپ کا وصال ہوا اور

قبرستان ملوک شاہ عقب نور محل، بہاولپور میں دفن ہوئے۔

الذییر سہ ماہی ۱۹۷۲ء ، ص ۷۹

سلسلہ سمرقند چشتی

مبلغ اسلام حضرت مولانا غلام محمد ترمذی ام تسری قدس سرہ

شعلہ بیان مقرر مبلغ اسلام مولانا غلام محمد ترمذی ابن جناب عبدالعزیز ام تسری میں
۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں پیدا ہوئے، ابتدائی دینی تعلیم پر وقیہ عبدالرحیم اور فقیہ عصر مولانا مفتی
عبدالصمد غانا کاشمیری سے حاصل کی، قالین بانی اور شمال بانی کا کام سیکھا حکیم فیروز الدین
فیروز ظفرانی کی خدمت میں طلب علم کے لئے حاضر ہوئے اور بہت جلد فنی فاضل اور ادیب کی فاضل
کا امتحان پاس کیا، علامہ ظفرانی کے جانشین علامہ محمد حسین عرشی ام تسری نے آپ کا تخلص ترمذی
تجویز کیا، اس کے بعد مختلف اساتذہ سے علوم و فنون کی تحصیل کر کے ادب عربی کے فاضل مولانا
محمد عالم آسی ام تسری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ادب عربی کی کتابیں پڑھ کر مولوی فاضل
کا امتحان دیا، علوم دینیہ سے فارغ ہو کر طب کی کتابیں حکیم حاجی محمد علی حکیم محبوب عالم اور حکیم
فتح تجند سے پڑھیں، لاہور کے نامور طبیب حکیم شہزادہ غلام محمد سے اصول طب سیکھے اور انگریزی
میں بھی خاصی استعداد پیدا کر لی۔

مولانا ترمذی قادر اسلام مقرر تھے، ان کی تقریر میں روانی اسے ہاکی، بے پناہ خلوص و
سب سے بڑھ کر سرور و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق جلوہ گر ہوتا تھا، غالباً ۱۹۳۱ء
میں ام تسری میں جامعہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی جس کی بدولت مسلمان نوجوانوں کے لئے یونیورسٹی
کے امتحانات پاس کرنے آسان ہو گئے، مولانا ترمذی انجمن تبلیغ الاحناف ام تسری کی روح رواں
تھے جس کے زیر اہتمام ہر سال عرس امام عظیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا
اسی انجمن نے دارالعلوم حنفیہ رضویہ کی بنیاد رکھی جس کا افتتاح ۱۹۴۵ء میں حضرت سید محمد کچھوچھو
نے کیا۔ قیام ام تسری کے دوران مختلف سیاسی تحریکوں میں حصہ لیا خصوصاً تحریک پاکستان میں شامی
کردار ادا کیا، اپنی شعلہ بیان تقاریر کے ذریعے مسلمانوں کے خواہیدہ جذبات کو بیدار کیا، قیام پاکستان
کے بعد لاہور میں قیام پذیر ہوئے، جامع مسجد حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیرون موری گیٹ
و عطا و درس کا سلسلہ جاری کیا، پھر عقیدت مندوں کی فرمائش پر مسجد مول سیکر ٹریٹ میں خطابت کی

ذمہ داری قبول کر لی۔ ایک عرصہ تک جمعیت علمائے پاکستان، پنجاب کے صدر رہے پھر مرکزی جمعیت کے نائب صدر ہو گئے اور نہایت وقیح خدمات انجام دیں۔

تحریک ختم نبوت میں پُرجوش حصہ لیا اور چھ ماہ سے زائد عرصہ تک جیل کی صعوبتوں کو پارہی سے برداشت کیا، مولانا ترمذی حضرت حافظ سید جماعت علی شاہ محد علی پوری قدس سرہ سے بیعت تھے حضرت شاہ علی حسین قادری کچھ چھوڑی سے بھی کسب فیض کیا، بے شمار مصروفیات کے باوجود چند علمی تراکات آپ سے یادگار ہیں نکتہ کلام، دستور پاکستان، مقدمہ دعوتی بعل نبوت، ایجاد، غذائی چارٹ اور ماہنامہ ٹرنس لاجور جو تین سال تک جاری رہا، مولانا ترمذی اس کے پرنٹر اور پبلشر تھے مولانا ترمذی گزشتہ سوشل سوسائٹی تھے پنجابی، اردو اور فارسی میں شعر کہتے تھے۔

الذاتی تین سال تک ذیابیطس کے مریض رہ کر ۱۷ مہرماہ ۱۳۶۴ھ جولائی (۱۹۷۹ء) ۱۹۵۹ء ہجرت اور حجد کی درمیانی شب کو سفرِ آخرت اختیار کیا نزار گورستان میانی، لاہور میں بہاول پور روڈ پر واقع ہے سٹ

سٹ محمد نوری پور سٹی بیکر ایجنٹ ۱ مولانا غلام محمد ترمذی

قدوة المحققین علامہ مولانا غلام محمد ترمذی قدس سرہ (مختصر سیرت النعمانیہ)

امام عقولات و منقولات، فاضل ریاضیات، ادب عربی کے بلند پایہ ادیب، فقیہ حنفی کے متبحر فاضل سید سید زمانہ مولانا غلام محمد ترمذی بن نورنگ بن محمد باقر، بمقام قصبہ وانڈہ محمد خان ضلع میانوالی میں ۱۲۸۲ھ/۱۸۶۵ء میں پیدا ہوئے، اسی جگہ حافظ محمد زما سے قرآن مجید حفظ کیا، فارسی اور عربی کی کتابیں اور نحو، عروض اور قوافی کی بعض کتابیں مولانا سلطان محمد بن سبزواری (بندیاں)، ضلع سرگودھا سے پڑھیں۔ کتب نحو کی تکمیل مولانا فیض محمد شاہ جمال (قصبہ شاہ جمال، میان) سے کی، فنون کی کتابیں جامہ لٹرائی، لاہور میں مولانا غلام احمد حافظ آبادی سے پڑھیں، کتبے پاضی میں مولانا لطف اللہ علی گڑھی سے استفادہ کیا، درس حدیث مولانا محمود حسن شیخ الحدیث دیوبند سے لیا، ۱۹۰۲ء کو فارغ التحصیل ہو کر پہلاں (لیاقت آباد ضلع میانوالی) میں تدریس کا کام شروع کیا، ۱۹۰۷ء میں مکہ شریف ضلع کبیلہ پور تشریف لے گئے، اسی دور میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ گورڈوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دستِ اقدس پر بیعت ہوئے تین سال وہاں قیام کیا، اس کے بعد تین سال چکی شیخ (ضلع کبیلہ پور) اور تین سال وطن قیام پذیر رہے اور تین سال تحصیل ضلع سلطان میں کام کیا پھر واپس آکر پہلاں میں دارالعلوم محمدیہ قائم کیا اور تمام علوم دینیہ کی خدمت میں صرف کر دی۔

آپ کو تمام علوم دینیہ میں زبردست عبور حاصل تھا، خاص طور پر صرف نحو، فقہ و اصول، ادب عربی، ہیئت، ربیع الجیب، ربیع المنقرہ اور زیج وغیرہ میں کمال دسترس رکھتے تھے۔ آپ کے تلامذہ اکثر و بیشتر علم و عرفان کے ماہر تھے، ملک لدر سید مولانا غلام محمد حشری گورڈوی ماخذہ العالمی زبیب مسند تدریس دارالعلوم مظہر بہاولپور، بندیاں ضلع سرگودھا اور حضرت مولانا پیر سید محمد کریم شاہ بھیروی فاضل جامہ ازہر، مدیر اعلیٰ ماہنامہ فیضیہ کے حرمِ آپ ہی کے فیض یافتہ ہیں۔ آپ کی تصنیفات تحقیق و تدقیق کے اعلیٰ شاہکار ہیں، چند ایک کے نام یہ ہیں :-

۱۔ نجم الرحمن : علم غیب کے موضوع پر فاضلانہ تالیف

۲۔ ارمغان شاداں : گرامر فارسی ، (نحو اور ریاضی میں بھی سائل لکھے ہیں)

۳۔ تحفہ سلیمانیاہ : آفتاب پنجاب مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کے تلمذ عبد الغفور کا حاشیہ ،

تلمذ عبد الغفور شوکی سنایت ادق کتاب ہے اس سے پہلے اس پر کوئی مستقل حاشیہ نہ تھا، یہ پہلا مستقل حاشیہ ہے جس میں سلیس اور سگفتہ عربی عبارت میں اس کے مطالب کی تشریح اس خوبی سے کی ہے کہ بے ساختہ علامہ لغمانانی کی وقت نظر اور تبحر کی فصاحت کا نقشہ سامنے آتا ہے۔

۲۳ رمضان المبارک، یکم گسٹ (۱۳۰۵ھ / ۱۹۲۸ء) کو آپ کا وصال ہوا، آپ کے صاحبزادے مولانا علامہ محمد حسین شوق، دارالعلوم محمودیہ میں تدریس علوم و فنون میں مصروف ہیں۔

۱۔ سلہ غلام علی (۱۰) البراقیت العربیہ ص ۲۰-۲۱

قدوة العارفين حضرت مولانا غلام محی الدین قصوری ائمہ الخصوصی قدس سرہ

شیخ المشائخ، امام الغضائرا، مرجع الحرفاء حضرت مولانا خواجہ غلام محی الدین قصوری دامم
الخصوی ابن حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ابن حضرت مولانا غلام مصطفیٰ (رحمہم اللہ تعالیٰ) ۱۲۰۲ھ /
۱۷۸۷ء میں قصور میں پیدا ہوئے، سہ آپ کے والد باریع اور جد امجد مہند پابیر ولی اور متبحر اہل علم تھے
پنجابی زبان کے شیکسپیر پیر وارث شاہ اور حضرت پیر بلھے شاہ قدس سرہا آپ کے جد امجد ہی کے
شاگرد اور فیض یافتہ تھے، سہ آپ کا شجرہ نسب خلیفہ اول باریعار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، آپ کے اجداد عرب سے ہجرت کر کے پہلے سندھ تشریف لائے، پھر
سندھ سے آکر قصور کو اپنا مسکن بنا لیا، سہ

ابھی حضرت خواجہ قصوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی عمر بمشکل ایک سال تھی کہ والد باریع کا ظاہری سایہ
سرت اٹھ گیا اور آپ کی تربیت کا ذمہ آپ کے عم بزرگوار حضرت خواجہ شیخ محمد نے اٹھایا، تمام علوم
متداولہ عقول و منقول کی تحصیل عم بزرگوار سے کی اور انہی سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہو کر
خلافت حاصل کی، عم محترم کے علاوہ دیگر اساتذہ سے بھی اکتساب فیض کیا جن میں سے مولانا
باب اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ملتا ہے، سہ عم محترم کے وصال کے بعد قطب الاقطاب
حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور گیارہ ماہ شیخ
کی خدمت میں رہنے کے بعد سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کبریہ قادریہ چشتیہ اور سہروردیہ میں مذکور
عجاز ہوئے، حضرت شاہ صاحب نے بیعت کے بعد آپ کا ہاتھ ہوا میں لہرا دیا اور فرمایا :-

۳۱	ص	۱	الوارعہ الدین	۱	سلہ شہیر احمد، سید
۱۹	ص	۱		۱	سلہ ایضاً
۱۵	ص	۱		۱	سلہ ایضاً
۳۲	ص	۱		۱	سلہ ایضاً

تمہارا ہاتھ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں

دیا، وہ تمہارے ہر کام دینی و دنیوی میں ممد و معاون ہوں گے۔" سہ

حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ آپ پر نہایت مہربان تھے، گاہ و بگاہ ان کی عنایات کا ظہور ہوتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ خان نجیب الدین خاں قصوری حاضر تھے، حضرت شاہ صاحب نے بطور انبساط فرمایا "غلام محی الدین کو کس جگہ کا پیر بنایا جائے؟" خاں صاحب نے کہا "انہیں قصور کا پیر بنا دیجئے"

اس پر حضرت شاہ صاحب جوش میں آگئے اور فرمایا:

"تم بہت کم ہمت ہو، ہم انہیں سارے پنجاب کا پیر بنا لینگے" سہ

آپ نے علم حدیث حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ سے چڑھا اور مسلم حدیث پڑھانے کی باقاعدہ سند حاصل کی سہ

خلافت و فراغت کے بعد آپ نے اپنے مسکن قصور کو رشتہ و بدایت کامرکز بنا لیا اور اپنے شیخ کے حکم سے دو دروازہ کا سفر کیا اور درس توحید و معرفت کو عام کیا، ہزاروں افراد آپ کی تربیت اور رہنمائی سے راہ راست پر آئے۔ یہ وہ دور تھا جب پنجاب پر سکھوں کے تسلط نے ہر شخص کو ہراساں کر رکھا تھا۔ آپ کے اخلاق کریمہ، اخلاق نبوی کا بہترین نمونہ تھے۔ لباس، خوراک، گفتگو، نشست و برخاست، غرض ہر کام میں سنت مطہرہ کے اتباع کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، بزرگان دین خاص طور پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمال عقیدت و محبت رکھتے تھے، ایک جگہ فرماتے ہیں سہ

طریق تادری عرفم قریشی
غلام غوث اعظم محی الدینیم
حلیفی مشربم مولد قصوی
طفیلیش ینستم بروم حضوی سہ

سہ محمد حسن نقشبندی، حالات مشائخ نقشبندیہ مجددیہ، ص ۳۵۹

سہ شبیر محمد سید، انوار محی الدین، ص ۵۰

سہ ایضاً، ص ۵۲

سہ ایضاً، ص ۹۹

آپ ہمیشہ ملاقات کرنے والوں کو اتباع شریعت کی تلقین، علماء مکہ اور انگریزوں سے دُور رہنے کا درس دیا کرتے تھے، چنانچہ نواب شیر محمد خاں ٹوانہ کو فرمایا:

"علماء مکہ کے وعظ میں شرکت نہ کرنا، شریعت کے احکام کی پابندی

کرنا، فرنگی حکام سے نفرت رکھنا" سہ

حضرت خواجہ قصویٰ اپنے دور کے خدارسیدہ بزرگ اور بلند پایہ دلی تھے۔ آپ سے کرامات کا ظہور ایک عام سی بات تھی، کوئی شخص اولاد کے حصول کے لئے تعویذ مانگتا تو تعویذ دیتے وقت اگر آپ ارشاد فرماتے کہ اسے چاندی کے خول میں بند کر کے رکھنا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ لڑکی ہوگی اور اگر فرماتے کہ اسے جسبت کے خول میں رکھنا تو یہ لڑکا پیدا ہونے کی بشارت ہوتی تھی۔

ایک مرتبہ کسی نے تعویذ طلب کیا تو آپ نے فرمایا اسے چاندی کے خول میں رکھنا آپ کے حلیفہ اعظم حضرت مولانا غلام نبی نسیمی نے عرض کی، حضور اسے لڑکے کی خواہش ہے، آپ نے فرمایا اب نو چار ماہ گزر چکے ہیں چنانچہ اس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی سہ تبلیغ کے علاوہ تدریس پر بھی کافی توجہ صرف فرماتے تھے، تشنگان علوم، ظاہری اور باطنی علوم کے فیض سے مرشار ہوتے تھے، آپ تمام متداولہ علوم میں مہارت کا مدار رکھنے کے ساتھ ساتھ شعر و سخن کا بہترین ذوق بھی رکھتے تھے لیکن حمد باری، نعت شریعت اور منقبت کے علاوہ کسی موضوع پر خام فرسائی نہ فرماتے تھے۔ آپ عربی، فارسی، اردو اور پنجابی میں بے شکست و انکار خیال فرماتے تھے۔ آپ کے کلام میں روانی، قوت، بیان، کیفیت و مزہ اور استادانہ پورکازی کے جوہر بدرجہ اتم موجود ہیں۔

ایک قصیدہ نعتیہ کے چند اشعار ملاحظہ ہوں جس میں عربی و فارسی کے امتزاج نے دلکشی

اور عجیب حسن پیدا کر دیا ہے سہ

سہ شبیر محمد سید، انوار محی الدین، ص ۱۸۰

سہ ایضاً، ص ۱۶۵-۶۰

اسے شرفِ اہل آدم و دوسے فخرِ انبیاء
حقاً کہ در کمالِ جمالت نظر نے
حوالہ امتت ہر معلوم یک بہ یک
جز بر شرفِ سنت نبود استکا و دل
ہر کس و سید نام تو دارد بہ شوقِ دل
انکلی طیب لبونک آت و من معنی

یادرب بفضل خویش رسالہ تحفہ درود

من اضعفت العباد الی اشرف الوری

تحفہ رسولیہ نامی مبارک کتاب آپ کی وہ زندہ جاوید کرامت ہے جس میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علیہ مبارک اور معجزات عالیہ کا بیان کیا ہے۔ اس کے ایک باب میں آپ نے حضرت مولانا صاحبزادہ عبد الرسول قسوری کی ولادت سے ایک سال پہلے ان کی ولادت کی خبر دی، انہیں پند و نصائح فرمائے اور ان کا نام مبارک بھی میں فرمایا اس نظم کا مطلع ہے۔

اے کہ ہنوزی تو بچم معلوم

زود بہ گلزارِ جہاں بہ قدم

اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کی روحانی بصیرت اور کشف و کرامت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے متعدد باکمال جہتوں کی تربیت فرما کر انہیں خلافت سے نوازا اور مسندِ رشد و ہدایت پر سرفراز فرمایا جن میں سے حضرت خواجہ عبد الرسول قسوری (فرزند ارجمند) مولانا غلام دستگیر قسوری (تمیز و داماد) مولانا غلام مرتضیٰ (بیریل شریف) حضرت مولانا غلام نبی تلی غلیفہ اول حضرت مولانا حافظ نور الدین (چکوری شریف) وغیر ہم رحمہم اللہ تعالیٰ شایستہ مشہور و معروف ہیں۔

۱۰۳-۱۰۱ ص مولانا غلام نبی تلی غلیفہ
۱۰۳۸ ص مولانا غلام مرتضیٰ
۱۰۸۷ ص مولانا غلام دستگیر قسوری

آپ نے اصلاحِ عقائد، اصلاحِ اعمال و اخلاق کے ساتھ ساتھ متعدد تصانیف رقم بند فرمائیں جن میں اہل علم و عرفان حضرت نے ہر جہاں بنایا، تصانیف کے نام یہ ہیں۔

- ۱۔ تحفہ رسولیہ (فارسی نظم)
- ۲۔ دیوانِ حضور ص ۱
- ۳۔ رسالہ نظامیہ (مسئلہ توحید، فارسی نظم)
- ۴۔ خلاصۃ التقریر فی مذمت المزامیر
- ۵۔ رسالہ در رد فرقہ بخارا و بابیہ
- ۶۔ رسالہ اسلاط
- ۷۔ زاد المعاد (پنجابی)
- ۸۔ خطبات جمعہ عبیدین (عربی و فارسی نظم)
- ۹۔ شرح دیباچہ بوستان (عربی)
- ۱۰۔ شرح درود مستغاث شریف
- ۱۱۔ چل بس اس (مفرداً حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدس سرہ)
- ۱۲۔ مکتوبات شریف

حضرت مولانا غلام محمد امین قسوری دامم العظمیٰ قدس سرہ کا وصال ۲۲ ذیقعدہ ۱۲۸۰ گشت (۱۲۷۰/۱۸۵۴ء) کو ہوا، مولانا غلام دستگیر قسوری رحمہم اللہ تعالیٰ نے "بے نظیر زبان" سے تاریخ وصال نکالی۔

۱۲۵-۱۲۳ ص مولانا غلام نبی تلی غلیفہ
۱۳۶-۱۳۲ ص مولانا غلام مرتضیٰ

مرشد طریقت حضرت خواجہ سید غلام محی الدین گولڑوی قدس سرہ

حضرت خواجہ سید غلام محی الدین ابن حضرت پیر سید مر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ (۲۰۰۸-۱۸۹۱ء) کو گولڑہ شریف (ضلع راولپنڈی) میں پیدا ہوئے۔ جب یہ اطلاع مبارکباد کے ساتھ حضرت قبلہ عالم گودی گئی تو آپ نے فرمایا "مبارکباد سے تو میں نے سمجھا تھا کہ شاید مجھے فدا ل گیا ہے" پھر فرمایا نرینہ اولاد کی پیدائش سے ہر شخص کو خوشی ہوتی ہے لیکن مجھ اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی ایک روح کا ورود ہوا ہے۔ آپ کی یہ پیش گوئی حوت بھرت صحیح ثابت ہوئی حضرت خواجہ سید غلام محی الدین گولڑوی کی تسلیم و تربیت کے لئے نادر روزگار اساتذہ مقرر کئے گئے، تجوید و قرأت میں مولانا قادی عبدالرحمن جو نپوری سے استفادہ کیا اور علوم دینیہ کی تکمیل حضرت مولانا علامہ محمد غازی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کی، والد ماجد حضرت پیر سید مر علی شاہ قدس سرہ کے فیض تو جہ نے آپ کو جلد ہی پانچمیل تک پہنچا دیا۔

تربیت اور نگرانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت اعلیٰ گولڑوی قدس سرہ پر ہدایات جاری فرماتے جن کی تکمیل کماں سعادت مندی سے کی جاتی یہی وجہ تھی کہ حضرت خواجہ سید غلام محی الدین قدس سرہ علم و عمل، نظم و ضبط، صبر و تحمل، فراست بے نفسی، اودا و اشغال کی پابندی اور ارباب اقتدار سے بے نیازی میں یکتائے روزگار تھے۔ آپ کے نام حضرت اعلیٰ گولڑوی کے ایک مکتوب کا اقتباس ملاحظہ ہوا فرماتے ہیں:-

"سب گروں اور ممانوں کی خبر گیری رکھنا، جمعہ و جماعت کا التزام رہے، اپنے استاد صاحب کا سب ہدایت خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو قبل از وقت مہیا رکھنا، ان کی صحبت کا خیال رہے، نہ صرف اپنے

سید فیض احمد مولانا مہر نیر ۱ ص ۳۶۱-۳۶۲

سبق اور مطلب کا ایسا ہی جناب قاری صاحب کی خبر گیری کچھ یعنی کوئی وطنی ناگزیر شہیدہ حسب عادت اہل وطن پیش آنے نہ پائے، ایسا حلیم نہ ہونا چاہئے کہ ضروریات میں نقصان ہو اور نہ ایسا درشت کہ خلق اللہ بزرگ ہو"۔

آپ کو بچپن ہی سے گاڑی کے انجن سے دلچسپی تھی، اسی لئے حضرت اعلیٰ قدس سرہ نے آپ کو ہانچوں کا خطاب دیا جو اتنا مقبول ہوا کہ ہر جوان آپ کو اسی لقب سے یاد کرتے تھے، شاہ ولی اللہ گوالیاری نے آپ کو انجن کا ایک ماڈل پیش کیا جس میں کوئلے کی جگہ مٹھائی اور پانی کی جگہ شربت بھرا ہوا تھا جو احیاء آپ کے کمرے کی زینت بنا رہا، ایک مرتبہ کسی دوست نے انجن سے دلچسپی کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، مجھ اس کی چار دائیں پسند ہیں۔

- ۱۔ حوصلہ، کہ جتنی زیادہ آگ ڈالو، اتنا ہی تیز چلتا ہے۔
 - ۲۔ دفا، جہاں خود جائیگا وہیں تمام ڈبوں کو بلاتا تیز ساتھ لے جائے گا۔
 - ۳۔ ایثار، خود چلتا ہے اور دوسروں کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔
 - ۴۔ استقامت، ہمیشہ معتین راستہ (رائن) پر چلتا ہے۔
- گویا آپ نے بچے سے عام فہم انداز میں مرشد کی خصوصیات بیان فرمادیں۔

علمی و روحانی تکمیل کے بعد حضرت اعلیٰ قدس سرہ نے آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا لیکن آپ کسی کو معیت کرنے پر تیار نہ ہوئے تا آنکہ حضرت پیر سید مر علی شاہ قدس سرہ نے ارشاد فرمایا:-

"جو شخص تمہارے ہاتھ پر معیت کرے گا اس کا میں ذمہ دار ہوں"۔

۱۹۱۰ء میں آپ کی شادی ہوئی جس میں دیگر علماء و مشائخ کے علاوہ حضرت سید محمد

سید فیض احمد مولانا مہر نیر ، ص ۲۶۳۔

سید ایضاً ، ص ۳۶۷۔

سید ایضاً ، ص ۳۶۸۔

دیوان پاکپتن شریف، حضرت صاحبزادہ خواجہ محمود تونسہ شریف، حضرت صاحبزادہ خواجہ منیب الدین سیال شریف، حضرت میاں شیر محمد شرف پوری، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری اور حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاشانی علی پوری (قدس سرہم) شریک ہوئے۔

آپ متعدد دفعہ حج و زیارت کی سعادت سے مشرف ہوئے اور ہر دفعہ مسیوں المراد آپ کے ساتھ ہوتے۔ ۱۹۳۴ء میں حرمین طیبین کی زیارت سے مشرف ہوئے اور زکیر کثیر حجاج مقدس کے غریبہ، فقرا اور علماء میں تقسیم کیا۔ حضور غوث اعظم اور مولانا دومی قدس سرہما سے عشق کی حد تک عقیدت و محبت تھی۔ چنانچہ متعدد دفعہ ابتدا و شریف اور قونیہ شریف (ترکیہ) کا سفر کیا۔ ۱۹۳۸ء میں ایک سو اٹھ افراد کے ہمراہ ابتدا و شریف کا سفر کیا اور گرد و نواح کے قریباً قریب تمام منارات مقدسہ پر حاضر فرمایا۔ ہندوستان، افغانستان، عراق، شام، مصر، ترکی، ایران اور حجاز مقدس میں شادی کسی بزرگ کا مزاج ہو جہاں آپ نے مانزی رومی ہوئے ہر سفر میں آپ کے منظور نظر فرماں جناب محبوب صاحب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے جنہیں آپ کی تربیت نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ بڑے بڑے اہل علم ان کا پرچھا ہوا کلام سن کر محو حیرت ہو جاتے ہیں۔

حضرت خواجہ غلام محی الدین قدس سرہ نے جامعہ غوثیہ (گورہ شریف) کی تعمیر و ترقی پر خاص خواہ توجہ دی، کتب خانہ کی توسیع فرمائی، حضرت پیر مہر علی شاہ قدس سرہ کی تصانیف عالیہ کی اشاعت کا اہتمام فرمایا، دیگر تقریبات کے علاوہ آپ کے زبیر اہتمام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس اور صبح الیوم میں بڑے بڑے نذک و احتشام سے ہوتا، لاکھوں کے اجتماع کے باوجود نظم و نسق ایسا شاندار ہوتا تھا کہ کسی کو شکایت نہ ہوتی تھی۔

دو صاحبزادے آپ کی یادگار ہیں حضرت شاہ غلام معین الدین مظلمہ (متولد ۱۹۲۰ء) اور حضرت شاہ عبدالحمق مظلمہ اول الذکر فرزند پیر آپ کے جانشین ہیں۔ اہل نظر کا کہنا ہے کہ ان کی ذات سے

۱۔ نفعین احمد مولانا، مہر نیر، ص ۳۷۰۔
۲۔ اس سفر کا عمل دو بار روزنامہ کی صورت میں نکل گیا، حضرت مولانا عبدالحمق مظلمہ اولیٰ دست برکاتہم العالیین نے قہرہ زبانی مثنوی افکار سے کہ یہ یادداشت صحیح ہو کر محفوظ ہو جائے۔
۳۔ نفعین احمد مولانا، مہر نیر، ص ۳۷۰۔

سلسلہ عالیہ کو مزید ترقی و عروج حاصل ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ، حضرت شاہ غلام معین الدین مظلمہ کے فرزند ارجمند حضرت صاحبزادہ سید غلام نصیر الدین مظلمہ (متولد ۱۹۳۹ء) بمقبری صلاحیتوں کے مالک ہیں وہ بیک وقت عالم دین، مکتبہ دار، فقیہ، فارسی، عربی اور پوربی زبان میں شوق سخن فرماتے ہیں۔ ان کے کلام کی پختگی اور ندرت تخیل میں اساتذہ کار نگ جھلکتے ہیں، ناواقف یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوجاتا کہ یہ ان کا کلام ہے لیکن چند لکھان کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد تسلیم کے سوا چارہ کار نہیں رہتا۔ مولانا حافظ مظلمہ الدین مظلمہ فرماتے ہیں:-

۱۔ شاہ نصیر الدین کی نعتیہ شاعری رومی، جامی، سعدی کی صدی بار گشت معلوم ہوتی ہے کلام سے ہرگز زیادہ نہیں ہوتا کہ کسی جوان سال شاعر کا کلام ہے۔

۲۲ جون ۱۹۴۱ء/۱۹۴۲ء بروز اتوار لاکھوں دلوں کے مرکز عقیدت حضرت خواجہ سید غلام محی الدین قدس سرہ کبابندہ مطہری ہسپتال زاوہل پٹی میں وصال فرما گئے۔ کھ دو لاکھ سے زیادہ افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی کے جوار میں آخری آرام گاہ بنی، جناب ابوالطاہر فدائیسین فدا میر مہر و ماہ، لاکھوں قطعہ تاریخ کہا ہے

ہوئے عازم سوئے جنت میں آج فدا حضرت محی دین، دین پناہ
وہ شیدائی حسن محبوب خالق وہ محمود دست سے لا الہ
سرا پاتھے اک شرع دین نبی کا نشانات مہر حقیقت کی راہ
چمکتے نہ چرخ ولایت پر کیوں وہ رہی ان پر مہر علی کی نگاہ

سن وصل ان کا فدا بر محل
کہو "رعلت اودی خلق آہ" سٹہ

۱۔ روم دار فرمائے وقت لاہور، ۲۶ ستمبر ۱۹۷۳ء
۲۔ احسان پوری، ۱۰ مہر، (روز پشاور، ۱۰ اپریل ۱۹۷۰ء) ص ۸۰۔
۳۔ اب رفیع رضا، ۱۰ اپریل، شماره اکتوبر، نومبر ۱۹۷۳ء ص ۱۳

مسلین حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین نقشبندی قدس سرہ (نیریاں شریف)

حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین ابن خواجہ محمد اکبر خاں قدس سرہما افغانستان کے
مردم خیز محلہ غزنی میں ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اپنے ماموں حضرت
مولانا گل محمد رحمہ اللہ ثقلی سے حاصل کی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا خالد بن ولید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔

اوائلی عمر میں اخروٹ کی تجارت کیا کرتے تھے، ان دنوں بھی دینداری کا یہ عالم
تھا کہ رات کو عبادت الہی میں مصروف رہتے، ایک دفعہ سر راہ بابا اقبال سے ملاقات
ہو گئی، انہوں نے استفسار پر بتایا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد قاسم موہڑوی کی
خدمت میں حاضری دینے جا رہا ہوں، آپ نے اس نام میں اتنا کیفیت و سرور محسوس کیا کہ جو
کچھ حبیب میں تھا، نکال کر بابا اقبال کو دے دیا اور کہا کہ غزنی کے ایک مسافر کا سلام دو
یہ نذرانہ حضرت کی خدمت میں پیش کر دینا، جب حضرت خواجہ محمد قاسم کی خدمت میں
بابا اقبال نے وہ نذرانہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا: دوبارہ ملاقات ہو تو اس شخص سے
کہنا کہ:

”جہیں تمہاری ضرورت ہے نذر و نیاز کی ضرورت نہیں ہے۔“

پھر کیا تھا کشاں کشاں بارگاہِ شیخ میں حاضر ہو کر جمعیت ہوئے اور واپس آگئے،
کاروبار تجارت ایک مرتبہ خوب چل گیا لیکن کچھ ہی عرصہ بعد حالات نے ایسا پلٹا دکھایا کہ تمام
پس انداز رقم بھی خسارے کی نذر ہو گئی، صرف تین سو روپے باقی رہ گئے، اسی عالم میں
بارگاہِ شیخ میں حاضر ہوئے اور رقم پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ اسے بطور امانت رکھ لیں

لے ریاض الصوفی، مولانا، پیر صاحب نیریاں شریف، اہل بیت کا حکم، بیہوش، مئی ۱۹۶۶ء، ص ۳۵

تاکہ بوقت ضرورت کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ مرشدِ کامل نے وہ رقم فقرا میں تقسیم
کر دی جس سے آپ حد درجہ کبیدہ خاطر ہوئے۔ حضرت بابا محی موہڑوی قدس سرہ نے کیفیت
دیکھی تو فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہارے لئے ایسا سودا رکھا جو
ہے جس کے خریدار مشرق اور مغرب سے تمہارے پاس پہنچیں گے، اس فرمان سے
اطمینان قلبی حاصل ہو گیا اور آپ ایک سوئی کے شیخ کی خدمت اور عبادت و ریاضت میں
مشغول ہو گئے۔

بارہ سال تک منازلِ برہنیت طے کرنے کے بعد مرشدِ کامل نے حکم دیا کہ آزاد کشمیر
کے بے آباد مقام ڈٹا پوٹھی میر خاں (نیریاں شریف) کو اپنا مرکز بنا کر رشد و ہدایت کا فریضہ
انجام دو، وہ مقام جہاں دن کے وقت بھی جاتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے آپ کے
قدوم ہیمنت لزوم سے اس طرح آباد ہوا کہ رات کے وقت بھی وہاں کی فضا ذکر و فکر کرنے
والوں کے دم قدم سے معمور رہتی۔

سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد آپ کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کر کے شخصیت
نفرمانی کی زندگی سے تائب ہو گئے، آپ نے راولپنڈی، کیمبل پور، مظفر آباد، مردان،
پوٹھوہار، میر پور، جہلم اور ہزارہ کے علاقوں کے متعدد دورے کئے، عوام الناس کو
اتباع شریعت کی تلقین کی، بد مذہبوں سے کنارہ کشی اور مسلکِ اہل سنت و جماعت پر
ثابت قدمی کا خوب خوب درس دیا، حتیٰ یہ ہے کہ ان کے وجودِ مسعود کی بدولت مسلکِ
اہل سنت کو بہارت و تازہ حاصل ہوئی تھی، خدا کرے کہ یہ بہار ان کے گرامی قدر صاحبزادگان
کے ذریعہ ترقی پذیر رہے۔ راقم الحروف چچوال میں ان کی زیارت سے شرف ہوا تھا،
کم گو، بازعب اور پروفقاہ شخصیت کے بانک تھے۔ مزاج میں استفسار بدرجہ اتم موجود
تھا۔ اتباع شریعت اور معمولات کی ادائیگی کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔

آپ نے قریباً تیس حضرات کو خلافت عطا فرمائی، چند حضرات کے اسماء یہ ہیں:

- ۱۔ حضرت مولانا مفتی پیر ہدایت الحق مدظلہ، مستمدرِ محققانِ العلوم، حضرو۔
- ۲۔ جناب فیض محمد آفت تائبانی۔

- ۳۔ جناب غلام محمد ، ساہیوال۔
۴۔ جناب محمد شفیع ، گوجرانوالہ۔
۵۔ جناب محمد امیر ، افغانستان۔

غالباً ۱۹۳۵ء میں آپ کی پہلی شادی ہوئی جس سے دو صاحبزادے یادگار

ہیں :

- ۱۔ حضرت مولانا الحاج علامہ علاء الدین صدیقی مدظلہ۔
۲۔ جناب نظام الدین قاسمی۔

دوسری بیوی سے پانچ صاحبزادے ہیں :

- ۱۔ جناب امام ربانی ، ۳۔ فضل ربانی
۲۔ غلام ربانی ، ۴۔ شیر ربانی ، ۵۔ شمس العارفین

اول الذکر مولانا علاء الدین صدیقی مدظلہ والد ماجد کے جانشین ہیں، حج و زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں اور ایک عرصہ تک انگلینڈ میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں۔

حضرت خواجہ غلام محی الدین قدس سرہ کے پیٹ میں ایک گولا سا پیدا ہو گیا، اپریشن ہوا تو پانی کی خاصی مقدار خارج ہو جانے کی وجہ سے کمزوری بہت ہو گئی لیکن آپ بہ دستور و منور کے ہاتھ مدگی سے نماز ادا کرتے رہے۔ آپ کے معالج جناب جنرل شوکت علی اور آئی ڈی حسن نے دستور کرنے سے منع کیا اور نماز اشارے سے پڑھنے کو کہا تاکہ آپریشن کے ٹانگے ٹوٹنے نہ پائیں، آپ نے فرمایا :

”چھیالیس سال تک کوئی وقت بغیر دستور کے نہیں گزرا، اب مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی بھر معمول چھوڑ دوں، نماز حسب سابق ادا کروں گا، ٹانگے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹتے رہیں“

ماورج الاول، ۱۱ اپریل ۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۵ء کو نیریاں شریعت کانیر تالان

سے مدعو ہوئے، مولانا: حضرت پیر صاحب نیریاں شریعت، ۱۰ ہمارے صاحبزادے، ۱۹۷۵ء میں ۱۹۷۵ء میں ۶۳۰۰

پیشہ نگاہ میں سے روپوش ہو گیا جسے خلق خدا حضرت خواجہ غلام محی الدین قدس سرہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ نیریاں شریعت (تراکھل، آزاد کشمیر) میں آج بھی آپ کے مزار سے سکون قلبی حاصل کرتے ہیں۔

حضرت پیر کرم شاہ مدظلہ، مدیر اعلیٰ ضیاء کے حرم، لغوی کلمات لکھتے ہوئے رقمطراز ہیں :-
”پچاس سال کے قریب یہ مرد کامل اپنی سبجانفسی سے مردہ دلوں کو حیاتِ جاوید بخشتا رہا، ہزاروں گم کردہ راہ لوگوں نے ان کے دستِ حق پرست پر بیعت کی اور اپنے دلوں میں عشقِ الہی کا چراغ روشن کیا، آپ کے اخلاق حسنہ کا دامن اتنا وسیع تھا کہ اپنے قدموں میں حاضر ہونے والوں کو کبھی محروم واپس نہیں کیا، آپ کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تبلیغِ دین میں بسر ہوئی۔ آپ سنتِ نبوی کا حسین پیکر تھے، ہم انتہائی قلبی رنج و اندوہ کے ساتھ لکھ رہے کہ صلیب! وہ چراغِ ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا جس کی تابناک کرنوں سے ہزاروں بیٹے منور ہو رہے تھے، انا اللہ وانا الیہ راجعون“۔ ص ۱۷

سلف محمد کرم شاہ اراکزی، مولانا پیر: ادارہ ضیاء حرم، مئی ۱۹۷۵ء، ص ۱۲

عارفِ کامل حضرت مولانا غلام مرتضیٰ قدس سرہ (بریل شریف)

قدوة السالکین، امام المتقین حضرت مولانا غلام مرتضیٰ قدس سرہ ۱۲۵۱ھ / ۱۸۳۵ء میں بریل شریف (ضلع مرگودھا) میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندانہ کئی پشتوں سے علم و عرفان کا سرچشمہ چلا آرہا تھا۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی ایک مرد کامل نے آپ کے والد ماجد کو بلند مرتبہ فرزند پیدا ہونے کی بشارت دی تھی۔ ابھی آپ کی عمر تیرہ برس ہی تھی کہ والد ماجد کا سایہِ عاطفت سے اٹھ گیا اس عرصے میں آپ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد درسی ابتدائی کتب پڑھ چکے تھے۔ والد گرامی کے وصال کے بعد علم دین کا شوق کئی جگہ لے گیا لیکن کہیں بھی سکون قلب و نظر کا سامان مہیا نہ ہو سکا۔ بالآخر مولانا غلام مرتضیٰ (قدس سرہ) نے صانعِ جہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری تعلیمی سے فوٹو سے ہی عرصے میں تمام کتب متداولہ کی تحصیل و تکمیل کرنی اور ۱۸ سال کی عمر میں دستاویزیت حاصل کر کے آباء و اجداد کی مانند مدرس پر جلوہ گر ہوئے اور مشتاقانِ علوم کو سیراب کرنا شروع کیا۔

دورِ طالب علمی میں حضرت مولانا شاہ غلام محی الدین نقوی دامادِ حضرت مولانا غلام مرتضیٰ قدس سرہ کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔

جب آپ نے مسند تدریس کو رونق بخشی تو علیٰ ہی تشنگانِ علوم کی بہت بڑی تعداد آپ کے گرد جمع ہو گئی۔ کثرتِ طلباء کے باوجود آپ کبھی مائل نہ فرماتے۔ علمی نوادرات فراہم کرنے کا اس قدر اشتیاق تھا کہ جہاں کہیں کسی نایاب کتاب کی اطلاع ملتی تو اسے حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش فرماتے کبھی کسی سے بطور امتحان کوئی سوال نہ پوچھنے البتہ اگر کوئی تعلق کا غماز کرتا تو اس سے کوئی ایسا سوال کرنے کہ وہ خاموش ہو جاتا اور آپ کے تجربہ علمی کا اعتراف کرتا۔ باوجود جہالتِ علمی اور علومِ تربیت کے تواضع اور انکسار کا یہ عالم تھا کہ اپنے لئے کبھی جمع کا صیغہ استعمال نہ فرماتے۔ توکل اور قناعت میں اپنی مثال آپ تھے۔ علماء اور خدام پر خاص مہربانی فرماتے جو کچھ آتا غریبار اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے، روزانہ زینبکڑوں حاجت مند حاضر ہونے لگے کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، اگر کسی کو کچھ پاس نہ ہوتا تو دوسرے وقت آنے کی ہدایت فرماتے، رات کو بہت کم سوتے تھے اکثر فرض

پر ستر بچھا کر آرام فرماتے، نماز تہجد کے لئے خاص اہتمام فرماتے اور اگر خادم موجود نہ ہوتا تو خود پانی نکال کر وضو اور غسل کرتے۔

آپ نے رشد و ہدایت اور تبلیغِ دین کا مشن پوری قوت و ہمت سے جاری رکھا، بدعات اور غیر شرعی رسوم کے انسداد کے لئے بھرپور جہاد کیا اور بے شمار خلق خدا کو راہِ راست دکھائی، کسی شخص نے پوچھا کہ بدنہ سب مثلاً وہابی، نجہری اور رافضی کی صحبت میں بیٹھنا چاہئے یا نہیں؟ فرمایا:۔

”ہرگز بیٹھنا چاہئے“ پھر یہ شعر پڑھا ہے
 صحبت بدر راہ تب بگفتہ دیگ سیر جاہر سیر می کند
 ساکن نے پھر پوچھا: کیا صرف پاس بیٹھنے سے بھی اثر ہو جاتا ہے؟

فرمایا: ”کیا آگ کے پاس بیٹھنے سے اڑ نہیں ہوتا؟“
 اُن گنت خوش نصیب آپ کے دستِ اقدس پر بیعت ہوئے اور کثیر تعداد باکمال حضرت خلافت و اجازت اور شرف تلمذ سے سرفراز ہوئے۔

حضرت مولانا غلام مرتضیٰ قدس سرہ اپنے دور کے نامور فاضل حضرت مولانا غلام محی الدین نقوی دامادِ حضرت مولانا غلام مرتضیٰ قدس سرہ کے بیسیل القدر خلیفہ مجاز اور صاحبِ کرامت بزرگ تھے، ایک خدا کی تعریف کے پاس تشریف لے گئے چند روز قیام فرمایا لیکن نمازِ فجر سے پہلے جب آپ عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتے تو ایک مشرک کے ناقوس بجانے کے سخت تکلیف ہوتی، ایک دن باہر تشریف لیجانے جو حکمتِ کبھی کے پاس سے گزر ہوا آپ نے ایک مخلص سے پوچھا صبح کے وقت ناقوس کون بجایا کرتا ہے؟ خادم نے بتلواہ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے اس پر ایک جملانی نگاہ ڈالی اور فرمایا:

”انشاء اللہ تعالیٰ پھر ناقوس نہیں بجائیگا، چنانچہ وہ شخص اسی روز بیمار ہوا اور ناقوس بجانے کے وقت سے پہلے ہی پل بسا۔“

آپ سال میں دو عرس کرتے تھے اور فرماتے تھے: یہ تمام عرسوں کے مدار ہیں، ایک عرس

حضرت مولانا سید غلام مصطفیٰ شاہ نوشاہی قدس سرہ

آپ کا اسم گرامی غلام مصطفیٰ، تخلص نوشاہی اور لقب نیشا ڈاسٹ تھا۔ آپ ۲۴ جمادی الاخریٰ ۱۲۷۰ھ / ۱۸۹۰ء کو بھنگ ساجھنپال شریف ضلع گجرات مشرق ہونے بسیح اناسلام حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری قدس سرہ کی اولاد اجماد سے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی حضرت مولانا حافظ سید محمد شاہ نوشاہی (ف ۱۳۳۲ھ) سے حاصل کی پھر حضرت مولانا شیخ احمد حنفی (ف ۱۳۲۸ھ) ساکن دھڑکیاں گلشن گجرات، خدیضہ حضرت مولانا غلام نبی مجددی لٹمی سے صرف و نحو منطق، فقہ اور حدیث کی کتابیں پڑھیں اور سلسلہ قادریہ نوشاہیہ میں اپنے والد بزرگوار کے ہاتھ پر بیعت جو کر اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے اور والد ماجد کی وفات کے بعد ان کے سجادہٴ بدایت پر رونق افروز ہو کر خلوق خدا کو راہ ہدایت دکھانے میں مصروف رہے۔

آپ عبادت و ریاضت اور علوم و فنون میں کینٹے زمانہ تھے۔ آپ فارسی، اردو اور پنجابی میں شعر بھی کہتے تھے، فن تاریخ گوئی میں آپ کی نظیر نہیں ملتی، آپ نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑیں، چند ایک کے نام یہ ہیں:-

- ۱۔ رسالہ خواص (اپنے شاگرد کے مختصر حالات) ۳ رسالہ طامون
- ۲۔ رسالہ رفیع سہاہ
- ۳۔ تفسیر نوشت ہی (تفسیر سورہ فاتحہ و مزمل)


۵۔ بیون التوا ریخ (چار جلدوں میں) اکثر معاصرین کی تاریخ نامیے ولادت و وصال و ظلم ان کے علاوہ ہندنا مر عطار، کریم سہدی، نام حق، گلستان سہدی، بوستان سہدی و محمود نامہ کے پنجابی میں ترجمے کئے ہیں۔ دیوان نوشاہی (پنجابی)، مغزیات نوشاہی (پنجابی) پانچ گنج نوشاہی (پنجابی)، آپ کے منظوم کلام کے مجموعے ہیں۔ علاوہ ان کے فیض محمد شاہی آپ کی بیاض ہے اور دس ضخیم جلدوں میں ہے۔ آپ کی دو اور کتابیں خطبات نوشاہی اور نوشاہی نامہ منظوم پنجابی کے نام سے موجود ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۱۲ ربیع الاول کو اور دو صلا معراج شریف کے موقع پر ۲۴ رجب المرجب کو، ان دونوں مواقع پر خلق خدا کثرت سے جمع ہوتی، تمام شب و عظمیٰ تقریر کا سلسلہ جاری رہتا اور کوئی غیر شرعی رسم دیکھنے میں نہ آتی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ نماز فجر کے بعد تمام امام ربانی حضرت مجدد العتباتی قدس سرہ پڑھتے پھر مراقبہ فرماتے، حاضرین اور خادم توجہات و فیض باطنی سے مستفیض ہوتے۔ آپ نے تالیف و تصنیف کی طرف بھی خاص توجہ فرمائی اور متعدد بلند پایہ تصانیف کا ذخیرہ یادگار چھوڑا، چند تصانیف کے نام یہ ہیں:-

- ۱۔ رسالہ مختصر تہذیب المناظرین مع شرح روض الراحین
 - ۲۔ مصباح الدعویٰ اور اس کی شرح شمس الضحیٰ (مجموعہ حدیث میں بلند مرتبہ کتاب)
 - ۳۔ تحفۃ العارفین و ہدیتہ السالکین
 - ۴۔ تذکرۃ المحسنات، معراج نامہ (عربی)
 - ۵۔ رسالہ در فضائل رمضان و عیدین
- ان کے علاوہ متعدد رسالے لکھے اور کئی کتابوں پر حواشی لکھے، آپ کے بے شمار فتاویٰ کو یکجا کیا جاتا تو ضخیم فتاویٰ تیار ہوجاتا۔

۱۵ رجب ۱۲۸۲ھ / ۱۹۰۲ء کو غور سے آفتاب سے کچھ قبل آپ کا وصال ہوا، نماز جنازہ مولانا عبدالرسول رحمت اللہ تعالیٰ سجادہ نشین مدہ شریف نے پڑھائی سلمہ حضرت مولانا صاحبزادہ محمد عمر (دیر بل شریف) آپ کے پوتے اور سجادہ نشین اور جید فاضل تھے جن کی وفات ماضی قریب میں ہوئی ہے۔

۱۔ انوار علی الدین، ص ۲۲۹-۲۵۹



آپ،، سال کی عمر میں ۱۸ شوال ۱۳۸۳ھ/۱۹۶۵ء کو داخل بحق ہو کر ساہنپال شریف میں دفن ہوئے۔ مزار مرجع خلائق ہے۔

آپ کے دو نامور اور ذی علم فرزند ہوئے،

۱۔ حضرت مولانا ابراہیم سید شریف احمد شرف نون شاہی مدظلہ جو اس دور کے بہترین فاضل اور باکمال مصنف و مؤلف ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ طریقت اور ساہنپال شریف کے سجادہ نشین ہیں۔

۲۔ مولانا ابراہیم رضا سید بشیر احمد بشارت مرحوم و مدفون جو ۵۳ سال کی عمر پر ۱۳۸۱ھ میں فوت ہوئے، جناب بشارت صاحب بھی صاحب تصانیف تھے۔

سلف طریق احمد شرف نون شاہی، سلاہ سید : اذکار و نوحیہ (مکتبہ نون شاہی ساہنپال) ۱۹۶۴-۱۹۶۵ء ص ۸۵-۹۱
ایضاً : ڈاکٹر نون شاہی (مطبوعہ جون ۱۹۶۵ء) ص ۲-۱۹

مولانا مفتی غلام معین الدین نعیمی قدس سرہ

مولانا مخدوم غلام معین الدین نعیمی ابن سید صابر شاہ چشتی صابری اشرفی نعیمی اور ریح اشرفی، ۲۳ دسمبر (۱۳۴۲ھ/۱۹۲۳ء) کو مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ مراد آباد کی مشہور دینی درس گاہ جامعہ نعیمیہ میں تاج العلماء مولانا محمد نعیمی اور صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ سے علوم دینیہ کی تحصیل و تکمیل کی، دینی تعلیم کے حصول کے زمانہ ہی میں فن طب حاصل کیا اور ۱۹۴۳ء میں دواچیٹلپبہ کالج لکھنؤ سے "الحکیم الفاضل" کی سند حاصل کی، ۱۹۴۵ء میں آپ تحصیل علوم سے فارغ ہو گئے، صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی قیادت میں تحریک پاکستان کے لئے سرگرمی سے کام کیا۔ ایک عرصہ تک آل انڈیا سنی کانفرنس کے منصرم رہے۔

۱۹۵۰ء میں پاکستان چلے آئے، غازی کشمیر مولانا ابوالحسنات قادری لے آپ کو جمعیت کا نائب ناظم مقرر کیا، ایک مدت تک جمعیت کا ترجمان جمعیت نکالتے رہے اور پوری تندی سے کام کیا، بعد ازاں حضرت صدر الافاضل کی یاد میں ہفت روزہ سوادِ عظیم نکالنا اور بڑی محنت اور ہمت سے تاحیات جاری رکھا، اس جریدے کی خصوصیت یہ تھی کہ مسلک اہل سنت و جماعت کے تحفظ کے لئے حتی الامکان کوشش کرتے رہے اور اسی کے ذریعے مسلک کے مخالفین کی فتنہ سامانیوں کا سختی سے نوٹس لیا جاتا رہا، ان کی حق گوئی و بے باکی ہمارے لئے قابل فخر اور مشعل راہ ہے۔

مفتی صاحب نے ناقدری کے اس دور میں تقریباً پچاس کے قریب کتابوں کے ترجمے کئے جن میں سے شفا و شریعت، مدارج النبوت اور کشف المحجوب کے ترجمے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ بے سرو سامانی کے عالم میں مسلک اہل سنت کی بہت سی کتابوں کی اشاعت کی۔

۱۲ جمادی الاخریٰ ۱۳۱۱ گشت (۱۹۹۱/۱۹۹۱) بروز بدھ آپ نے وصال فرمایا اور
 لاہور میں میاں صاحب کے قبرستان میں بہاولپور روڈ پر مولانا غلام محمد ترم کے مزار کے
 پاس آسودہ خاک ہوئے، نماز جنازہ حضرت مولانا مفتی اعجاز ذولی خاں رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے پڑھائی۔

جناب بشیر حسین ناظم نے قطعہ تاریخ لکھا جس کا تاریخی شعور و روح ذیل ہے۔
 چوں از فلک بجا منم کہ چیت سال جلتش؟
 بگوش مرزہ آمدہ "غریب رحمت ابدا"۔

۱۳۱۱ گشت (۱۹۹۱/۱۹۹۱) بروز بدھ (۱۹۹۱/۱۹۹۱) بروز بدھ آپ نے وصال فرمایا اور
 لاہور میں میاں صاحب کے قبرستان میں بہاولپور روڈ پر مولانا غلام محمد ترم کے مزار کے
 پاس آسودہ خاک ہوئے، نماز جنازہ حضرت مولانا مفتی اعجاز ذولی خاں رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے پڑھائی۔

زبدۃ الکاملین حضرت مولانا غلام نبی اللہی قدس سرہ

جامع ظاہر و باہن حضرت مولانا غلام نبی اللہی ابن حضرت مولانا قاضی غلام حسین ۱۳۲۲ھ
 ۱۸۸۰-۹ میں مکہ شریف ضلع جلم میں پیدا ہوئے۔ صرف و نحو کی کتب کے علاوہ میس قطبی،
 شرح وقایہ اور حیالی وغیرہ اپنے والد ماجد اور بعض دیگر علماء سے پڑھیں، بعد ازاں علامہ ناصر
 حضرت مولانا محمد احسن المعروف بہ حافظ دراز رحمہ اللہ تعالیٰ سے پشاور میں تحصیل تکمیل کی
 اور وطن واپس آکر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی دوران اچانک شوق الہی کا ایسا
 غلبہ ہوا کہ آپ مرشد کی تلاش میں گھر سے چل کھڑے ہوئے۔ اتفاقاً شاہ پور میں حضرت مولانا
 خواجہ غلام محی الدین قصوری دامم العنوری تشریف فرما تھے، استخارہ کے بعد ان کے دست
 اقدس پر بیعت ہو گئے۔ حضرت خواجہ قصوری نے توجہ فرما کر مختصر سے عرصہ میں مقامات مجذوب
 طے کرائے اور خلعت خلافت سے سرفراز فرمایا، اثناء سلوک میں آپ نے چھ ماہ میں قرآن مجید
 حفظ کر کے تراویح میں سنا دیا۔

حضرت خواجہ قصوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد آپ نے مکہ شریف میں خلق
 خدا کی اصلاح و ہدایت اور علم ظاہری و باطنی کی اشاعت شروع کی۔ آپ کی خدمت میں ۷۰،
 ۸۰ طلبہ حاضر رہا کرتے تھے، آپ ابتدائی اور منتمی طلبہ کو کیسیاں توجہ و التفات سے پڑھاتے تھے
 جو کتاب بھی زبردیں ہوتی اس کے شروع و حواشی کو سامنے رکھ بیٹے اور انہیں ملاحظہ فرماتے
 جاتے تھے حتیٰ کہ سکنڈ نامہ اور زینبائی کی شرح بھی سامنے رکھ لیا کرتے تھے طلبہ کے طعام، کتب اور
 دیگر ضروریات کا آپ خود انتظام فرماتے، پہلے طلبہ کے لئے گھر سے کھانا بھجواتے اور خود بعد میں کھانا
 کرتے تھے۔ اپنے تمام اورد و وظائف بابت بندی اور اطمینان سے ادا کرتے، باقی اوقات طلبہ
 کو درس دینے اور مستزین پر توجہ دینے میں صرف کرتے تھے۔

۱۳۱۱ گشت (۱۹۹۱/۱۹۹۱) بروز بدھ (۱۹۹۱/۱۹۹۱) بروز بدھ آپ نے وصال فرمایا اور
 لاہور میں میاں صاحب کے قبرستان میں بہاولپور روڈ پر مولانا غلام محمد ترم کے مزار کے
 پاس آسودہ خاک ہوئے، نماز جنازہ حضرت مولانا مفتی اعجاز ذولی خاں رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے پڑھائی۔

آپ کے مزاج اقدس میں کبر و غرور نام کو نہ تھا، مدد و مدد منکر المزاج تھے۔ ایک دفعہ کسی جگہ تشریف لے گئے، لوگ استقبال کے لئے حاضر ہوئے اور پیچھے پیچھے چلنے لگے، آپ نے فرمایا ایسے جوم پر فخر نہیں کرنا چاہئے، اگر کوئی بند یا ریچھ والا کسی گاؤں میں آتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ لے اللہ اللہ! بے نفسی اور فروتنی!

اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن ضمیری کا وہ مقام بخشا ہوا تھا کہ ایک شخص نے صاف پانی چیکے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ مکدر ہے کوئی اور شخص پانی لے آئے۔ اس شخص سے وہ پوچھی گئی تو اس نے کہا ماستے میں میری نظر نامحرم عورت پر پڑ گئی تھی اسے اسے کہتے ہیں مومنناہ فرست، مشفقانہ تہنیل اور پردہ داری!

تقلب اور دینداری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے نو غیر مقلدوں کے بعض مسائل پر فتوے دیا۔ انہوں نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ ڈپٹی اور تحصیلدار آپ کے غیر خواہ تھے، انہوں نے کوشش کی کہ فریقین میں مصالحت ہو جائے، کہیں قید نہ ہو جائے۔ جب آپ سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ دین میں فرق نہ آئے اور جو فتوے دیے ہیں اس سے انحراف نہیں ہو سکتا خواہ قید ہی کیوں نہ ہو جائے، آخر آپ کو کامیابی ہوئی تھی۔

حضرت مولانا امجد علی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بکثرت کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ آپ نے سینکڑوں افراد کو اپنی باطنی توجہات سے درجہ کمال تک پہنچا دیا آپ کے ملفوظات دانش و حکمت کے بہترین جواہر پارے ہیں جن میں چشم حق ہیں کے لئے ماہنامہ کے ذریعے اصول پنہاں ہیں، فرماتے ہیں:-

○ معرفت الہی کی نہایت نہیں ہے، مخلوق سے ذوق و شوق پر قانع نہیں ہونے لگتا۔

لے محمد حسن نقشبندی، مولانا، حالات مشائخ نقشبندیہ مجددیہ، ص ۳۷۲

لے ایضاً

ص ۳۷۳

لے ایضاً

ص ۳۷۴

جگہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”رب زدنی علماً“ فرمایا تو دوسروں کا کیا ذکر ہے؟

○ بڑا کام یہ ہے کہ شریعت پر استقامت رکھے۔
○ جس قدر طالب میں شکست و عاجزی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اس پر فیض زیادہ وارد ہوتا ہے۔

○ سالک کو چاہئے کہ سچی نظر کر کے چلا کرے۔

خونے سگان است بہر سو نگاہ

شیر سرانگنہ رود سوسے راہ

○ سالک کو نامحرم کی طرف نظر کرنے سے احتیاط کرنی چاہئے، نامحرم پر اتفاقی نظر بھی ضرر سے خالی نہیں ہوتی۔

بہ نامحرم نظر دل را کند کور

زد دولت خداد قرب انگمند دور

○ وظیفہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیبانی لکھتے ہیں ”دو طرح سے پڑھنے کا معمول ہے ایک یہ کہ حضرت شیخ کو وسیلہ سمجھا اور دوسرے یہ کہ ان کلمات میں اثر و برکت سمجھے۔

○ بری صحبت سے استمداد باطنی خراب ہو جاتی ہے۔

○ وہابیوں کی صحبت دیدار نہ کئے کی مانند ہے کہ اپنا سا کر لیتی ہے۔ لے

○ اصل چیز اعتقاد ہے، اگر اعتقاد درست ہے تو سب چیزیں درست ہیں اور اگر اعتقاد میں فرق ہے تو سب اعمال بیکار ہیں۔ لے

○ دصال سے قبل آپ کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے سفر آخرت سے بخوبی مطلع تھے، ۲۹ رمضان المبارک، ۲۹ مئی (۱۳۰۶ھ/۱۸۸۹ء) کو حضرت صاحبزادہ میان گل محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، لوگ تعزیت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ فرماتے کہ کیا تم یہاں بیٹھے

لے محمد حسن نقشبندی، مولانا، حالات مشائخ نقشبندیہ مجددیہ، ص ۳۸۰-۲

لے محمد حسن نقشبندی، مولانا، ملفوظات حضرت غلام نبی صاحب، ص ۸

دہیں گے، ہم بھی پلنے کو تیار ہیں، رنج کس بات کا کریں! آخر بروز یکشنبہ ۲۴ ربیع الاول شریف
۲۵ نومبر (۱۸۸۹ء/۱۳۰۷ھ) مؤذن کو اذان کہنے کا حکم دیا، آپ اذان کا جواب دیتے رہے، جب
مؤذن نے کہا "اشھدان لا ایلہ الا اللہ" اس وقت آپ کی روح قفسِ مغربی سے پرواز کر گئی۔
آپ نے متعدد حضرات کو خلافت و اجازت سے نوازا، چسند اسما یہ ہیں:-

۱۔ حضرت مولانا حافظ دوست محمد، فرزند ارجمند (م ۱۳۱۸ھ)

۲۔ مولانا حافظ فضل محمد

۳۔ مولانا غلام حسن (ساکن ڈھکیاں)

۴۔ مولانا امام الدین (ساکن جموں) وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ

ان دنوں حضرت صاحبزادہ مطلوب الرسول مدظلہ دربار عالیہ لکھنؤ شریف کے سجادہ نشین
ہیں، اپنے ابا و اجداد کے طریق پر قائم، پاکیزہ خصال اور اخلاقِ عمیدہ کے مالک ہیں، حضرت خواجہ
غلام نبی لہمی قدس سرہ کے مرید صادق مولانا محمد حسن نقشبندی (ساکن کوٹہ کیرت پور، مجوز) مولف
حالات مشائخ نقشبندیہ مجددیہ (مطبوعہ اللہ والے کی قومی دکان، لاہور) نے یکم محرم ۱۳۰۵ھ سے ۱۵ رجب
(۱۳۰۰ھ) تک کے مفصلات مرتب کئے ہیں جو شائع ہو چکے ہیں۔

سید محمد حسن نقشبندی، مولانا : حالات مشائخ نقشبندیہ مجددیہ، ص ۵-۳۸۳۔

عازر ربانی حضرت مولانا سید فتح علی شاہ قادری قدس سرہ (کھروڑہ سیدان سیالکوٹ)

شیخ المشائخ حضرت مولانا سید فتح علی شاہ ابن سید امیر شاہ ابن قیوم زمان شاہ قدس سرہ
۱۱ ربیع الاول ۵۰ مارچ (۱۲۹۶ھ/۱۸۷۹ء) کو کھروڑہ سیدان ضلع سیالکوٹ میں
پیدا ہوئے، آپ کے والد ماجد اور جد امجد اپنے دور کے مقتدر فضلاء میں شمار کئے جاتے
تھے، آپ نے پرائمری پاس کرنے کے بعد درس نظامی کی ابتدائی کتابیں جد امجد سے
پڑھیں پھر حضرت مولانا عبدالرحمن کوٹلوی (۱۲۹۸ھ) سے فقہ و حدیث کا درس لیا،
بعد ازاں جامعہ حنفیہ گجرات میں مولانا محمد عبداللہ سے اکتساب فیض کیا، کچھ عرصہ
جامع مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی میں رہے پھر مدرسہ مظہر اسلام، بریلی شریف میں ورنہ حدیث
کیا اور ۱۹۱۴ء میں سند حدیث حاصل کی، ۱۹۱۷ء میں جامعہ طیبیہ، دہلی سے طب کی
سند حاصل کی، ۱۹۱۸ء میں دوبارہ بریلی شریف حاضر ہو کر سلسلہ عالمیہ قادریہ میں اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ سے بیعت ہوئے اور ۱۹۲۰ء میں اجازت و خلافت
سے مشرف ہوئے۔

تکمیل علوم کے بعد اپنی زندگی تبلیغ اسلام کے لئے وقف کر دی سیالکوٹ
اور اس کے اطراف، جموں و کشمیر اور اس کے گرد و نواح میں مسلسل دورے کئے
اور عوام و خواص کو اسلامی تعلیمات اور مسلک اہل سنت سے روشناس کرایا، ۱۹۲۶ء
سے ۱۹۴۰ء تک سیالکوٹ چھاوٹی کی جامع مسجد میں فرائض خطابت انجام دیتے
رہے اور فوجی جوانوں کے دلوں کو حبِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جذبہ جہاد
سے گرماتے رہے، ۱۹۳۵ء میں مسجد شہید گنج کی تحریک میں امیر ملت حضرت پیر
سید جماعت علی شاہ قدس سرہ کی قیادت میں شاہی مسجد لاہور کے تاریخی اجلاس میں
مشرک ہوئے، ۴ اکتوبر ۱۹۳۹ء کو مراد آباد میں حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی

قدس سرہ کی صدارت میں موثر العلماء کا اجلاس ہوا، آپ علامہ سیالکوٹ کے ساتھ اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہوئے۔ اپریل ۱۹۴۶ء میں آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کے فقیدانہ اجلاس میں شریک ہوئے، قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں نظر پاکستان کی تبلیغ کی اور قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آباد کاری کے لئے زبردست جدوجہد فرمائی، ۱۹۵۳ء میں سیالکوٹ میں تحریک ختم نبوت کو بڑی کامیابی سے جلایا، غرض یہ کہ ملک و ملت کی بہتری کے لئے جو تحریک بھی اٹھی حضرت شاہ صاحب نے دل و جان سے اس کے لئے کام کیا۔

تصانیف میں معیار صداقت، پہل حدیث، سچا ایمان، مجموعہ وعظمتیں اور مجاہد شاہیاد کار ہیں

۸ رجب ۱۸۱، جنوری ۱۳۷۷ھ / ۱۹۵۸ء کو حضرت مولانا سید فتح علی شاہ قدس سرہ کا وصال ہوا، کھروڑہ سیدال ضلع سیالکوٹ میں آپ کا مزار ہے۔ آپ کے صاحبزادے مولانا سید احمد حسن قادری، جامع حنفیہ کھروڑہ سیدال میں فرائض خطابت انجام دے رہے ہیں۔

سلہ رضا بیٹھے چہشتی، روزنامہ مساوات، لاہور، ۱۹ اکتوبر ۱۹۷۵ء

زبدۃ الکاملین حضرت مولانا حافظ فتح محمد احمد پوری قدس سرہ العزیز

رہبر شریعت و طریقت حضرت مولانا حافظ ابوالشاق فتح محمد احمد پوری بانی جامعہ منتخب اچھرہ لاہور ابن میاں امام دین، اچھرہ لاہور میں پیدا ہوئے، بچپن میں آپ پر چھپک کا شدید حملہ ہوا جس سے نابہری بینائی نائل ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے آپ کو وہ نور بصیرت و معرفت ملا کہ مشائخ کبار نے آپ سے استفادہ کیا، عربی، فارسی، طب، اشعار اور تمام درجہ علوم میں کامل و متمرس رکھتے تھے اور ہر قسم کے طلباء کو شرح و بسط سے درس دیا کرتے تھے۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ عبدالرسول قسوی ابن حضرت خواجہ غلام محی الدین قسوی قدس سرہ سے بیعت تھے اور انہی کے مہار تھے۔

ایک دفعہ حضرت خواجہ عبدالرسول قسوی، اچھرہ کی ایک مسجد کے قریب سے گزرے دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں سمیت اس مسجد سے باہر آ رہی ہے، اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوا کہ لوگ خانہ خدا سے اس قدر بے پروا ہو چکے ہیں کہ مساجد حیوانات کی اماں گاہ بن چکی ہیں۔ واپسی پر پھر وہیں سے گزرے تو فرمایا "مجھ اس جگہ نور دکھائی دیتا ہے، یہاں خدا کا نور برسے گا"۔ آپ کی یہ پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ مولانا حافظ فتح محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں جامعہ فتحیہ جاری کیا جہاں سے بڑے بڑے فضلاء فیضیاب ہوئے اور قال اللہ و قال الرسول کا سلسلہ جاری رہا۔

مولانا حافظ فتح محمد قسوی دہریہ نگاری میں اپنی مثال آپ تھے، اپنے گھر میں بوئی ہوئی ہنری سے آپ کا کھانا تیار ہوا کرتا تھا۔ آپ کی اہلیہ حضرت عیسیٰ نقیہ، اگر کسی خادمہ کا پکایا ہوا کھانا تناول فرمائیے تو فوراً تھے ہوجاتی، اس دور کے مشائخ عظام مثلاً شیر بانی حضرت میاں شیر محمد شہر پوری اور حضرت خواجہ محبوب عالم توکلی خلیفہ حضرت سائیں توکل شاہ انبالی وغیرہ

کے آپ کے ساتھ خصوصی تعلقات تھے۔ یہ حضرات کٹر ملاقات کے لئے آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے حضرت حافظ صاحب کو بزرگان دین اور مشائخ کرام سے گہری عقیدت تھی ایک مرتبہ آپ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تلمذ کے مزار پر نوار پر حاضر ہوئے۔ ایک درویش نے بجا نسبت مراقبہ بارگاہ مجدد میں کرایہ کی درخواست کی ارشاد ہوا حافظ فتح محمد شاہ سے لے لو اور ان کی شکل بھی دکھا دی، مگر وہ درویش سوال نہ کر سکے، ادھر دربار مجددی سے حافظ صاحب کو ایما ہوا کہ فلاں شخص کو کرایہ دے دیا جائے چنانچہ آپ نے اپنے خادم جمال الدین کو فرمایا کہ یہ مسافر جو امامت درگاہ سے باہر جا رہا ہے اسے اتنا کرایہ دے دو۔

حضرت حافظ صاحب کے زمانے میں مولوی عبداللہ کچھڑالوی امام مسجد چینیانوالی (لاہور) نے فقہ انکار حدیث کفر کیا تو آپ نے اس کے استیصال کے لئے سعی و سعی فرمائی اور کچھڑالوی کے رد میں متعدد رسائل تصنیف فرمائے، ان میں سے ایک رسالہ کا نام صلوة القرآن بتا بقدر عبید بن جحش المعروف بہ درویش الہوی ہے۔

۲۹ شوال المکرم (۱۳۳۵ھ/۱۹۱۷ء) کو حضرت حافظ فتح محمد قدس سرہ کا وصال ہوا پیر پیر صوفی روحی نے تاریخ وفات کی جو لوح مزار پر درج ہے یہ ہے

امام حافظان فتح محمد کہ در عشق ہمیں بود بیکتا
أحببنا الصالحين وكان منبهم
و لم يأت الهواما دام حديثا
صدائے زریں در گوشش افتاد
بسال مہر مغلکش گفت روحی
بجنت رفت و با حق باد مولانا!
حضرت الحاج میاں محمد حسین مدنون جگیاں ناگرہ (لاہور) آپ کے خاص مریدین میں

سے تھے یہ

استاذ العلماء مولانا فتح محمد بہاولنگری قدس سرہ

استاذ الافاضل، عارف کامل حضرت مولانا فتح محمد ابن سجاد بن خاں ابن تبریز خاں بمقام موضع جبیکے بہاولنگر ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۶ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد ذراعت پیشہ اور نو خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے مولانا سلطان محمود (پیراں بدھ علی ضلع حصار)، مولانا سلطان محمود افغانی، مولانا سلطان محمود مدرس مدرسہ فخرپوری دہلی اور جامعہ شریعت مدرسہ عینیہ میں مولانا علامہ معین الدین اجیری سے علوم کی تحصیل کی حدیث شریعت مدرسہ عبدالرب دہلی میں مولانا عبد العلی محدث سے پڑھی، ۲۴۰، ذوالفقہ المبارک (۱۳۳۵ھ/۱۹۱۳ء) کو تمام علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے۔

حضرت خواجہ غلام رسول توگڑوی کے خلیفہ مجاز حضرت خواجہ عبد الحلیم (حویلی لکھا، ضلع ساہیوال) سے بیعت ہوئے اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں خلافت سے مشرف ہوئے۔ ایک عرصہ تک صادق گنج ضلع بہاولنگر میں درس دیا، چار سال موضع جموں و تحصیل ضلع ساہیوال پچیس سال گنڈاپور ضلع بہاولنگر، دو سال پہلے قلعہ سہاؤدنگر میں پڑھاتے رہے، غالباً ۱۳۶۰ھ میں مدرسہ مفتوح العلوم، بہاولنگر کی بنیاد رکھی اور تاحیات علم و عرفان کے دریا بہائے فیض آپ کے مریدین دس ہزار کے قریب بتائے جاتے ہیں، بے شمار علماء آپ سے فیض یاب ہوئے چنانچہ اسماء مشاہیر یہ ہیں:-

۱. فقیہ عصر مولانا ابوالخیر محمد نور اللہ نعیمی مدظلہ العالی شیخ الحدیث دارالعلوم خضیر فریدی بصرہ پور۔
۲. مولانا غلام مہر علی، مصنف دیوبندی مذہب، چشتیاں شریعت۔
۳. مولانا جلال الدین، جمیون شاہ
۴. مولانا عبد الحق، حصار

۵۔ مولانا اسماعیل دیوبندی بہاولنگری۔

۶۔ مولانا سید پرواز علی شاہ، مہلو کا۔

۷۔ مولانا محمد اکبر علی محمود پوری۔

۸۔ مولانا عبد الحمید، وغیرہم

مولانا پنجابی، عربی اور فارسی میں شہرت رکھتے تھے، آپ کی تصانیف میں سے "ادب در وحدت و وجود و وحدت شہود" کا پتہ چلتا ہے۔ یہ کتاب ابھی تک طبع نہیں ہو سکی، مولانا فرمایا کرتے تھے، یہ کتاب میری زندگی کا ذخیرہ ہے۔ حضرت مولانا الحاج میاں علی محمد خاں رحمہ اللہ نے سجادہ نشین بسی شریف سے مولانا مرحوم کے مخلصانہ رسم نغے اور حضرت میاں صاحب مولانا صاحب کی بے حد عزت و تکریم کرنے تھے۔ مولانا ہر سال بسی نو (منبع ہوشیار پور) میں حضرت میاں محمد شاہ علیہ الرحمہ کے عرس پر جایا کرتے تھے۔

ماہ رمضان المبارک بروز بدھ ۱۰ دسمبر (۱۳۸۹ھ/۱۹۶۹ء) ساڑھے آٹھ بجے صبح آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بہاولنگر سوڈا بسی میں مرجع خلافت ہے۔

۱۔ مکتوب جناب حافظ منظور احمد ابن حضرت مولانا خواجہ محمد پرواز دیوبند، نام واقف، محرم یکم اگست ۱۹۷۲ء۔

فاضل محقق حضرت مولانا فتح الدین اذہر انصاری حنفی قادری (خوشاب)

حضرت مولانا فتح الدین اذہر ابن حکیم میاں غلام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ ۱۲۹۱ھ/۱۸۷۴ء میں خوشاب منبع سرگودھا میں پیدا ہوئے، آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسید بن حنیف القاری الصحابی سے ملتا ہے، ابتدائی تعلیم خوشاب میں حاصل کی، منشی فاضل کا امتحان دیا، پھر موران والی مسجد لاہور میں کچھ عرصہ پڑھتے رہے بعد ازاں حیدرآباد، دکن جا کر مولانا انوار الحق سے موقوف و منقول کی تعلیم حاصل کی، انہوں نے آپ کی قابلیت کے پیش نظر اپنی صاحبزادی کا عقد آپ سے کر دیا، مزید تعلیم کے لئے جامعہ اذہر مصر بھی گئے، سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت سید ابراہیم قادری قدس سرہ (بنداشت شریف) سے بیعت ہوئے اور سلوک قادریہ کی منازل طے کر کے اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔

شیخ الدلائل مدنی مولانا شیخ نعمت احمد المعروف بہ عارف اللہ شاہ نقشبندی قادری حنفی سے لائل الخیرات شریف کی اجازت حاصل کی، مروجہ علوم دینیہ کے علاوہ طب میں بھی دسترس حاصل کی۔

امیر عثمان علی خاں والی دکن کے ابتدائی دور میں شاہی طبیب اور قاضی القضاہ مقرر ہوئے۔

دس سال تک اس منصب کے فرائض انجام دیتے رہے پھر ایک گوارا واقعہ کے ظہور پر خوشاب پلے آگئے۔

حضرت مولانا فتح الدین اذہر رحمہ اللہ تعالیٰ تہم عالم دین حق گوارا کر کے تصانیف بزرگ تھے، آپ کی

اکثر و بیشتر تصانیف حیدرآباد دکن سے شائع ہوئیں، چند تصانیف کے نام یہ ہیں:

- ۱۔ مقدمہ تفسیر روح الامیان (تصنیف ۱۳۴۰ھ، مطبوعہ امرتسر ۱۳۴۳ھ/۱۹۲۴ء)
- ۲۔ تفسیر روح الامیان فی تشریح آیات القرآن (۱۳۲۲ھ، مطبوعہ حیدرآباد دکن ۱۳۳۶ھ، پہلا پارہ ۶۶۲ صفحات پر مشتمل ہے)
- ۳۔ الوقت الاسلامیہ (محرّم ۱۳۵۱ھ، مطبوعہ قومی کابینہ ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۳ء، صفحات ۲۳۳)
- ۴۔ شرح ترکیب (دیباچہ گلستان محاشی مفیدہ، مطبوعہ لاہور ۱۳۲۶ھ، صفحات ۵۸)
- ۵۔ کتاب العطايا (علم میراث) مطبوعہ
- ۶۔ خزینۃ المیراث

۷۔ نقشہ انوار الفرائض (مطبوعہ)

۸۔ صفحۃ المصادر العربیہ المعروفہ صرف اذہریہ (قلمی)

۹۔ کتاب الصرف المعروف صرف کبیر

۱۰۔ شجرہ ولایۃ الشہداء (مطبوعہ)

۱۱۔ ترجمہ وحاشیہ دلائل الخیرات صفحہ ۲۳۲

۱۲۔ رسالہ فتاح الدلائل

۱۳۔ قرار انوار و مراداة الاسرار (علیاتی) مطبوعہ

آپ کے تلامذہ کا سلسلہ بہت وسیع تھا، ان میں سے مولانا سید امیر علوی اجیری قدس سرہ اور مولوی غلام مرشد (دیوبندی) کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔

آپ کے چند خلفاء کے نام یہ بھی

۱۔ مولوی حکیم محمد ظریف ابن میاں بہار الدین (برادر زادہ مولانا فتح الدین اذہری) چونکہ مولانا اذہری کے ہاں زینب اولاد نہ تھی اس لئے ان کے وصال پر جانشین ہوئے، صاحب علم و فضل اور بہترین طبیب تھے، ۶۵ سال کی عمر میں ۲۷ شوال ۱۳۹۳ھ کو وفات پائی۔

۲۔ مولوی حکیم مظہر الدین ابن میاں بہار الدین (برادر زادہ)

۳۔ صوفی عبداللطیف، (مجاہد دلائل الخیرات) خوشاب

۴۔ مولانا سید محمد صدیق شاہ، ساکن ڈیرہ غازی خان

۵۔ حضرت مولانا سید امیر علوی اجیری قدس سرہ

۱۶ شوال ۱۲۱۰ جنوری ۱۳۵۶ھ/۱۹۳۶ء کو مولانا فتح الدین اذہری قدس سرہ کا وصال ہوا، آپ کا مزار شریف خوشاب ضلع سرگودھا، مسجد حافظ خان محمد کے شمالی جانب چار دیواری میں محفوظ ہے۔

فرید العصر مولانا فرید الدین رحمہ اللہ تعالیٰ (مجددی ضلع کیمیلپور)

فرید العصر حضرت مولانا فرید الدین ابن استاذ العلماء حضرت مولانا احمد الدین قدس سرہ غالباً ۱۳۲ھ/۱۹۰۶ء میں قصبہ مجددی ضلع کیمیلپور میں پیدا ہوئے، والد ماجد نے اپنے فرزند کا نام فرید الدین رکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ بڑے ہو کر واقعی نیداری علم و فضل اور اخلاق عالیہ میں فرید العصر ثابت ہوئے، آپ کا سلسلہ نسب امام محمد بن حنفیہ کے واسطے سے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے ملتا ہے، آپ کا علمی خاندان پورے علاقے میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔

چار پانچ سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھنے کے لئے گاؤں کی مسجد میں جانا شروع کیا، بعد ازاں مدرس نظامی کی کتابیں اپنے بڑے بھائی استاذ الاساتذہ مولانا صاحب النبی مدظلہ العالی سے پڑھنا شروع کیں، بعض آخری کتابیں مثلاً حمد اللہ شرح سلم وغیرہ والد ماجد سے پڑھیں، کیمیل علوم کے لئے علامہ زماں مولانا مشتاق احمد کانپوری ابن استاذ زماں مولانا احمد حسن کانپوری قدس سرہ کی خدمت میں کانپور حاضر ہوئے، جب علامہ مشتاق احمد جامعہ نعیمیہ مراد آباد تشریف لائے تو دوسرے طلباء کے ہمراہ آپ بھی تھے، پھر جب علامہ مراد آباد سے میر تقی تشریف لے گئے تو مولانا فرید الدین حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمہم اللہ تعالیٰ اور دوسرے طلباء کسب فیض کے لئے ان کے ہمراہ میر تقی چلے گئے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابستاد عربی سے ذہن رسا، تقویٰ و پرہیزگاری اور سلامتی طبع ایسے اوصاف سے نوازا تھا۔ دور طالب علمی میں بھی آپ کی یہ صفات نمایاں رہیں، آپ کے فرزند ارجمند مولانا حسن الدین ہاشمی کا بیان ہے کہ:

۵۔ ایک مرتبہ بلقان کے سفر کے دوران جب میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہم اللہ تعالیٰ کو اپنے والد ماجد کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے اور فرمایا اچھا آپ مولانا فرید کے لڑکے ہیں؟ ہم نہیں

طالب علمی کے دور میں مولانا فرید کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ وہ بہت قابل اور پرہیزگار طالب علم تھے اور اپنے ساتھی طلباء کو حمد و ثناء وغیرہ پڑھایا کرتے تھے۔

میرٹھ سے واپس آ کر کچھ کتا ہیں وال گرامی سے اور زیادہ تر اپنے بڑے بھائی استاذنا العلماء مولانا صاحب النبی دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھیں اور سند حدیث بھی انہی سے حاصل کی۔

تقریباً ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۱ء میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد مدرسہ صلاحیہ بجاورد والا ضلع لائل پور میں معزازی طور پر تدریس کا آغاز کیا اور تمام عمر اس مقدس فریضہ کو انجام دیتے رہے۔ آپ کا زمانہ تدریس بیالیس سال پر پہنچا ہوا ہے جس میں سے زیادہ تر وقت اپنے آبائی گاؤں بھوئی میں گزارا، اس کے علاوہ مختلف اوقات میں جامعہ غوثیہ، گولڑہ شریف، جامعہ محمدیہ بھیرہ، جامعہ رضویہ داربرٹن، دارالعلوم مکتبہ شریف، دارالعلوم ننگ شریف، دارالعلوم لارموسی وغیرہ میں پڑھاتے رہے۔

آپ کو اپنے پیڑ پڑ بھتی اور شیخ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی، اسی طرح ان کے صاحبزادے حضرت پیر سید غلام محی الدین رحمہ اللہ تعالیٰ سجادہ نشین گولڑہ شریف سے بھی بے حد نیاز مندی رکھتے تھے، ان کا حکم کبھی ڈالتے اور ان کے حکم کے مقابل ہر شخص کی بات کو ٹھکرا دیتے تھے، جس مدرسہ میں بھی تدریس کے لئے تشریف لے جاتے پہلے ان سے اجازت لیتے اور جب وہ فرماتے واپس آ جلتے، انہی کے ایما پر آپ کے اکثر و بیشتر اوقات قضیہ بھوئی میں گزارے۔ بعض اوقات آپ کو اس جگہ کا کالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن آپ کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہ آئی۔

آپ منہتی کتب کے ہیں جس میں یومیہ پڑھانے سے ہیں، اس کے باوجود باقاعدگی کے ساتھ ہر کتاب کا مطالعہ فرماتے اور طلباء کو بھی یہی تلقین فرماتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ مطالعہ کے بغیر مدرس خود بے یقینی سے دوچار رہتا ہے، طلبہ کو یقین کی نعمت سے کس طرح بہرہ ور کر سکتا ہے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ سحری کے وقت مختصر اوراد و وظائف پڑھنے کے بعد مطالعہ

کتب میں مصروف ہو جاتے، نماز فجر سے ظہر تک اسباق پڑھاتے اور نماز کے بعد پھر مطالعہ میں محو ہو جاتے، عمر کے آخری حصہ میں ناسازی صبح کی بنا پر اسباق کم کر دئے اور اسی تناسب سے اوراد و وظائف میں اضافہ ہو گیا۔

آپ بنیادی طور پر عالم دین، مہولی اور مدرس تھے اس لئے سیاست کے ساتھ کچھ زیادہ لگاؤ نہ تھا لیکن دو مواقع ایسے آئے کہ آپ سرگرم سیاست ہوئے۔ ۱۹۴۰ء کے انتخابات کے موقع پر آپ نے مسلم لیگ کی پُر زور حمایت کی اور دوسرے لوگوں کو بھی یہی تبلیغ کی جب بعض کانگریسی ذہن کے مولوی قانہ عظیم پر تنقید کرتے تو آپ فرماتے،

۱۰ اس وقت کفر اور اسلام کا مقابلہ ہے، قانہ عظیم ایک مسلمان ہے اور اسلام کا نمائندہ ہے جبکہ گاندھی کا فر ہے اور کفر کا نمائندہ ہے اس لئے اس موقع پر قانہ عظیم کا ساتھ دینا اسلام کا ساتھ دینا ہے اور گاندھی کا ساتھ دینا دانستہ یا نادانستہ طور پر کفر کا ساتھ دینا ہے۔

دوسرا موقع ۱۹۵۳ء میں آیا جب ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر مرزا میوں کے خلاف تحریک ختم نبوت شروع ہوئی آپ نے بڑی تندہی سے اس میں حصہ لیا، تقریریں کیں، جلسوں میں شریک ہوئے، ایک جلسہ آپ کی قیادت میں بھوئی سے حسن ابدال پہنچا، اس وقت تو حکومت نے آپ کو گرفتار نہ کیا لیکن جب راولپنڈی جا کر ایک جلسوں میں شریک ہوئے تو گرفتار کر کے سٹیشن چل بھیجے گئے جہاں اسی تحریک کے سلسلے میں آپ کے فرزند ارجند مولانا حسن الدین لاشمی پہنچ چکے تھے۔

آپ سنایت خوش اخلاق، کم گو، جہاد عالم دین اور متواضع شخصیت تھے، نصیحت اور تنبیہ سے انہیں کوئی واسطہ نہ تھا، سادگی کا پیکر محسوس تھے، ایک فہم دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور تشریف لے گئے اور راقم الحروف سے حمد اللہ پر مولانا احمد حسن کانپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حاشیہ کا ایک سؤ طلب کیا، اس نے نگوا کر دے دیا، اس وقت میرا ان سے تعارف نہ تھا اور چونکہ مدرسہ کے اکثر مشیر و فرادہ بالائیں ہوتے ہیں اور سر پر گڑھی باندھتے ہیں اس لئے

مجھے بہ خیال تک نہ ہو کہ یہ اپنے علاقہ کے بہت بڑے فاضل ہوں گے۔ ان کے چلے جانے کے بعد کسی نے بتایا کہ یہ مولانا فرید الدین تھے۔

اب مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں ان کے شانِ شانِ خاطر و مدارات نہ کر سکا تھا چنانچہ اسی وقت ایک طالب علم کو بھیج کر ان سے واپس تشریف لانے کی درخواست کی چنانچہ آپ بلا تکلف تشریف لے آئے اور فرمایا میرے پاس اس حادثہ کا قلمی نسخہ موجود تھا لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہ حادثہ یہ عجیب گیا ہے تو میں نے سوچا کہ لے لینا چاہئے، ان کے ذوقِ علمی و ربّی نے مجھے بہت متاثر کیا۔

آپ سرورِ دو جہاں، محبوبِ ربّ انیس و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، جب کبھی نعت شریف سنتے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی، اولیائے کرام کا بہت احترام کیا کرتے تھے، جہاں جاتے اہل اللہ کی جستجو میں رہتے۔

یکم صفر، ۱۲۸۵ھ (۱۹۳۱ء) میں آپ کی شادی ہوئی، ۱۲۸۵ھ/۱۹۳۶ء میں مولانا حسن الدین ہاشمی کی پیدائش ہوئی، ڈیڑھ سال بعد ایک اور فرزند پیدا ہوا جو چند ماہ بعد فوت ہو گیا، چند سال بعد آپ کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ نے تھوڑی کی زندگی بسر کی آپ کے تلامذہ ہزاروں کی تعداد میں لیکن جہاں اولاد میں اس وقت صرف مولانا۔ حسن الدین ہاشمی یادگار ہیں۔

۱۳ شوال، ۱۳۰۱ نومبر (۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء) کو صبح آٹھ بجے صبح کی مسجد غوثیہ کے ایک کمرے میں مصروف مطالعہ تھے کہ دل کا شدید دورہ پڑا اور آپ پر سکتے کی حالت طاری ہو گئی، ساڑھے پانچ گھنٹے اسی حالت میں گزر گئے، آخردن کے ڈیڑھ بجے جانِ جاںِ افریقہ کے سپرد کر دی، ۱۵ نومبر کو حسب وصیت والد ماجد مولانا احمد الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے پہلو میں دفن کئے گئے۔

مبلغ اسلام مولانا ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری قدس سرہ

مولانا فضل الرحمن انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے دنیائے اسلام کے باہر نامی مبلغ اور پبلک فرائی شخصیت کے حامل تھے انہوں نے اپنی ساٹھ سالہ زندگی کا اکثر حصہ تبلیغ اسلام میں صرف کیا پاکستان کے علاوہ افریقہ، امریکہ، ایشیا اور یورپ کے مختلف ممالک میں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں نمایاں کام کیا۔ مولانا انصاری اپنی دینی خدمات کی بنا پر عالم اسلام میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، مصر کے نائب وزیرِ منظم ڈاکٹر عبدالعزیز کامل ۱۸ جون ۱۹۷۲ء کو مولانا انصاری کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لئے گئے اور ان کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا:-

”ان کے انتقال سے عالم اسلام ایک جتید عالم، مفکر اور اسلام کے مبلغ سے محروم ہو گیا ہے، میں اسلام کی تبلیغ کے لئے ڈاکٹر انصاری کے طریقہ کار سے بہت متاثر ہوں جو تعلیم یافتہ اور ذہین افراد کو متاثر کرتا تھا“۔

مولانا فضل الرحمن انصاری نے نو عمری میں قرآن پاک حفظ کیا، درسِ نظامی پڑھ کر حاصل کیا اور مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ میں ایک موعظہ تک تعلیم حاصل کرتے رہے، مولانا فرماتے تھے:-

”جامعہ علی گڑھ سے سائنس میں ڈیگری سے انٹر پاس کرنے کے بعد اسلامی عقائد کے بارے میں عجیب و غریب شکوک و شبہات دل میں پیدا ہونے لگے تھے بلکہ ایک وقت تو دماغ انکار پر مائل ہو گیا تھا“

لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، عالم اسلام کے عظیم ترین مبلغ مولانا شاہ محمد عبد العظیم صدیقی قدس سرہ سے ملاقات ہوئی، ان کی نگاہ و کیمیا اثر نے دل و دماغ کی کلیا پلٹ

دی اور فکر و نظر کا دھارا صحیح سمت کو موڑا، جو دل انکارِ اسلام پر مائل تھا، اور بنِ فطرت کی محبت اور عظمتِ مصطلحہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا گوارہ بن گیا۔
پروفیسر محمد رحیم صدیقی لکھتے ہیں:-

”مولانا کی ذات وہ مرکز تھی جہاں عشق و عقل دونوں آکر ملتے ہیں، سیاحِ عالم مولانا حافظ شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی قادری کی چشمِ کرم نے فضل الرحمن صاحب کے قلب و دماغ کو حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے منور کیا تھا، ایک مبلغِ اسلام کی خصوصیات میں بنیادی چیز حضورِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ محبت ہے اور یہ محبت کی پونگاری کسی محبت میں فانی اللہ والے کی نظر سے ہی منتقل ہوتی ہے اور پھر شہد بن کر جسدِ فانی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے تب ہی تو حضورِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کام سے وابستگی اور اس میں جہتِ اہمک پیدا ہوتا ہے۔“

اب نہ صرف مولانا کے خیالات بدل گئے بلکہ وضعِ قطع میں بھی تبدیلی آگئی۔ فیکلٹی آف ٹیپو لوجی میں داخلہ لیا، فلسفہ میں مولانا ظفر الحسن اور دینیات میں مولانا سید سلیمان انصاری کے شاگرد بنے، اول درجہ میں امتحان پاس کیا اور وہ امتیازی مقام حاصل کیا کہ طالبِ علمی ہی میں اساتذہ آپ پر فخر کرنے لگے تھے۔

کراچی یونیورسٹی سے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، پیر و مرشد مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی کے ساتھ دنیا بھر کے تبلیغی دورے کئے اور اپنی سحر انگیز خطابت سے دلوں کی دنیا پر نقشِ اسلام ثبت کیا، پیر و مرشد کے ساتھ پہلے دورہ دنیا کے بعد گزٹڈ مہمند سے استعفار دے دیا اور مکمل طور پر مطالعہ و تبلیغ کے لئے وقف ہو گئے۔ آپ نے دورہ فلپائن کا ایک مشاہدہ بیان فرمایا ہے جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

۱۔ مولانا صدیقی، پروفیسر، روزنامہ جنگ، کراچی، ۲۵ جون ۱۹۷۴ء

۲۔ مولانا

۱۹۵۰ء میں کوتاہا میں شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی ایک عظیم اجتماع سے خطاب فرمانے والے تھے، عین تقریر کے وقت برقِ دباراں کے آثار پیدا ہونے سے مجمع میں اضطراب پیدا ہونے لگا حضرت شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی نے نورِ بصیرت سے معلوم کر کے اعلان کر دیا کہ آپ اطمینان رکھیں بارش نہیں ہوگی، چنانچہ آپ کی دو گھنٹے کی بولبولہ انگیز تقریر کے دوران بارش نہ ہوئی اور بعد میں موسلا دھار بارش ہوئی، یہ آپ کی تین کرامت تھی جس نے بے شمار دلوں کو متحرک کیا۔
مولانا انصاری کا یہ کارنامہ ناقابلِ فراموش ہے کہ آپ نے شمالی ناظم آباد، کراچی میں ایک ادارہ المرکز الاسلامی (ورلڈ ویڈیو ریشن آف اسلامک مشن) قائم کیا جہاں سے زیادہ تر غیر ملکی طلباء بحالاتِ حاضرہ کی ضروریات کے مطابق تبلیغِ اسلام کی تربیت حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں فرائضِ تبلیغ انجام دیتے تھے۔ بقول مولانا انصاری اس ادارہ سے ۴۱ ادارے وابستہ ہیں جو دنیا کے گوشے گوشے میں فرائضِ تبلیغ انجام دے رہے ہیں، خدا کرے کہ مولانا کے لواحقین اس ادارہ کو ان کے مشن کے مطابق چلاتے رہیں۔

مولانا فضل الرحمن انصاری انگریزی میں سحر انگیز تقریر فرماتے تھے۔ یورپ و ارام کیہ کی یونیورسٹیوں میں ممتاز اہل علم کے سامنے آپ نے بارہا تقریر کی اور ہیشمار اہل علم آپ کی تقریر سے متاثر ہو کر حلقہ بگوشِ اسلام ہوئے۔ قدرت نے آپ کو تحریر و تقریر میں یکساں کمال عطا فرمایا تھا۔ آپ نے تقریباً ۲۵ کتابیں دعوتِ اسلام کی تشریح اور افکارِ باطن کی تردید میں انگریزی زبان میں لکھی اور اہل علم سے خراجِ تحسین حاصل کیا، حال ہی میں آپ کی ایک تصنیف دو ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی ہے جسے انگریزی دان طبقہ نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ آپ جینیٹہ الفلاح، کراچی کے رسالے والٹس آف اسلام کے پہلے ایڈیٹر تھے، آپ کی نگرانی میں انگریزی زبان میں ماہنامہ مناظر شائع ہوتا تھا جو دو فیئ مضمین پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔

۱۔ اراکادی والاوی، ۳ جون (۱۳۹۴ھ/۱۹۷۴ء) بروز سوموار دس بجے دن مولانا

فضل الرحمن انصاری کا حرکت قلب بند ہوجانے سے انتقال ہوا، نماز جنازہ مولانا سید محمد کریم عیوبی نے پڑھائی۔ آپ کا مزار امرکرا اسلامی شمالی ناظم آباد کراچی کے علاقے میں بنایا گیا ہے۔ آپ نے ایک فرزند ایک بیویہ اور چار صاحبزادیاں یادگار چھوڑیں۔ آپ مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی کے رفیق فیض یافتہ اور فیضانہ مجاز تھے بلکہ داماد بھی تھے۔

جامعہ کراچی اور سندھ کے بانی شیخ الجامعہ پروفیسر سید بی اسے عظیم نے جنینیت الفلاح میں مولانا انصاری کی یاد میں ایک تعزیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا:-

"مولانا انصاری تمام مذاہب اور مشرقی و مغربی علوم کے ماہر تھے، انہوں نے اسلام کو بہترین شکل میں پیش کیا، ان کا مشن کامیاب رہا اور بہت سے غیر مسلم ان کے خصوصیت اور جذبہ کو دیکھتے ہوئے اسلام لے آئے ان کے دل میں سلام اور ملک کی محبت تھی اور انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ اسلامی دنیا میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔"

پروفیسر محمد حسین صدیقی نے کہا:-

"غیر مسلم ان کی علمی بعیت کے اس قدر مداح تھے کہ ان کو گریٹ ٹفٹنگ کا خطاب دیا گیا، وہ کوئی سیاسی شخصیت یا سرمایہ دار نہیں تھے لیکن عالم اسلام میں لاکھوں افراد کے دلوں میں ان کا ایک مقام ہے۔"

ماہر نامہ فکر و نظر میں ہے:-

"ڈاکٹر انصاری نے ملک و برہن ملک خصوصاً افریقی اور ایشیائی ممالک میں وسیع پیمانہ پر تبلیغی کام کو منظم کیا تھا وہ بیرونی ممالک میں قائم شدہ اسلامی مشن کے وفائی کے بھی سربراہ تھے اور اس حیثیت میں متعدد ممالک کا دورہ کر چکے تھے، آپ کی تصانیف میں معاشرہ کی قرآنی بنیادیں نمایاں مقام رکھتی ہے، یہ کتاب انگریزی

لکھ روزنامہ تجارت، کراچی، ۵ جون ۱۹۷۳ء

لکھ ای۔ بی۔ ایس۔ عظیم، پروفیسر، روزنامہ تجارت، کراچی، ۲۵ جون ۱۹۷۳ء

لکھ ایبٹا، ص ۱

زبان میں ہے اور دو جلدوں پر مشتمل ہے، عصر حاضر کے اسلامی لٹریچر میں یہ

کتاب ایک بہت ممتاز حیثیت کی مالک ہے۔"

مشہور شاعر ماہر القادری نے گھر سے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی وفات کو ملت اسلامیہ کے لئے عظیم سانحہ قرار دیا، انہوں نے کہا کہ مرحوم کی تبلیغی، علمی اور دینی خدمات ناقابل فراموش ہیں اور مرکز اسلامی ان کے افلاس اور علمی جدوجہد کا زندہ ثبوت ہے۔

جناب راجب مراد آبادی نے قلم تارخ کہا

تبلیغ سے بلند کی اسلام کی شان

تعلیم کی شمعیں بھی جلائیں ہر آن

پوچھو کوئی مہمانِ علم دیں سے

جو لاکھ علم دیں تھے فضل الرحمن لکھ

آرزو اکبر آبادی نے یہ قلم تارخ وصال لکھا

وہ مبلغ تھے زالی شان کے اہل دل کو ہے انہی کی جستجو

ہائشین حضرت عبد العظیم جن کی شہرت ہے جہاں میں چارٹو

دامن رحمت میں جا کر سو گئے عابد حق فضل رحمان آرزو لکھ

۱۳ ۶ ۹۳

لکھ ماہنامہ فکر و نظر، اسلام آباد، جون ۱۹۷۳ء، ص ۸۱

لکھ روزنامہ تجارت، کراچی، جون ۱۹۷۳ء

لکھ روزنامہ جنگ، کراچی، ۱۵ جون ۱۹۷۳ء

لکھ ایبٹا، جون ۱۹۷۳ء

صدر المشائخ مولانا فضل عثمان فاروقی مجددی قدس سرہ

مجاہدیت، صدر المشائخ حضرت مولانا پیر فضل عثمان مجددی ابن حضرت نور المشائخ مولانا فضل عمر المعروف بہ ملا شور بازار (متولد ۱۳۰۲ھ / ۱۸۸۵ء، متوفی ۱۳۷۶ھ / ۱۹۵۰ء) قدس سرہ جا ماہ جمادی الاولیٰ، اگست (۱۳۱۹ھ / ۱۹۰۱ء) میں شور بازار کابل میں خاندان مجددیہ میں پیدا ہوئے آپ کے ہجرتی سلسلہ عالیہ مجددیہ کے بزرگ بزرگ حضرت مولانا غلام قدیم قدس سرہ نے آپ کی پرورش فرمائی۔ سن شعور کو پہنچنے پر شور بازار کابل کے مشہور مدرسہ مجددیہ میں داخل ہوئے اور اپنے دور کے ممتاز افاضل سے علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی۔ منازک سلوک طے کرنے کے لئے والد گرامی حضرت نور المشائخ کے دست اقدس پر طریقتہ نقشبندیہ مجددیہ معصومیہ میں بیعت ہوئے اور علحدگی خلافت و اجازت سے شرف ہوئے۔

دوسری جنگ عظیم میں والد ماجد کے ہمراہ جنوبی افغانستان میں تل کے مقام پر انگریزوں کے خلاف عملی جہاد میں حصہ لیا۔ ۱۰ حضرات کی برکت اور فضل ایزدی سے انگریزوں کو شکست تسلیم کرنا پڑی اور افغانستان کو حقیقی آزادی نصیب ہوئی۔ جب پچھتر سفر نے غازی امان اللہ کے خلاف بغاوت کی تو حضرت صدر المشائخ پیر فضل عثمان افغانستان کے شمالی علاقہ ترکستان میں مقیم تھے۔ آپ نے باغیوں کے خلاف جنرل غلام نبی خاں سے مکمل تعاون کیا۔ ترکستان میں پچھتر کے گورنر مولا محمد نے حضرت صدر المشائخ کو قید کر دیا اور جبر و تشدد کے ذریعے پچھتر کی حمایت پر مجبور کیا، آپ نے واضح طور پر فرمایا:-

”وہ بیٹرس اور غاصب کو کسی قیمت پر بھی مسلمانوں کا بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے، بدطینت پچھتر کے سامنے کبھی بھی اپنا سر نہیں جھکا نہیں گئے“

گورنر مولا محمد نے آپ کے ناقابل شکست خیالات سے آگاہ ہو کر پچھتر کی حکم دے دیا اسی آئنا میں جنرل غلام نبی خاں نے زبردست حملہ کر کے مزار شریف، بلخ اور ترکستان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح آپ بفضلہ تعالیٰ محفوظ رہے، چند دن بعد غازی امان اللہ نے اقتدار سے دستبردار ہونے کا پیغام بھیج دیا اس سے حضرت صدر المشائخ نے افغان معززین کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ تاشقند کا عزم کیا۔ حکومت روس نے یہ پابندی عائد کر دی کہ آپ تاشقند کے علاوہ نہ تو کسی جگہ قیام کر سکتے ہیں اور نہ نقل و حرکت کی اجازت ہے۔ آپ نے اہل دیوبند سمیت آٹھ ماہ اس پابندی میں گزارے، اتنے میں نادر شاہ نے پچھتر کی حکومت کا تختہ الٹ کر بادشاہت قائم کرنی اور آپ کو کابل بلا کر وزارت انصاف (عدلیہ) میں اصلاح امور شریعیہ کا رکن نامزد کر دیا۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ یہ وزارت اپنے فرائض کا حقدار نہیں کر سکتی تو مستعفی ہو کر ارشاد و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔

۱۹۳۸ء میں جب یہودیوں نے فلسطین کے عرب مسلمانوں پر حملہ اور ہو کر انہیں بے دخل کرنا شروع کیا تو حضرت صدر المشائخ نے اپنے والد ماجد کے ساتھ مل کر پورے افغانستان کا دورہ کیا اور لاکھوں روپے جمع کر کے مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی کے توسط سے مظلوم مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لئے بھجوائے۔

حضرت نور المشائخ مولانا فضل عمر قدس سرہ نے جب غزنی میں ایک دینی ادارہ نور المدارس کے قیام کا ارادہ کیا تو حضرت صدر المشائخ نے بے پناہ کوشش سے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور ایک عرصہ تک اس مدرسے کے نائب صدر رہے۔ تحریک خلافت کے سلسلے میں مولانا محمد علی جوہر اور دوسرے لیڈروں نے افغانستان کا دورہ کیا تو آپ نے پورا پورا تعاون کیا، تحریک پاکستان کی حمایت میں آپ نے تمام مریدوں کو خاص ہدایات جاری کیں چنانچہ آپ کی تحریک پر قبائلی اور پوہندہ افغانوں نے کشمیر کے محاذ پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد افغانستان اور پاکستان کے درمیان بعض عناصر کے پیدا کردہ اختلافات کو ختم کرنے کے لئے آپ نے مسلسل جدوجہد کی اور کوشش نامہنت جاری رکھی۔

۱۳۷۶ھ/۱۹۵۶ء میں حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ واپسی پر جب کراچی پہنچے تو حسین شہید سہروردی، فیروز خاں نون اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے اعلیٰ افسروں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر آپ نے دوران تقریر آزادی کشمیر کا اعلان فرما دیا اور کہا کہ ہم اس تحریک کے لئے جہاد کو جاری رکھیں گے۔

بعض مریدین کی خواہش پر آپ نے دہلی، کانٹھیا واٹر، ممبئی، کلکتہ اور مشرقی پاکستان کا دورہ کیا اور حاجی عالم اسلام اور افغانستان و پاکستان کے اتحاد پر زور دیا اس دورے سے واپسی پر جب کراچی میں افغانستان کے سفارتخانے میں پاسپورٹ پیش کیا تو سفیر نے حکومت افغانستان کے اقلیتی حکم کی بنا پر پاسپورٹ کی تجدید یا توسیع سے انکار کر دیا۔ ان حالات میں آپ نے ایک سال کراچی میں قیام فرما کر گلبرگ ٹاؤن میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ نو سال بعد جب حالات معمول پر آئے تو آپ نے اہل دعویٰ کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔

مکرمی پروفیسر محمد مسعود احمد مدظلہ نے آپ کے پاکستان قیام کا سبب یوں تحریر فرمایا ہے۔

”جس زمانے میں افغانستان میں عروایت اور غیر شرعی امور کی ترویج ہوئی تو آپ نے سخت ممانعت کی چنانچہ اسی وجہ سے آپ ترک وطن پر مجبور ہوئے اور پاکستان میں قیام فرمایا۔“

صدر پاکستان محمد یوسف خاں نے آپ کی بڑی قدر و منزلت کی ”سلسلہ

۱۹۶۵ء اور ۱۹۷۱ء میں جب ہندوستان نے اعلان جنگ کے بغیر پاکستان پر حملہ کیا تو حضرت صدر المشائخ نے اپنے تمام مریدین کو اس جہاد میں شریک ہونے کی تلقین فرمائی چنانچہ قبائلی علاقہ کے مہاراجہ نے آپ کی آواز پر لبیک کہی اور ہر عمارت پر سر فرود شانہ خدمات انجام دیں۔ غرض یہ کہ آپ نے اپنی تمام زندگی عام بیروں سے صلحت گزاری اور ہمیشہ اعلیٰ ظرفی اور عالم اسلام کے اتحاد کی کوشش کرتے رہے۔ جیہیہ علماء و پاکستان کی

سلسلہ محمد مسعود احمد پروفیسر: تذکرہ مظلوم مسعود (مطبوعہ کراچی، ۱۹۶۹ء) ص ۴۲۸

ہمیشہ سر پرستی فرماتے رہے۔ آپ کے مریدین کا علاقہ افغانستان اور پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے۔

۱۵ ربیع الاول، ۱۸ اپریل (۱۳۹۳ھ/۱۹۷۳ء) کو دن کے ایک بجے ابرٹ دکنر ہسپتال میں اہل سنت کے محبوب رہنما حضرت صدر المشائخ پیر فضل عثمان مجددی قدس سرہ کا وصال ہوا۔ ۱۹ ربیع الاول کو ایک خاص چارٹرڈ طیارے کے ذریعے آپ کے جسد مبارک کو کابل پہنچا دیا گیا جہاں آپ کو آپ کے والد ماجد کے مزار انور کے سپرد میں خانقاہ عالیہ مجددیہ، قلعہ جواد میں دفن کر دیا گیا۔

مولانا سید شریف احمد شرافت مدظلہ العالی نے قلعہ تاربخ وصال کہا سے

شد ز دنیا چون سوئے دارالغد	آن شمشاد زوہ نقلین
نسل پاک محمد سرہند	ابن فضل عمر حسین
آنکہ صدر مشائخ دیں بود	محمم رانہ سید کونین
فیض و رشکش بہ کابل لاہو	فخر فاروق و مقرر بطنین

سال ترحیل دے شرافت گفت
”فضل عثمان، قسبہ دارین“

۴۳ ۲ ۱۹

ولہ ایضاً

بگو ترضیص آن فخر المشائخ
کہ محبوب جہاں صدر المشائخ

۹۳ ۵ ۱۳

سلسلہ تمام وصایا تذکرہ مظلوم مسعود کے حوالے کے علاوہ ”تذکرہ حیات حضرت صدر المشائخ فضل عثمان مجددی“

مرتبہ مولانا سید محمد ذالمن مجددی، (مطبوعہ کراچی، ۹ جولائی ۱۹۷۳ء) سے اخذ ہے۔

دیگر مادہ تاریخ

حاجی ادی غفرہ اللہ " لے

۹۳ ۱۳

حضرت مولانا فضل عثمان عابدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد ان کے فرزند ارجمند پیر فضل الرحمن عابدی مدظلہ (متولد ۲۲ ربیع الاول ۱۳۵۴ھ / ۱۹۳۵ء) کو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا سید ابوالبرکات قادری مدظلہ العالی نے پاکستان اور افغانستان کے علماء و مشائخ کی متفقہ رائے سے بدرالمنہج کا خطاب دیا اور دستار بندی کرائی گئی۔

لے مکتوب گرامی مکتوبیہ مولانا غفرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے

لے ایس ایم ناز : اپنا مدعا کایت (اکتوبر ۱۹۷۵ء) ص ۱۳۸۔

امام الکاملین حضرت خواجہ فقیر محمد قدس سرہ (چوہہ شریف)

حضرت خواجہ خواجہ بگاں فقیر محمد ابن حضرت خواجہ نور محمد قدس سرہما اپنے دور کے کاوشگر و متبحر تھے۔ آپ کا لقب حاجی گل تھا اور عام لوگ عقیدت و محبت سے باہمی صاحب کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ کی ولادت بسعدت تیزی شریف مضافات تیرہ میں ہوئی۔ ولادت کے بعد چار ماہ حضرت خواجہ محمد فیض اللہ تیرہی قدس سرہ کو بہت چلا کہ آپ دودھ نہیں پیچھے آپ شریف لائے اور فرمایا: یہ بھی ہے اپنا صاحب کے لئے یہ چہا چہا پنی زبان مبارک نور و پچھے کے منہ میں ڈال دی جسے حضرت خواجہ فقیر محمد دیر پاک چوستے رہے اور اس کے بعد اللہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ محمد فیض اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لڑکا کلاہ کلاہ ہو گا اور اس کے وجود سے خلق خدا کو بہت فیض پہنچے گا۔

حضرت خواجہ فقیر محمد قدس سرہ نے تمام ظاہری اور باطنی علوم حضرت والد ماجد سے حاصل کئے، بہن ہی سے آپ کی طبیعت کا میلان ذکر و فکر کی طرف تھا، علم و عرفان کے انوار نے اس شوق کو اور جلا دی۔ آپ شریعت مطہرہ کی اس قدر پابندی فرمایا کرتے تھے کہ سنت مبارک سے سر موٹنا فوراً کرتے تھے، مگر بارہا اور مساکین خاص طور پر آپ کی شفقت و عنایت سے بہرہ ور ہوا کرتے تھے۔ ۲۰ سال کی عمر میں والد ماجد نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ آپ کے درجو سے ۲۰ سالہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی بے پناہ اشاعت ہوئی، آپ کے حلقہ ارادت میں بڑے بڑے فضلاء اور کاظمین داخل ہوئے جو آپ کے فیض صحبت سے آسمان علم و عرفان کے آفتاب ماہتاب بن کر چمکے، ان میں سے امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری، حضرت سید جماعت علی شاہ لاثانی، حضرت مولانا حافظ عبدالکریم (دادا پوٹھی)، مولانا غلام محمد کجوری، مولانا حسن محمد (گجرات)، مولانا غلام محی الدین (باولی شریف)، مولانا حافظ محمدین (دنگچو) وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ سہایت مشہور بزرگ گزرے ہیں۔

حضرت خواجہ صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم الطبع اور نکسر المزاج شخصیت کے مالک تھے

مریدین کو دوست یا یار کہہ کر یاد فرمایا کرتے تھے مرید کا لفظ استعمال نہ کرتے تھے، بیعت کے وقت مختلف مواقع پر درج ذیل اشعار پڑھا کرتے تھے۔

یا رسول اللہ انظر عبادنا	یا حبیب اللہ اتبع قاتنا
انہی فی بحسب غم مفرق	غذایی سہل ن اشکلنا
ہر دم خدار ایدکن و کما تمکلیں شادکن	بیل صفت فریادکن مشغول شور و ذکر ہو
ناغلی کفر است پنہاں در وجود آدمی	
ایں چنینی کافر شدن حاجت زنا نیست	

آپ صاحب کرامات و خوارق تھے، آپ ایک گاؤں میں تشریف لے جایا کرتے تھے جہاں دو چار گھروں کے مواسب شبیر تھے، آہستہ آہستہ وہ لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہونے لگے دو تین سال کے عرصے میں پورا گاؤں صحیح العقیدہ مسیحی ہو گیا۔

۲۹ محرم الحرام، یکم جولائی ۱۳۱۵ھ / ۱۸۹۷ء بروز جمعرات بوقت عصر سو سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، آپ کا مزار پر انوار چورہ شریف ضلع کیمبلپور میں مرجع نام ہے۔ ہر سال ہوس کے موقع پر پیشیاد مریدین اور معتقدین آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، مادہ تاریخ وصال "غفرلہ" (۱۳۱۵ھ) ہے۔

سہ ماہ الدین نقشبندی، جہاں نقشبندی، ص ۲۳۰ - ۲۲۴

فاضل حلیل مولانا فقیر محمد جلیلی رحمت اللہ تعالیٰ (مولف حقائق نقشبندیہ)

حضرت مولانا فقیر محمد جلیلی ابن حافظ محمد سفارش ۱۲۶۰ھ / ۱۸۴۳ء میں ہجرات کی آیت کو موضع چٹن (جہلم کی مغربی جانب دو میل کے فاصلے پر واقع ہے) میں پیدا ہوئے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد میاں قطب الدین موضع ٹالیانوالہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے پھر مولانا نور محمد (موضع کھائی کوٹلی ضلع جہلم تلمیذ مولانا رحمت اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کئی سال تک استفادہ کرتے رہے اور صرف، نحو، فقہ اور دیگر علوم کی کتابیں پڑھیں، بعد ازاں راولپنڈی جا کر مولانا عبد الکریم اور مولانا محمد حسن فیروزوالہ سے تعلیم حاصل کی۔ ۱۳۰۶ھ میں دہلی گئے پہلے مولوی نذیر حسین دہلوی کے پاس پنجابی کٹرہ میں پہنچے، انہوں نے عذر کیا کہ ہم معقولات نہیں پڑھا سکتے اس لئے مولانا مفتی محمد صدرا الدین خاں آزدہ، صدر الصدور دہلی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ڈیڑھ سال کے عرصے میں کتب متداولہ پڑھیں۔ ۱۳۰۷ھ میں وطن واپس چلے آئے اور کچھ عرصہ بعد مولانا کریم النبی (م ۱۳۸۲ھ) کی خدمت میں لاجپور پہنچے اور استفادہ کیا انہی دنوں فن خطاطی سیکھنے کا شوق پیدا ہوا چنانچہ باقاعدہ یہ فن حاصل کر کے مطبع آفتاب پنجاب لاہور میں کتابت کا کام کرنے لگے۔

۱۲۸۳ھ میں مناظر اسلام مولانا حافظ ولی اللہ لاہوری قدس سرہ کا پادری عماد الدین سے امرتسر میں مناظرہ ہوا تو مولانا فقیر محمد رحمت اللہ تعالیٰ کو بھی رد عیسائیت کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ حافظ صاحب مرحوم سے استفادہ کر کے اس فن میں مہارت حاصل کی مولانا فقیر محمد نے عیسائیت اور عقائد باطلہ کے رد میں معتد بہ کلام کیا اور تمام عمر علم و ادب اور مذہب کی خدمت میں صرف کردی۔ ۱۳۰۱ھ تک اخبار آفتاب پنجاب کے ایڈیٹر رہے۔ ۱۳۰۲ھ سے جہلم میں اپنے نعت جگر محمد سراج الدین کے ہم مطبع سراج المطابع قائم کیا اور اخبار سراج الاخبار جاری کیا، اس اخبار نے اپنے دور کے اعتقادی فتنوں کو ختم طور پر فتنہ عمر زائیت کی تردید کے لئے بڑا کام کیا۔

مولانا کو تصنیف و تالیف سے خصوصی لگاؤ تھا، انہوں نے اہم کتابیں یادگار چھوڑیں جن میں علمی طبقہ میں بہت وقت کی نظر سے دیکھا گیا، تصانیف کے نام یہ ہیں :-

- ۱۔ اردو ترجمہ تصدق المسیح
- ۲۔ عاشقہ صیانتہ الانسان من وسوسۃ الشیطان
- ۳۔ عاشقہ اباحت مزوری (ہر دو تصانیف مناظر اسلام حافظ ولی اللہ لاہوری)
- ۴۔ تلمذہ باحسد دینی (مناظرہ ماہین مناظر اسلام مولانا حافظ ولی اللہ لاہوری و پادری علماء الدین)
- ۵۔ زبدۃ الاقوال فی ترویج القرآن علی الالہامیوں
- ۶۔ رسالہ آفتاب محمدی
- ۷۔ عمدۃ الابحاث فی وقوع انطلاقات الثلاث (اس امر میں کہ تین طلاقیں بیک وقت واقع ہوجاتی ہیں، ایک غیر منقولہ کے شکوک و شبہات کا جواب)
- ۸۔ عدالت الخفیہ (حقیقی علماء کا تذکرہ) وغیرہ وغیرہ، اس کتاب کو سب سے زیادہ شہرت ملی ہے
- ۹۔ السیف الصارم لکنکشان الامام الاعظم

مولانا فقیر محمد جہلمی رحمہ اللہ تھکے کا وصال ۱۳۳۵ھ / ۱۹۱۶ء میں ہوا ہے

سالہ فقیر محمد جہلمی، مولانا، عدالت الخفیہ، معہہ ذیل کتب و کتب، ۱۳۳۵ھ / ۱۸۸۶ء میں ۵-۶۹۳

سالہ علمی اور ادبی مکتبہ مولانا محمد جہلمی، سرسری، مغلذامان

علامہ زمن مولانا فیض الحسن فیض جہلمی رحمہ اللہ تھکے

ادیب بیکانہ، فاضل اجل مولانا فیض الحسن ابن مولانا علامہ محمد حسن فیضی قادری سدہما ۲۷ جمادی الاول، ۶ اپریل (۱۳۰۰ھ / ۱۸۸۳ء) کو بمقام بھین تحصیل چکوال (مطلع جہلم) میں پیدا ہوئے، علوم دینیہ کی تحصیل اپنے والد ماجد فاتح قادری نیت مولانا محمد حسن فیضی سے کی، ۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۷ء میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا، آپ ایک مہرصہ تک لاہور کی مشہور دینی درس گاہ جامعہ نعمانیہ میں مدرس رہے، امیر حزب اللہ پیر سید فضل شاہ جہلمی آپ کے تلامذہ ہیں سے تھے۔

مولانا فیض الحسن رحمہ اللہ تھکے اپنے والد گرامی کی طرح ادب عربی کے منیظیر فیاض اور قادر الکلام شاعر تھے، امام الائمہ مالک الازمہ، سراج الائمہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں ایک قصیدہ شعر بیکے چند اشعار ملاحظہ ہوں :-

کیف اثنی بجل من اثناء	مل فی وصفہ حجتی العلماء
جل عما نقول فیہ کما جل	باوصافہ عن النظرار
امامنا بل امام کل امام	ورکن قصر الشریعۃ الغراء
حیوۃ دین ابوحنیفۃ حیز	المکرمات وسند الہمفیلو
کان واللہ روضۃ الدین فی	الغبراء اغصان علی الخضراء
قمر الفلک افضل کل یوم	ولذاک السکون وسط سلمو
لابہ افتاح وان لا	یبصر الفضل مقلتہ عمیاء

تمم النظم ایہا القیث استغفر

لما قد جنیت من اخطاء لہ

ترجمہ: "میں ان کی کیسے تعریف کروں وہ تو تعریفوں سے بلند ہیں، ان کی تعریف میں اہل علم کی عقول عاجز ہیں۔" وہ ہماری تعریف و توصیف سے بلند ہیں جیسے صفات میں اپنے معاصرین پر فائق ہیں۔ وہ ہمارے بلکہ ہر امام کے امام ہیں اور قصر شریعت کے ستون ہیں۔ ابوحنیفہ دین کی زندگی، فضائل کا منبع و دارِ اہل صفا کے لئے مرجع ہیں۔ بخدا آپ دین مبین کا ایسا بارخ تھے کہ جنگل میں ہونے ہوئے اس کی شاخیں آبادی پر چھپائی ہوئی تھیں۔ مسلمان کا چاند ہر دن ڈوب جاتا ہے لیکن امت مسلمہ کا چاند آسمان کے وسط میں قائم و دائم رہتا ہے۔ وہ چاند (امام ابوحنیفہ) گرمی کی آفت سے محفوظ ہے اگرچہ اندھی آنکھ اس کی فضیلت کو نہ پاسکے۔ اسے فیض اپنی نظر منکمل کر اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ۔"

مولانا فیض الحسن کو اپنے والد ماجد کی طرح شیخ الاسلام و المسلمین حضرت پیر سید مہر علی شاہ گورکھوی قدس سرہ سے والہانہ عقیدت تھی چنانچہ انہوں نے ایک عربی قصیدہ میں گھمائے عقیدت اس طرح پیش کئے ہیں جیسے ایک مرید صادق اپنے مرشد کا اہل کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، فرماتے ہیں:-

ایا من لك الحسنى وانت مدارها
اليك المعالي والمكارم تنسب
لعمري انت الفردى الجود والحقى
واوحدى الاقران جبر مدرب
وكو مدعى للعقر من غير حجة
ويجدهم للجبال مكو ويخيل
واكسنى الناس حظك واخر
حبيت من الرحمن رشدا وبركة
ومن جارير حرم جنابك يفترب
وفى يدك اليمى كمومى هداية
وطالبها يسغى اليها ويشرب

ووجهك ميمون وفيه شهادة
بانك خير لخب طرا وانجب
من السادة الاخيار كانوا اعزة
بمرضاتك كل يعجى ويذهب
ورثت من الابرار فخلو سوددا
وهنتك العليا ونفسك تكسب
وامك سفير الامم ببل غاية المنى
وروايك احدى فى العقاد واعذب
وشمس سموات تروح وتفتدى
وشمس على شمسنا ليس تغرب
امولاهى هل نظرت الى متكرما
ونفسى فى العصيان تسغى تذاب
وهل كان لى فى كاسك الخيرة شوية
افوز بها ام اسنى اتخيب
الست من القوم الذين يمينهم
بمزين فيوضات قسيل وتسكب
ولم اتكلف فى مدحك اسنى
اروت فجزا ائيل اهل و اكتب
كما انه نظمى عجيب باسره
كذلك وربى انت فى الخلق اعجب
وحاجات نفسى والاله كثيرة
فختام يامولاهى فيها اعذب
ومثلك يرعى فى الامور حلها
ونفزع اليه كلما انتهيب

خوب لی بہا ابغی وانک نعلو

وغيضك بين الناس يهوى يذهب

(ترجمہ) اسے مدوح! آپ حسنات و برکات کے جامع اور محور ہیں فضائل

کمالات آپ کی طرف ہی منسوب کئے جاتے ہیں۔ مجھ اپنی

زندگی کی قسم آپ تقویٰ و بزرگی میں بے مثل اور معاصرین میں بے نظیر

بلند پایا عالم ہیں۔ بہت سے لوگ کسی دلیل کے بغیر فقر کے

بدعی ہیں اور جاہلوں کو مکر و فریب سے لوستے ہیں۔ لیکن

سلسلہ جو صاحب مدوح کا نام مبارک مہر علی شاہ صاحب تھا اور قاری میں مہر شمس کو کہتے ہیں اس لئے

شریح شمس علی "کہا، جو لطف سے خالی نہیں، ۱۲ فیض

سے انتخاب مغرب سیارہ، ص ۱۹۹۔

تمام لوگوں میں فقر کے اعتبار سے آپ کو دوا حصہ ملا ہے اور آپ کی
 کوشش و ہمت ہر دن بلند سے بلند تر ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ
 نے رشد و برکت سے نوازا ہے اس لئے آپ کا فعل پاکیزہ ہے
 جو شخص بھی آپ کے دربار میں آئے وہ امید سے
 کہیں زیادہ ہمارا ہو کر لوٹا۔ آپ کے متبرک لہجے میں ہدایت
 کے جام ہیں، ہدایت کے طالب آتے ہیں اور ان سے سیلاب ہونے
 ہیں۔ آپ کے چہرہ انور میں زمین و برکت اور اس بات کی
 شہادت ہے کہ آپ ہر انتخاب سے بہتر اور صاحبِ عزت سادات
 اختیار سے نجات میں فائق ہیں اور ہر شخص کی آمد و رفت آپ کی ضمانت
 سے ہے۔ آپ کو فخر اور سیادت آبار سے ورثہ میں ملی ہے
 آپ کی ہمت بلند اور ذاتِ اقدس کریم ہے۔ آپ کی زیارت
 کا قصد بہترین مقصد بلکہ نسا کے آرزو ہے اور آپ کی زیارت میں دل
 کے لئے لذت و مسرور ہے۔ آسمان کا سورج کبھی طلوع
 اور کبھی غروب ہوتا ہے جبکہ مہر علی ہمارا وہ آفتاب ہے جسے
 غروب نہیں ہے۔ آقا کیا آپ مجھ پر نظرِ کرم فرمائیں گے
 میرا نفس گناہوں میں کوشاں اور منحوس ہے۔ کیا آپ کے خیر و
 برکت والے جام میں میرا حصہ ہے۔ مجھے بھی حصہ لے گا یا میں محروم
 ہی رہوں گا؟ کیا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں
 جنہیں آپ کے فیوضاتِ عامہ کے بادل سے نوازا جاتا ہے۔
 میں نے آپ کی مدح میں تکلف سے کام نہیں لیا بلکہ میرے ارادہ
 کرنے پر جبریل امین مجھے لکھانے جا رہے ہیں اور میں کھٹنا جا رہا ہوں
 جس طرح میری نظم تمام تر عجیب ہے اس طرح آپ تمام
 مخلوق سے منانیت عجیب ہیں۔ بخدا میری حاجتیں کبتر

ہیں، آقا! میں ان کے غذاب میں کب تک جلتا رہوں گا۔
 آپ ایسی شخصیت ہی سے تمام امور کے حل کی توقع کی جاسکتی ہے، کوئی
 بھی تکلیف ہو ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میری آرزو
 پوری کیجئے جسے آپ جانتے ہیں، آپ کا فیض لوگوں میں عام ہے
 جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔

مولانا فیض الحسن فیض نے متعدد کتابوں کا اردو ترجمہ کیا، اس وقت جن کتابوں
 کے نام معلوم ہو سکے ہیں، یہ ہیں :-

- ۱۔ علم الکلام از امام غزالی قدس سرہ
 - ۲۔ تفسیر الاحادیث از امام عبدالرؤف مناوی قدس سرہ
 - ۳۔ حقائق الاخبار از محمد صادق فرغانی
 - ۴۔ سیرت محمد عربی (علیہ السلام) از جمال ستانی (مفکر روس)
- ان کے علاوہ انسائیکلو پیڈیا، شائع کردہ پیپلز اخبار، لاہور کی تدوین و ترتیب
 میں آپ کا بہت بڑا حصہ تھا۔

جمادی الاولیٰ، نومبر (۱۳۴۷/۱۹۲۸ء) میں اس عظیم القدر علامہ کا وصال
 ہوا اور اپنے آبائی گاؤں بھیل تحصیل چکوال (ضلع جہلم) میں خواستہ اجازت ابدی ہوئے لے

لے یہ حالات اس کتاب میں قلمبند کیا گئے ہیں ان کے علاوہ کوئی سید نور محمد قادری زید مجدہ نے فراہم کئے۔

استاذ العلماء مولانا محمد قدیر بخش بدایونی قدس سرہ

حضرت مولانا علامہ محمد قدیر بخش ابن مولانا مفتی حافظ بخش رحمہما اللہ تعالیٰ ۱۳۰۷ھ/۱۸۸۹ء میں آنورہ (مضافات بریلی) میں پیدا ہوئے، والد ماجد نے تاریخی نام منظور العلیب (۱۳۰۷ھ) کو پزیر کیا۔ درس نظامی کی اکثر و بیشتر کتابیں مدرسہ شمس العلوم، بدایوں میں حضرت والد ماجد سے پڑھیں شرح جامی کی ابتدا مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی قدس سرہ سے کی اور بعض درسی کتابیں بھی ان سے پڑھیں۔ ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء میں حضرت تاج العجل شہ عبدالقادر بدایونی قدس سرہ کے مدرس کے موقع پر سند اور دستاویزیلیت حاصل کی، بعد ازاں حکیم سید حسن مراد آبادی نے وسال میں طلب کی کتابیں پڑھیں۔ ۱۹۱۲ء میں مدرسہ شمس العلوم، بدایوں میں مدرس مقرر ہوئے، ۱۹۲۰ء میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا، ۱۹۲۴ء میں مدرسہ تعلیم الاسلام سے پورے میں صدر مدرس مقرر ہوئے اور ۳۲ سال تک زمرت محنت و جانفشانی سے علوم دینیہ پڑھائے بلکہ سماجی اور اصلاحی کاموں میں بھی گرانقدر خدمات انجام دیتے رہے۔

حضرت علامہ مولانا محمد قدیر بخش قدس سرہ ۱۹۵۶ء میں مستقل طور پر پاکستان (حیدرآباد، سندھ) تشریف لے آئے اور یہیں آپ کا وصال ہوا۔ تمام زندگی آپ کا مقصد علوم دینیہ کی اشاعت رہا،

پروفیسر محمد ایوب قادری کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :-

"میری زندگی کا نصب العین علوم دین کی اشاعت ہے، بھگوان اللہ تعالیٰ میں اپنے اساتذہ کے مسلک کے مطابق اس باب میں جو وجد عمل میں لادیا ہوں، میں نے درس نظامی کے مروجہ نصاب کی ہی تعلیم جاری رکھی جو بڑی بابرکت ہے اور جامعیت علوم و فنون کے اعتبار سے درس نظامی اکل ترین نصاب ہے، اس نصاب کی تکمیل سے تمام علوم و فنون کی اسناد پیدا ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ درس نظامی لا نظام الدین ہمالوی علیہ السلام

کی زندگی کرامت ہے جن کا فیض ہمیشہ جاری رہے گا، اس درس کے ساتھ ساتھ زمانہ کے رجحانات کے پیش نظر پنجاب اور اتر پردیش کی یونیورسٹیوں کے مضامین کی تعلیم بھی جاری رکھی جو درس نظامی ہی میں قدر سے ترمیم کے بعد ترتیب دئے گئے ہیں۔"

آپ کی تصانیف میں سے ایک رسالہ کتاب النکاح والطلاق ۱۹۵۶ء میں حیدرآباد، سندھ سے شائع ہوا، ایک اور رسالہ علم الغرض کا مسوہ آپ کے فسر زندہ مولوی عبدالباری کے پاس محفوظ ہے۔

آپ کے طویل عرصہ تدریس میں سینکڑوں علماء نے آپ سے اکتساب کیا، چند تلامذہ کے نام یہ ہیں :-

۱. حضرت مفتی عزیز محمد، قلمی اعلیٰ خطیب جامع مسجد جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو لاہور۔
۲. مولانا محمد عبدالرشید پٹنمی
۳. مولانا عبدالملک بدایونی
۴. مولانا عبدالواحد عثمانی
۵. مولانا عبدالحامد چشتی
۶. مولانا نادر حسین بدایونی
۷. مولانا محمد تقی شامی لاہور۔
۸. مولانا محمود الحسن بدایونی
۹. مولانا عبدالعزیز ناطق، جے پوری
۱۰. مولانا سید سعید الدین نقوی (حیدرآباد، سندھ)
۱۱. پروفیسر کے ایل دتہ (مدیر کالج جے پور)
۱۲. حافظ مبارک علی نابینا (سابق ایم ایل اے حیدرآباد، سندھ) وغیرہم۔

حضرت مولانا محمد قدیر بخش قدس سرہ کا وصال ۹ ربیع الثانی، ۱۳۷۶ھ/۱۹۵۶ء بروز جمعہ حیدرآباد، سندھ میں ہوا، پروفیسر ایوب قادری نے تاریخ وفات لکھی،

ہائے مولانا مفتی بخش " (۱۳۷۶ھ)

مولانا محمد یعقوب حسین ضیاء قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے قطعاً تاریخ وصال لکھا جس میں مولانا کی ساری زندگی کا عکس موجود ہے۔

دلی محنت تھے محمد قدیر بخش، منہ پیار
تھے علم و فضل میں جیتا، عصر بے مثال
پدر بھی آپ کے تھے عالم و دلی و فقیہ
تھے آپ بھی بہترین علم و فضل زہد و کمال

حدیث و منطق و تفسیر و فقہ، علم کلام،
 تھے آپ اجملاً و صاف علم و زہد و سلوک
 سند فرانس کی تھی دست مقتدر سے ملی
 چلے بدایوں سے جے پور میں اقامت کی
 برائے چندے ریاست سے آئے پاکستان
 پسر تھے آپ کے مسکن گزین حیدر آباد
 نثار شان قضاہ و قدر بحکم تدریب
 ہزار حیف اسدھکے بہشت کو مرحوم
 مر سے حبیب و صدیق دہلی تھے مولانا
 کریم بعد فنا مغفرت کرے ان کی

ضیاء تلماش ہے تاریخ کی تو کمدت کچھے
 دلی حبیب محمد قدیر بخش ہے سال ۱۹۶۱

۱۳۰۰

مولانا علامہ حکیم محمد قطب الدین جھنگوی قدس سرہ العسزین

منافذ حلیل و طبیب جانق حضرت علامہ مولانا حکیم محمد قطب الدین ابن مولوی احمد بخش مویش پوکوٹ
 سدا نہ (منبع جھنگ) میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی بعد ازاں صرف و نحو
 کے امام مولانا حافظ جمال اللہ رحمان تھلے کی خدمت میں گھوٹ (منبع ملتان) میں حاضر ہوئے اور
 صرف سے نے کر عبد الغفور (حاشیہ شرح جامی) اور متن متین تک کتابیں پڑھیں حضرت
 حافظ صاحب کے وصال کے بعد شمس العباد مولانا محمد حسین قریشی ساکن تلمیہ کی خدمت میں فحرف
 تعلیم ہے، اس کے بعد دہلی چلے گئے اور طبیہ کالج دہلی میں داخل ہوئے یکم رمضان المبارک
 ۱۳ جولائی (۱۹۱۵ء/۲۳۳۳) کو فاضل طب و جراحی کی سند اور تمغہ حاصل کر کے واپس پنجاب
 تشریف لائے۔

آپ کو طالب علمی کے دور ہی سے تقریر و مناظرہ سے دلچسپی تھی۔ قیام دہلی کے دوران
 مسلمانان دہلی نے فوارہ کے مقام پر پٹنیاغین اسلام کے اعتراضات کے جواب دینے کے لئے
 آپ ہی کو منتخب کیا ہوا تھا۔ آپ نے دہلی، آگرہ وغیرہ مقامات میں عیسائی و رار میبلینوں سے منکر
 کئے اور انہیں شکست فاش دی و بڑے بڑے مناظر آپ کا سامنا کرنے سے پہلو تھی کیا کرتے
 تھے۔ ایک دفعہ آگرہ میں ایک آریہ کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، شرائط مناظرہ میں ایک بات یہ طے
 ہوئی کہ کوئی یہ مسئلہ پیش نہ کیا جائے جو فریقین میں مشترک ہو، آریہ نے اسہم پر اعتراض کیا کہ
 اس مذہب میں انصاف نہیں ہے، مثلاً جب کسی مسلمان کی ہوا خارج ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ
 اس کا دھوٹا ٹٹ گیا اور پھر لطف یہ کہ جہاں سے ہوا خارج ہوئی اچھک کو دھونے کی بجائے دوسرے
 اعضا کو دھونا شروع کر دیا جاتا ہے، مولانا نے فرمایا: تم شرائط مناظرہ کی خلاف ورزی کر رہے
 ہو کیونکہ یہ مسئلہ فریقین میں مشترک ہے، دیکھو جب تمہارا کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے چند
 خاص رشتہ دار چاہے اس سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہوں خبر پڑتی ہی غسل کرتے ہیں، کپڑے
 دھوتے ہیں، برتنوں اور چوکے کی صفائی کرتے ہیں، مرنے والوں سے ہزاروں میل دور ہے، وہ ان کی

پیدی یہاں اثر کر رہی ہے، وضو کے اعضاء تو پھر تزیب ہیں۔

اگر یہ مناظر نے دوسرا اعتراض کیا، تم چند کلمات پڑھ کر جانور کو چھری، چاقو سے ذبح کرتے ہو، میں پوچھتا ہوں وہ جانور پہلے حلال تھا یا ان کلمات کے پڑھنے سے حلال ہوا، اگر پہلے ہی حلال تھا تو کلمات پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر ان کلمات کے پڑھنے سے حلال ہوا ہے تو چاہتے کہ بی گنہ پر بھی یہی کلمات پڑھ کر ذبح کر کے کھا جاؤ، مولانا نے فرمایا، پنڈت صاحب ذرا جوش سے بات کرو، تم پھر شرائط کی خلاف ورزی کر رہے ہو، کیونکہ مسئلہ بھی فریقین میں مشترک ہے، دیکھئے جب آپ نکاح پڑھتے ہیں تو آپ کا برہمن "بھوج" پڑھتا ہے اور دولہا کو دلہن کے گرد چنچہ پکڑ دلاتا ہے، اب بتائیے کہ بھوج پڑھنے اور چکھ دلانے سے دلہن دولہا پر حلال ہوتی ہے یا پہلے ہی حلال تھی؟ اگر پہلے ہی حلال تھی تو بھوج پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر ان سے حلال ہوتی ہے تو چاہئے کہ بھوج پڑھ کر اور چکھ کاٹ کر یا ہن کو بھی حلال کر کے نکاح میں لے آؤ! غرض مولانا کی سخت گرفت پر اگر یہ مناظر کو راہ فرار کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔

مسئلہ تغلیب شخصی پر موضع بدو آنہ تحصیل شور کوٹ ضلع جھنگ میں مولوی شام شادام تسری سے مناظرہ کیا اور فتح حسین حاصل کی، اس مناظرہ میں احناف کی طرف سے مولانا محمد قطب الدین کے علاوہ مولانا غلام حسین تلمیری، مولانا غلام محمد گھوٹوی اور مولانا نظام الدین ملتانی شریک تھے، اور غیر مقلدین کی طرف سے مولوی شام شادام، مولوی عبدالحمید بدو آلوی، مولوی عبدالوہاب دہلوی اور مولوی محمد یار حویلی بہادر شاہ موجود تھے۔ ۲۵ ستمبر ۱۹۲۵ء کو روڈو پورہ ضلع لائل پور میں مولوی نعیم محمد کھیلوئی (مخالف صحابہ) سے مناظرہ کیا اور پانچ اہم مسائل پر فتویٰ کر کے زبردست فتح حاصل کی، مولانا نے اپنی تمام زندگی مذہب اسلام و مسکب اہل سنت و جماعت کے تحفظ اور اشاعت میں بسر کی۔

مولانا منظرہ انشا پر واز صاحب قلم تھے، آپ کے مضامین عرصہ تک مجلہ طیبیہ دہلی، المیزان دہلی، الفقہیہ امرتسر، شمس الاسلام میرو، لمعات الصوفیہ، در انوار الصوفیہ، سیکولٹ وغیرہ جرائد میں شائع ہوتے رہے۔ آپ کی تصانیف میں سے دوسرے "فیصلہ شرعیہ" (رتور و اض)

اور غوثی داستان چھپ چکے ہیں۔

حضرت مولانا تحصیل علم کے بعد اہمیت پر سید جماعت علی شاہ قدس سرہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے، حضرت امیر ملت کی ہمت میں دو دفعہ حج و زیارت کی سعادت سے مشرف ہوئے، آپ ہی کی استدعا پر حضرت امیر ملت کی تشریف آوری جھنگ میں ہوئی، حاجا بھائی علی نے ہونے اور کثیر التعداد مندگان خدا شرف بیعت سے بہرہ ور ہوئے، آپ کو اپنے شیخ سے بہت عقیدت تھی، حضرت امیر ملت بھی آپ پر بڑی شفقت فرماتے تھے، آپ کو خلافت عنایت فرمائی اور ہمیشہ اطمینان و خیر انداز سے نوازتے رہے۔

حضرت مولانا محمد قطب الدین رحمہ اللہ لغات فنی طلب میں کمال دست نگاہ رکھتے تھے، ذرا بچیدار علوم دینیہ سے تو انہیں اتنا رگڑ تھا کہ اپنے صاحبزادوں اور صاحبزادوں کو خط و کتابت لکھنا ایک صاحبزادی کو مشاوتہ تشریف اور جلالین تشریف پڑھا رہے تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا، آپ کے دو صاحبزادے ہیں ایک حافظہ عالم اور طلبہ حکیم محمد حسن طلب کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور دوسرے اہل سنت کے مایہ ناز مدرس مناظرہ و خطیب مولانا عبدالرشید جھنگوی ہیں۔

مولانا محمد قطب الدین جھنگوی قدس سرہ ۲۵ ربیع الثانی ۱۲۹۰ھ (اکتوبر ۱۹۱۲ء) بموت جماعت تین بجے دن واصل بحق ہوئے، آپ کا مقبرہ انور قطب آباد (جگہ ۳۳ جوتیا نوار) ڈاک خانہ جگہ ۲۳۳ ضلع جھنگ میں ہے، آپ کی یاد میں مزار شریف کے پاس جامعہ قطبیہ ضویہ قائم کیا گیا ہے، حضرت مولانا حکیم خادم علی قدس سرہ نے تاریخ وفات کبھی چند اشعار ملاحظہ ہوں گے۔

عالم و فاضل، فقیہ نامدار	بود در دنیا ز دنیا بر کنار
ماہر اسرار تفسیر و حدیث	مخزن انوار و شیخ روزگار
در شریعت ہد مثال کو مبار	در طریقت بھر ناپسید اکنار

۱۔ فضل بن فضل، مجھ ۱، ہفت روزہ مہتاب، دہلی پور، ۱۰ ستمبر ۱۹۶۳ء، ص ۶۶

عالم تاثیر و تفسیر اور
فیض یاب از آفتاب معرفت
از نگاہش قطب دین ابدال شد
آہ آہ فرخ پیر شیریں مقال
ہست در الفاظ سال ز جلتش
از ربیع الاخضر آدبست و تیغ
وقت ظہرش بود وقت انتقال
بود تحریرش چو در دست بہوار
حضرت شاہ جماعت بادقار
کرد ہمیں سینہ اش راز رنکار
شد درون خاک بقدر پردہ دار
سرد و صفا و دود با یک ہزار
چوں برفت او جانب دار انقرار
روز پنج شنبہ بیاید در شمار

۱۰ ہفت روزہ (اب مابنا مرہم) رمضان ۱۳۵۶ گوجرانوالہ، یہ شمارہ اس وقت پیش نظر نہیں ہے۔

قدوة السالکین حضرت مولانا سید قطب علی شاہ قدس سرہ

حضرت مولانا سید قطب علی شاہ قادری ابن سید امام شاہ بخاری قدس سرہ سہا
ساکن سندھ یا نوالی (پیر محل) جنم لامل پور، جسینی سادات سے تھے اور جمعیت و خلافت حضرت
سید چراغ علی شاہ قدس سرہ (م ۱۳۰۶ھ / ۱۸۸۹ء) سے تھے جن کا سلسلہ طریقت حضرت
محمد دوم جہانیاں جہاں گشت رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔

حضرت سید قطب علی شاہ رحمہ اللہ نے ماہ مہادول سن ۱۹۰۱ بروز یک شنبہ
متردد ہوئے حضرت مصوف اپنے نانا کے جلیل القدر عالم و عارف تھے۔ آپ سے
ہزاروں لوگ فیضیاب ہوئے۔ ظاہری علوم میں بھی باکمال تھے۔ آپ کے فضل و کمال پر آپ کی
تصانیف شاہد عدل ہیں۔

آپ کی تصانیف کے نام یہ ہیں :-

- ۱۔ اسرار المعرفت (مسائل سلوک پر)
- ۲۔ مناظرہ پیر و قاضی (قاضی کی جانب سے شریعت کی تلقین اور بزبان پیر عشق و معرفت کی
حکایات)
- ۳۔ شواظ البرقعات فی رد رمی الحجرات (رد شیعہ میں لاجواب کتاب ہے)
- ۴۔ رسالہ رد شیعہ بقول الامامین
- ۵۔ الوارثہ قدسیہ فی رد رموز بدیہ (رد شیعہ)
- ۶۔ فہرست بیچ البلاد (رد شیعہ)

حضرت سید قطب علی شاہ کے ملفوظات بنام رسالہ "مرآة العقراء" مرتبہ سلطان بن
محمد رمضان طالہان راہ خدا کے لئے نہایت مفید ہیں۔ یہ ملفوظات ۲۵ رمضان المبارک ۱۳۲۰ء
سے ۳ محرم ۱۳۲۸ء تک کے ہیں۔ حضرت قطب علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام اہل سنت
علی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ سے غلامانہ و مجاہدانہ تعلقات تھے۔

جمادی الاخریٰ، نومبر (۱۳۴۶ھ / ۱۹۲۷ء) میں واصل بحق ہو کر سندھیا نوالی (پیر محل) میں محو خواب ابدی ہوئے۔ آپ کا مزار پُر انوار منیبت شاندار بنا ہوا ہے اور مرجع خلایق ہے۔ سالانہ عرس پر بے پناہ ہجوم ہوتا ہے۔ اب یہ مزار محکمہ اوقاف کی تحویل میں آچکا ہے، قطعاً تاریخ وصال درج ذیل ہے۔

پوم نہیں از جمادی الاخریٰ دیدہ ام حاشہ کیے پُر درد

کردار ناچدا قضائے قدیر قطب اقطاب کامل اکمل مرد

گفت ہاتھ کہ آہ احمد دین

قطب شاہ از جہان رحلت کرد

۳۶ ۲ ۱۳

۱۔ علمی و ادبی دست بگری حکیم محمد مونس امرتسری مغلذاد عالی

مولانا صوفی قند علی سہروردی قدس سرہ العزیز

مولانا صوفی ابراہیم قند علی قدس سرہ کوٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ کے گیلانی سادات کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آٹھ سال کی عمر میں والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا لیکن نامساعد حالات میں بھی آپ نے سلسلہ تعلیم جاری رکھا۔ ڈیڑھ تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی تعلیم کا شوق پیدا ہوا۔ اسی اشتیاق کی بنا پر دیوبند پہنچے۔ ایک رات قیام کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں تقریباً اڑھائی سال تک قیام کیا اور علوم دینیہ کا استفادہ امام اہل سنت سے کیا۔

حیات گزشتہ ضلع گجرات میں حضرت میاں غلام محمد سہروردی قدس سرہ کے دمت مبارک پر بیعت ہوئے اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ نیز حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شتر قہری قدس سرہ العزیز سے بھی استفادہ کیا۔

آپ ایک عرصہ تک جامع مسجد حضرت شاہ ابوالاعلیٰ قادری قدس سرہ اور مسجد چوہدریاں قلعہ گوجرانگہ میں خطیب رہے اور دلوں کی دنیا کو میراب کرتے رہے۔ آپ نے متعدد کتابیں لکھیں اور اہل علم سے خراج تحسین حاصل کیا۔ چند تصانیف کے نام یہ ہیں۔

- ۱۔ جمال النبی
- ۲۔ جمال رسول

۱۔ محمد بن حکیم مورخ لاہور، سہروردی ادیب نے لاہور (مکتبہ تاریخ لاہور، ۱۹۶۹ء) ص ۳۲۶

۲۔ ایف، ص ۳۲۷

- ۳۔ سیاح نامگان۔
- ۴۔ میلاد الرسول۔
- ۵۔ رسالہ علم غیب۔
- ۶۔ تذکرہ سرورویہ۔
- ۷۔ انوار سرورویہ۔
- ۸۔ حلیۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
- ۹۔ الفقہ فخری۔
- ۱۰۔ پردہ نسوان وغیرہ وغیرہ لے۔

۲۷۔ صفحہ المنظر، ۱۰ ستمبر بروز بدھ (۱۹۵۸/۱۳۷۷) کو آپ کا وصال ہوا نماز جنازہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا ابوالبرکات سید احمد قادری دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی۔ آپ کا مزار ملتان روڈ پر ساتویں میل پر بس سڑک بچروال میں واقع ہے جہاں پر آپ کا عرس منعقد ہوتا ہے لے۔

لے محمد یوسف سروروی، اجتماع مندرجہ فی شان فقہ، ص ۱۶۰-۱
 لے محمد رفیع کلیم، سروروی اولیائے لاہور، ص ۳۳۳

غازی اسلام مولانا محمد کرم الدین دبیر قدس سرہ بھییں ضلع جہلم

مناظر اسلام حضرت مولانا محمد کرم الدین دبیر قدس سرہ ۱۸۵۷ء سے چار پانچ سال پہلے بھییں ضلع جہلم میں پیدا ہوئے ابتدائی کتابیں وطن ہی میں پڑھیں مزید تعلیم لاہور اور لہر کے مدارس میں حاصل کی کچھ عرصہ مولانا احمد علی سہان پوری سے درس حدیث لیا پھر امرتسر آکر درس حدیث کی تکمیل کی لے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں زبدۃ الکاملین حضرت خواجہ محمد الدین بالوی قدس سرہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے لے تکمیل کے بعد چند سال بھییں ضلع جہلم میں درس و تدریس کا شغل جاری رکھا۔

مولانا محمد کرم الدین دبیر کو قدرت نے بے پناہ مناظرانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا چنانچہ انہوں نے تمام عمر مذاہب باطلہ (مزانہ شیعہ، وہابیت) کی تردید اور ان سے مناظرے کرنے میں صرف فرمائی۔ آپ کے مخلص دوست مولانا فقیر محمد جہلمی (مولانا صدائق الحنفیہ) جہلم سے ہفت روزہ سراج الاخبار نکالتے تھے، انہوں نے مولانا کرم الدین کو اس رسالے کا مدیر مقرر کر دیا۔ آپ نے مرنائیوں کے خلاف زور دار مضامین لکھے، دنیا کے مرنائیت میں شککد بچ گیا، اور کوئی چارہ نظر نہ آیا تو آپ کے خلاف یکے بعد دیگرے کئی مقدمات دائر کر دئے پہلا مقدمہ ۱۳ نومبر ۱۹۰۲ء کو اور دوسرا ۲۹ جون ۱۹۰۳ء کو حکیم فضل دین بھیروی قادیانی کی طرف سے گورداسپور میں دائر کیا۔ دونوں میں مولانا باعزت طور پر برہمی کر دئے گئے۔ تیسرا مقدمہ شیخ یعقوب علی تڑاب ایڈیٹر اخبار الحکم کی طرف سے مولانا کرم الدین دبیر اور مولانا فقیر محمد جہلمی پر قائم کیا گیا جس میں مدعا علیہ ما پر ۵ روپے جرمانہ ہوا جوادا کر دیا گیا۔

۱۷ جنوری ۱۹۰۳ء کو مرنائیوں کی طرف سے ایک کتاب مواہب الرحمن جہلم میں

لے نظیر حسین تھانی، حالات مصنف آفتاب ہدایت، مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ، جہلم، ص ۱۷۔
 لے محمد رفیع کلیم، تخریب و مرنائیت کے تین جہاد، ۱۰ ہنر و صنعت، جہلم، ۱۹۷۷ء، ص ۵۵

تقسیم کی گئی جس میں مولانا کے خلاف جی بیکر کہ زہر لگا گیا تھا، مولانا کو کم الدین دہیر نے مرزا غلام احمد قادیانی اور حکیم فضل دین بھیروی کے خلاف متناقد اور کر دیا، یہ مقدمہ دو سال تک چلتا رہا۔ ۸ اکتوبر ۱۹۰۲ء کو گورنر اسپتال کے بیچ نے مرزا غلام احمد قادیانی پر پانچ سو روپے اور حکیم فضل دین پر دو سو روپے جرمانہ کا حکم دیا اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں باہر تریب چھ ماہ اور پانچ ماہ قید کا حکم سنایا۔ اس مقدمہ میں مولانا کو کم الدین کے بے باکانہ بیانات نے مرزا بیوں کے کس بل نکال دئے اور فیصلے نے تو ان کے گھروں میں صفت نام بچا دی۔ اس کے علاوہ مولوی اللہ دتہ اور دیگر مرزائی مناظرین کے ساتھ کامیاب مناظرے کئے اور انہیں شکست فاش سے دوچار کر دیا۔

شعبہ مناظرین کو بھی لٹکارا اور کئی بار انہیں شکست دی۔ کنڈیاں میں مشہور شیعہ مناظر مرزا احمد علی سے مناظرہ کیا اور فتح میں حاصل کی۔ ۳۰ مئی ۱۹۲۰ء کو میرپور میں اور ۴ مارچ ۱۹۲۳ء کو ایک رجا دی، گجرات میں اجمدریث کے مشہور مناظر مولوی ثناء اللہ امرتسری سے تعلیقہ شخصی وغیرہ موضوعات پر مناظرہ کیا اور فریق مخالف کو جواب کر دیا مولانا ویر کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک دفعہ ان کے سامنے آنے والا دوبارہ سامنا کرنے سے گجرات تھا ان کا علم فضل حاضر جوابی اور پر عجب شخصیت قابل پر گہرا اثر ڈال دیتے تھے۔

حضرت مولانا دہیر ناموس رسالت کے سچے محافظ، مسلک اہل سنت و جماعت کے مبلغ اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والے بزرگ تھے، ان کے فرزند مولوی قاضی مظہر حسین (چچوال) اپنے والد کے برعکس دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے آفتاب ہدایت کے آغاز میں مصنف کا تعارف کراتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مولانا کو کم الدین آخر عمر میں علماء دیوبند سے متاثر ہو کر اپنے مسلک سے برگشتہ ہو گئے تھے۔ سٹہ ہمارے سامنے ایسی کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی بنا پر ہم یہ سمجھ سکیں کہ مولانا نے مسلک اہل سنت چھوڑ کر مسلک علماء دیوبند اختیار کر لیا تھا البتہ ایسے شواہد

سٹہ مظہر حسین ناموس آفتاب ہدایت ص ۱۹-۱۷

ص ۲۱-۲۰

سٹہ ایضا

ملنے پیر جن سے قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک راسخ العقیدہ سنی تھے۔ بمشکل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی مبارک تصنیف حسام الحرمین پر مولانا کو کم الدین دہیر حجتہ تعالیٰ کی تقریظ درج ذیل الفاظ میں لٹی ہے:

”باسمہ سبحانہ - حسام الحرمین میں جو کچھ لکھا ہے عین حق ہے دیوبندی جن کے سرگروہ غلیل احمد و رشید احمد میں نجدی گروہ، متبعین محمد بن عبد الوہاب نجدی سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ نجدی تو پہلے ہی سے مسلمانان مقلدین سے الگ تھلگ ہو گئے، مسلمانوں کو ان کے عقائد خبیثہ سے آگاہی ہو گئی اور ان سے مجتنب ہو گئے لیکن دیوبندی حنفی وہابی نا، حنفی مسلمانوں سے شکر و شیر ہو کر گویا حلوے میں زہر ملا کر ان کو ہلاک کر رہے ہیں، اعاذنا اللہ منہم۔“

اور اب تو ابن سعود نجدی کے مداح بن کر علماء مسلمانوں سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، بہر حال نجدیوں اور دیوبندیوں کے دلوں میں خدا و رسول خدا کی کچھ عظمت نہیں ہے۔ امکان کذب باری کے قائل ہو کر انہوں نے تو بہن باری تعالیٰ کے جرم کا ارتکاب کیا جسٹہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعقیص شان میں مشرکین سے بھی بڑھ گئے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم معاذ اللہ حیوانات اور جانین کی طرح اور شیطان کے علم سے کم بنایا، میلاد النبی کو کنہیا کے موٹانگ سے تشبیہ دی اور میلاد کو نیوالوں کو مشرک کہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”لایومن احدکم حتی کون احب الیمن والدہ وولدہ والناس اجمعین“ اور چونکہ ان لوگوں کے دلوں میں حب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذرہ بھی موجود نہیں اسلئے یہ خارج از اسلام اور کافر ہیں جیسا کہ علمائے حرمین شریفین کا دلیل و منصل فتویٰ ان کی نسبت صادر ہو چکا ہے۔“

والسلام، خاکسار ابو فضل محمد کریم الدین خاں اللہ عنہ از مجلس اہل بیت علیہم السلام

الجواب صحیح، احمد دین واعظ الاسلام از بادستہائی ضلع جہلم۔
صحیح الجواب محمد فیض الحسن عفا عنہ (مولوی فاضل مدرس عربی گورنمنٹ ہائی سکول
جکوال ضلع جہلم)۔

مولانا کریم الدین دہرا اپنے دور کے مشہور فاضل تھے، یہ کیونکہ ممکن ہے کہ صورت
حال سے بے خبر ہوتے ہوئے اس قدر شدید فتویٰ صادر کرتے۔

فانہا ۱۹۳۶ء میں سلا نوالی ضلع سرگودھا میں مولانا حسنت علی خاں لکھنوی اور مولوی
منظور احمد نعمانی دیوبندی کے درمیان مسئلہ علم غیب پر مناظرہ ہوا تو مولانا کریم الدین دہرا ہنسنت
کی طرف سے صدر تھے۔ اس مناظرے کا اہتمام حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین
سیالوی دام ظلہ العالی نے کیا تھا، ظاہر ہے ایسے فیصلہ کن مناظرے میں اہل سنت کی
طرف سے ایسے شخص کو صدر نہیں بنایا جاسکتا تھا جو بریلوی اور دیوبندی اختلاف سے
صحیح طور پر آگاہ ہی نہ ہو۔

۱۹۲۰ء میں مولانا کریم الدین دہرا اور ضلع لاکھپور کے مولوی محمد فاضل (غیر مقلد) کے
درمیان مسئلہ نور پر تخریری گفتگو ہوئی، بالآخر طے پایا کہ اہل سنت کے مرکزی دارالعلوم
جامعہ نعمانیہ لاہور کی طرف رجوع کیا جائے، مولانا کریم الدین دہرا کہتے ہیں:۔

یہ ہا یہ امر کہ آپ دیوبندی مولوی صاحب منصف گردانا چاہتے ہیں
حالانکہ علماء حرمین شریفین کا فتویٰ علماء دیوبند کے خلاف صادر ہو چکا ہے
آپ اسی حرمین دہلی میں وقت گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ حنفی ہیں تو مولوی
احمد رضا خاں صاحب کو منصف مان لیں، نہیں تو انجمن نعمانیہ ہند لاہور کو
پرچے بھیج دئے جائیں، یہ بھی نہیں تو آپ خاموش رہیں۔

مولانا نور بخش تو کلی اور مولوی غلام مرشد نے محاکمہ میں مولانا کریم الدین کی تائید کی۔

سکھ حسنت علی خاں، مولانا، الصوامع السنہ، مطبوعہ مکتبہ فریدیہ ساہیوال، ص ۱۱۰-۱۱۱۔

سکھ مظہر حسن قاضی، آفتاب ہدایت، ص ۲۱۔

سکھ نور بخش توکل، مولانا، نور مطبوعہ انجمن نعمانیہ لاہور، ص ۳۱۔

تبلیغ و مناظرے کی بے حساب مصروفیات کے باوجود آپ نے کئی کتابیں
تخریر فرمائیں، آپ کی تصانیف کے نام یہ ہیں:۔

- ۱۔ آفتاب ہدایت، ترجمہ تفسیر و بدعت۔
- ۲۔ تازیانہ عبرت، ان مقدمات کی تفصیل جو مولانا نے جہلم اور گورداسپور میں مرزا
قادیانی کے ساتھ لڑے۔
- ۳۔ مناظرات ثلاثہ۔
- ۴۔ صداقت مذہب نعمانی۔

کئی کتابوں پر آپ کی منظوم تقریظیں ملتی ہیں مثلاً سیرت الجبیبہ زچہ پوری
فضل حق، جکوال ضلع جہلم پر طویل تقریظ پیش نظر ہے۔ ہدایت المسلمین از حضرت
میاں محمد بخش قادری (مصنف سیع الملوک وغیرہ) پر اردو نظم میں بسوڑ تقریظ لکھی
ہے، اس میں فرماتے ہیں:۔

ہوا اک فرقہ پیدا کچھ دنوں سے جو بد باطن خبیث و بد زبان ہے
وہ کہلاتے ہیں لامذہب و ہابی بڑا گمراہ گروہ مخدیاں ہے

بے سکی سجد سے اول یہ آفت پھر آپہنچی یہ درہندوستان ہے
بنی شاخیں بہت میں اس کی یارو گورداسپور کا مکہ نجدی میاں ہے
کوئی مرزائی کوئی نیچری ہے کوئی چکرا نوی اہل القراں ہے
مچایا دین میں فتنہ انہوں نے پڑا اک شور سا اندر جہاں ہے

آپ کی تصانیف میں آفتاب ہدایت کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل
ہوئی اور ہاتھوں ہاتھ کئی ایڈیشن فروخت ہو گئے، مولانا کو اہلیت پر سیدہ جماعت علی شاہ
محدث علی پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے والہانہ عقیدت تھی، آفتاب ہدایت کا انشباب حضرت

سکھ محمد بخش مولانا، ص ۳۱۔ بدہ اسلمین، مطبوعہ اسلامیہ پبلس لاہور، ص ۱۳۳-۱۳۲۔

امیر ملت کے نام تھا جو پہلے ایڈیشن میں اب بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ مولانا کی وفات کے بعد کے ایڈیشنوں میں یہ انتساب موجود نہیں ہے، حضرت امیر ملت مولانا کی دینی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مولانا کو فاضل اسلامی کا لقب حضرت امیر ملت ہی کا عطا کردہ ہے۔

آفتاب ہدایت کے پہلے ایڈیشن میں حضرت مصنف نے اندرونی دشمنوں کا ذکر کرتے ہوئے روافض، وہابی، مرزائی وغیرہ کا ذکر کیا تھا، بعد والے ایڈیشنوں میں وہابی "کا ذکر بھی حذف کر دیا گیا ہے۔"

فاضل اسلامی مولانا کو امیر الدین دہر رحمت اللہ تعالیٰ ۱۸ شعبان، ۱۷ جولائی (۱۹۳۶/۱۳۶۵) کو حافظ آباد میں مکان کی چھت سے گر کر جاں بحق ہوئے اور ہمیں ضلع جہلم میں دفن ہوئے۔

مولانا کلیم اللہ مچھیالوی قدس سرہ

جامع معقول و منقول مولانا کلیم اللہ مچھیالوی، بن مولانا غلام قادر (م ۱۲۹۳ھ) بن حافظ محمد حیات ابن جیون رحمہم اللہ تعالیٰ تیرہویں صدی ہجری کے ربیع اول میں گاکھڑہ (گجرات) میں پیدا ہوئے، وراثتاً زمیندار برادری سے تعلق رکھتے تھے، انکے والد ماجد مچھیالوی اور بہترین طبیعت جہا مچھیالوی مولانا محمد حیات بھی اپنے دور کے نامور عالم تھے، آپ نے ابتدائی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی پھر مولانا محمد اسماعیل ساکن خنواہی کی خدمت میں کئی سال رہ کر اکتساب علم کیا، دیکھا اساتذہ میں مولانا بدر الدین ساکن گوگلی (م ۱۳۸۶ھ) مولانا شاہ نواز ساکن بھردکی، مولانا حافظ نور الدین چکڑوئی (م ۱۳۰۲ھ) اور مولانا سید احمد ساکن شاہ دیول (م ۱۳۰۲ھ) کے سامنے ملے ہیں۔

آپ تحصیل علوم کے بعد ۱۸۵۲ء میں گاکھڑہ سے تعلق ہو کر مچھیالوی گجرات میں قیام پذیر ہو گئے اور درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا، ایک سو سے زیادہ علمی کتابیں تالیف کیں، تذکرہ علمائے احناف آپ کی اہم یادگار ہے، پہلی صدی ہجری سے لیکر مصنف کے معاصر علماء احناف تک کے حالات و سوانح پر مشتمل ہے، ۹۰ صفحات پر پھیلا ہوا یہ تذکرہ اور مولانا کی اکثر تصانیف مخطوطے کی صورت میں پروفیسر فرشتی احمد حسین کے پاس محفوظ ہیں۔

مولانا کلیم اللہ مچھیالوی اپنے زمانے کے جید فاضل اور کامیاب مناظر تھے، جب آپ نے فرنگی عمل کے علماء کی یہ بات سنی کہ علماء پنجاب معقولات میں دسترس نہیں رکھتے تو دہلی اور فرنگی محل (کنوٹ) کا سفر کیا اور ان علماء سے علمی مذاکرات کر کے اپنے علم و فضل کا سکہ جما دیا اور آپ ہمیشہ اس بات پر دسترس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ میں نے پنجاب کی آبرورکھ لی۔

۱۳۲۳ھ/۱۹۰۶ء میں مولانا کلیم اللہ مچھیالوی کا وصال ہوا اور مچھیالوی ضلع گجرات میں آپ کا دفن بنا لے

استاذ الاساتذہ حضرت مولانا علامہ محب النبی قدس سرہ

بحوالہ معلوم حضرت مولانا محب النبی ابن حضرت مولانا احمد الدین ابن حضرت مولانا امیر حسرتہ
 (قدت اسرارہم) ۱۳۱۴ھ/۱۸۹۷ء میں بھوئی ضلع کیسبلیو میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان علم
 فضل کے اعتبار سے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ نے فارسی کی کتابیں والد ماجد سے پڑھیں
 صرف و نحو کی کتابیں یا نول ڈھیری ضلع ہزارہ میں مولانا نواب علی سے پڑھیں، پھر اکثر پیشتر
 علوم و فنون اپنے والد گرامی سے پڑھے، درس حدیث مدرسہ عالیہ مسجد فتحپوری دہلی
 میں مولانا عبد اللطیف محدث سے لیا، بعد ازاں بعض فزون عالیہ کی تکمیل کے لئے
 مدرسہ مصیبتیہ، اجمیر تشریف میں مولانا علامہ شائق احمد کانپوری ابن استاد ذمین مولانا
 احمد حسن کانپوری کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے تفریح، تہذیب، تفسیر اور حدیث کے
 کچھ سبق پڑھے تھے کہ آپ کے بھائی مولانا فرید الدین بیجاڑ ہو گئے لہذا وہیں
 گھر آ کر پڑھا۔

سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت شیخ الاسلام پیر سید مر علی شاہ گونڈوی قدس سرہ
 کے مرید ہوئے مولانا محب النبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی درخواست پر حضرت نے انہیں تفریح
 و علم ہیئت کی متداول کتاب اور کچھ سبق فنون تہذیب و تفسیر اور قصص حکیم اراشیخ اکبر
 محی الدین ابن عربی قدس سرہ کے پڑھائے۔

حضرت مولانا محب النبی رحمہ اللہ علیہ فارغ التحصیل ہونے سے آخر عمر تک علوم
 دینیہ کی تدریس میں مجور رہے، ابتداءً چھ سال بھوئی میں گزارے، پھر بڑودہ تشریف
 لے گئے، اس کے بعد کھنڈ تشریف ایک عرصہ تک مدرسہ رہے، بعد ازاں پانچ سال
 تک دربار پیر صلاح الدین قدس سرہ ضلع لالپور میں فرائض تدریس انجام دیتے رہے
 نو سال دارالعلوم اویسیہ، جیندھر تشریف، ضلع گجرات، بارہ سال دارالعلوم غوثیہ
 گولڑہ تشریف، دو سال جامعہ نظامیہ، وزیر آباد، دو سال جامعہ محمدی، ضلع جھنگ میں

علم و فضل کے دریا بہا تھے۔ ۱۹۶۴ء میں ضیاء العلوم جامعہ رضویہ، راولپنڈی تشریف
 لائے، ۱۹۷۲ء میں دارالعلوم غوثیہ، راولپنڈی تشریف لے گئے اور وہاں تقریباً تین سال چھٹا رہے۔

حضرت مولانا محب النبی قدس سرہ دور حاضر میں سلف صالحین کی سچی یادگار اور کاروبار
 اساتذہ میں سے تھے۔ پاکستان کے بیشتر علماء بالواسطہ یا بلاواسطہ ان کے رشتہ تلمذ
 میں منسلک ہیں، چند مشہور تلامذہ کے اسماء یہ ہیں :-

- ۱۔ ملک المدین حضرت مولانا حافظ عطا محمد چشتی بنڈی لوی دامت برکاتہم العالیہ۔
 - ۲۔ شیخ القرآن مولانا ابو الحق بن علامہ محمد عبدالغفور ہزاروی قدس سرہ۔
 - ۳۔ مولانا علامہ حسن الدین ہاشمی، جامعہ اسلامیہ، بہاولپور، (بھتیجے)۔
 - ۴۔ حضرت مولانا سید غلام محی الدین شاہ مدظلہ ہتم ضیاء العلوم جامعہ رضویہ، راولپنڈی۔
 - ۵۔ حضرت مولانا علامہ حافظ عبدالغفور مدظلہ ہتم جامعہ غوثیہ، بھابڑہ بازار، راولپنڈی۔
- حضرت مولانا محب النبی قدس سرہ کا بہت بڑا جہاد یہ تھا کہ انہوں نے تمام زندگی
 علوم دینیہ کی تعلیم و تدریس میں صرف کی، سادگی اور سچے تکلفی میں اپنی مثال آپ تھے، طلبہ
 کے ساتھ شفقت و مہربانی کا یہ عالم کہ کوئی باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرے گا۔
 غالباً ۱۹۷۰ء کا واقعہ ہے، راقم الحروف ان دنوں دارالعلوم اسلامیہ رضویہ ہری پور
 میں فرائض تدریس انجام دے رہا تھا کہ ایک دن حضرت استاذ الاساتذہ، دارالعلوم
 میں تشریف لائے، تشریف آوری کا سبب پوچھا تو فرمایا یہ مولانا صاحب میرے
 شاگرد ہیں ان کے لئے سند کی ضرورت ہے مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے استاذ
 نے ایک شاگرد کی درخواست پر راولپنڈی سے ہری پور تک کے سفر میں کوئی تکلف
 محسوس نہیں کیا، اللہ اللہ! آج ایسی مثالیں کہاں ملیں گی۔

۲۱، ربیع الاول، ۲۲، مارچ ۱۳۹۶ھ/۱۹۷۶ء کو حضرت استاذ الاساتذہ مولانا

محب النبی قدس سرہ کا وصال ہوا۔ آپ کی آخری آرام گاہ بھوئی ضلع کیسبلیو میں بنی مبارک جہاد

تہ سے یادگار ہیں۔

۱۔ مولانا شائق الدینی

۲۔ مولانا فدا الدینی

۳۔ مولانا مختار الدینی

۴۔ مفتی صاحب کے نام سے معروف ہیں۔

جناب ابوالظاہر فدا حسین فدا میر اعلیٰ ماہنامہ سردماہ لاہور نے قطعہ تاریخ وصال لکھا
مطالعہ کئے بزم جہاں سے آج ہیں حتیٰ پرست
کارگر ہوتی ہے کب کوئی یہاں تدبیر آہ!
عالم ذمی مرتبت تھے اور وہ استادِ زمان
گلشنِ دینِ منین میں تھے بہارِ تازہ وہ
تھے نبیِ محترم کے اک محبتِ خاص وہ
ہر بشرِ براج جن کا ہم نے دیکھا بالعموم
ظلمتوں میں جس گھڑی آجائیں انسان کے نجوم
ہو چکا شرہ ہے انکا تاعراق و شام و روم
ان کے زہد و اتقا کی ہے بھی ہر سمت دھوم
کیوں نہ ہو پھر رحمتوں کا ان کی تربت پر نجوم

عہدِ غیبی پیکار ان کا سالِ وصل یوں

اسے فدا تو فی الہدیہ کہتے "عہدِ بھر علوم"

۱۳۵۹ھ

فاضلِ اجل حضرت علامہ مولانا محمد حسن پشاوری المعروف حادراز قدس

فاضلِ یکجاہ استاذِ اعلیٰ حضرت مولانا محمد حسن ابن مولانا حافظ محمد صدیق ابن محمد شرف
قدیمت اسرارہ ہم ۱۳۲۰ھ/۸/۱۸۸۷ء میں خوشاب (پنجاب) میں پیدا ہوئے۔ پچاس خاندان
علم و فضل میں بلند مقام کا حامل تھے۔ اکثر علوم اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کئے جو بڑے
علم و فضل کی مالک تھیں۔ علامہ حافظ دراز کے نام سے شہرت کی وجہ یہ تھی کہ آپ نہ صرف
علوم عقلیہ و نقلیہ میں بلند مرتبہ رکھتے تھے بلکہ جسمانی طور پر بھی بلند قامت اور سرفراز تھے
چنانچہ ایک دفعہ جو تانوانے کی غرض سے موضع چکینی تشریف لے گئے، موچی مکان کی
چھت پر بیٹھا جو تے بنا رہا تھا، آپ نے سراؤ بچا کر کے پوچھا کہ میرے پاؤں کے سائز
کا جو تامل جائیگا؟ اس نے کہا مولانا! گھوڑے سے اتر کر اوپر آجائیں۔ آپ نے فرمایا
گھوڑا کہاں میں تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں! موچی نے آجنگ اتنا طویل آدمی نہیں دیکھا
تھا، یہ سن کر وہ گھبرا ہوا اٹھ کر بھاگ گیا۔
مولانا فقیر محمد جمیلی لکھتے ہیں :-

"فقہ، تفسیر، حدیث، اصول میں یکجا روزگار اور جامع علوم عقلیہ و نقلیہ
اور خاندانِ علم و فضل سے تھے۔"

مولانا حافظ دراز رحمہ اللہ تعالیٰ اگرچہ پنجاب کے باشندے تھے لیکن قلبِ مکانی
کہ کے پشاور میں قیام پذیر ہو گئے تھے تحصیلِ علوم کے بعد مسند تدریس پر فائز ہوئے تو

- ۱۔ امیر شاہ قادری مولانا، تذکرہ علماء و مشائخ مجدد (مطبوعہ مطبعہ پیشنگ) لاہور، ۱۳۸۳ھ/۱۲/۱۲۲ ص ۲۲۔
۲۔ مولانا مولانا، تذکرہ علماء ہند (اردو ترجمہ) معبرہ پاکستان، مشارکین موسیقی، کراچی، ۱۹۶۱ء/۱۸۵ ص ۱۸۵۔
۳۔ امیر شاہ قادری مولانا، تذکرہ علماء و مشائخ مجدد، ۱۹۶۰ء/۱۲۲ ص ۱۲۲۔
۴۔ فقیر محمد جمیلی مولانا، حدائقِ حنفیہ (مطبوعہ مطبعہ نول کشور، کھنڈ، ۱۸۸۷ء) ص ۳۷۵۔

جدی آپ کی جلالتِ علمی کا شہرہ دور دراز تک پہنچا۔ پشاور، علاقہ آزاد، کابل، قندھار، لغزنی، ہرات، سرحد اور بنجارا کے تشنگانِ علوم دینیاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کامیاب ہو کر اپنے علاقوں میں خدمتِ دین میں مصروف ہو جاتے۔

جب مولوی اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پشاور پہنچے تو وہاں کے حنفی علماء نے ان کے عقائد سے سخت اختلاف کیا، مولوی اسماعیل دہلوی نے فضا ہوا کرنے کی خاطر پشاور کے علماء کے نام خطوط لکھے، سب سے پہلے جس عالم کو مخاطب کیا وہ مولانا حافظ دراز تھے۔ اس سے آپ کی رفعت و جلالت کا اندازہ لگایا جکتا ہے نیز یہ بھی بتیہ چلتا ہے کہ آپ ظنِ باحق کے سلسلے میں کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔

مولانا حافظ دراز رحمہ اللہ تعالیٰ نے پراشوب دور میں علومِ دینیہ کی قندیل روشن رکھی اور کسی ظالم و جاہل کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا، آپ نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں پشاور کے حاکم جنرل ابوطلحہ اٹالوی کے مظالم پر زبردست تنقید کی اور اسے عدل و انصاف پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی، اس نے باز پرس کیلئے آپ کو گورکھ پوری میں طلب کیا کسی طرح یہ اطلاع شہر میں پھیل گئی، لوگ جانتے تھے کہ ابوطلحہ بڑا ظالم ہے، اس پھر کیا تھا پورے شہر میں ہیجان پیدا ہو گیا، علماء و مشائخ، مساجد اور خانقاہوں سے نکل آئے، یہ صورت حال دیکھ کر ابوطلحہ نے آپ کو عزت و تکریم سے رخصت کر دیا۔

امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کی اولاد میں سے شاہ غلام محمد معصومی المعروف حضرت جی پشاور رحمہ اللہ تعالیٰ سرمد شریف سے تشریف لاکر پشاور میں مقیم ہو چکے تھے، ان کے ہاں ہفتے میں دو دن مجلس و عظ و نصیحت منعقد ہوتی تھی، ایک دن مولانا حافظ دراز رحمہ اللہ تعالیٰ کے لئے مختص ہوتا تھا۔ آپ مسلکِ اہل سنت و جماعت مدلل طور پر بیان فرماتے تھے، آپ کی گفتگو اتنی اثر انگیز ہوتی تھی کہ سننے والوں پر رقت طاری ہو جاتی تھی، بعض آپ کا بیان سننے کے لئے لوگ دور دراز سے حاضر ہوتے تھے۔

حضرت مولانا حافظ دراز رحمہ اللہ تعالیٰ کے تلامذہ ویسے تو ہر خطے اور ہر شہر میں موجود تھے اور صوبہ سرحد کے اکثر و بیشتر علماء آپ کے رشتہ تلمذ میں منسلک تھے،

لیکن آپ کے تین شاگرد بہت مشہور ہوئے:

۱۔ شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی قدس سرہ۔

۲۔ قدوة الکاملین حضرت مولانا غلام نبی لہمی قدس سرہ۔

۳۔ استاذ المحدثین مولانا میاں نصیر احمد المعروف میاں صاحب قصہ خوانی قدس سرہ۔

مولانا حافظ دراز قدس سرہ نے درج ذیل عظیم الشان تصانیف کا ذخیرہ لکھا اور تصنیف:

۱۔ مخ البادی شرح صحیح البخاری (فارسی) شروح حدیث میں یہ شرح اپنی مثال آپ

ہے، اسرارِ رجال کی تحقیق، عمل لغات، مذہبِ حنفی کا احادیث سے اثبات اور مسلکِ

اہل سنت و جماعت پر استدلال ایسے امور میں جو قابلِ دید ہیں، اس شرح کا نقلی نسخہ

پشاور یونیورسٹی میں محفوظ ہے، پہلا پارہ چھپ چکا ہے۔

۲۔ حاشیہ قاضی مبارک، اپنی اہمیت کی بنا پر مستند و مطابیح کی طرف سے قاضی مبارک

کے ساتھ چھپ چکا ہے۔

۳۔ حاشیہ برتقہ اخوندیوسف۔

۴۔ تفسیر سورۃ یوسف۔

۵۔ تفسیر از سورۃ واقفے تا آخر قرآن۔

۶۔ معراج نامہ۔

۷۔ وفات نامہ۔

۸۔ شاہ بنجارا کے سوالات کے جوابات، یہ مجموعہ اسلامیکالج کی لائبریری میں محفوظ ہے۔

مولانا محمد احسن المعروف حافظ دراز پشاور قدس سرہ کا وصال ۱۲۶۳ھ/۱۸۴۷ء

میں پشاور میں ہوا، اس وقت آپ کی عمر شریف ۶۱ سال تھی لہ

غازی کشمیر قادری تحریک تہذیبیت مولانا علامہ ابوالحسن سید محمد قادری قدس سرہ

حضرت علامہ مولانا سید محمد احمد قادری ابن امام الحدیث مولانا سید دینار علی شاہ قدس سرہ ۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۶ء میں محلہ ثواب پورہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ سلف حافظ عبدالحکیم اور حافظ عبد الغفور سے کلام پاک حفظ کیا، اسی دوران مرزا مبارک بیگ سے اردو اور فارسی کی ابتدائی تعلیم شروع کی اور جگت استاد قادری فاضل بخش سے تجوید کی مشق کی، گیارہ بارہ سال کی عمر میں حفظ کلام پاک کے ساتھ ساتھ اردو افشار پروازی اور فارسی میں کسی قدر مہارت حاصل کر لی، پھر تمام علوم و فنون کی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی۔

اسی شمار میں مشین سازی، رنگائی، کارپینٹری، گھڑی سازی، خیالی اور سبیل فن کام سیکھ لیا، مراد آباد میں حکیم نواب حامی الدین سے علم طب حاصل کیا، حضرت صدرالفاضل مولانا سید محمد نسیم الدین مراد آبادی اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی کے فیوض سے بھی مستفیض ہوئے، حضرت مولانا شاہ علی حسین کچھڑچھوڑی قدس سرہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔

تحصیل علوم سے فارغ ہوتے ہی ایک حادثہ رونما ہوا، ہندوؤں نے لوہکی مسجد قریب لیتھید کر دی، اس واقعہ نے مولانا کو شعور جو اربنا دبا، آپ نے خدا داد خطیبانہ صلاحیتوں سے مسلمانوں میں روح بھڑک دی، مسجد کی واگراری کے لئے زہرت وجود شروع ہو گئی، مولانا کو گرہ فساد کر لیا گیا لیکن مسلمانوں کے شدید دباؤ کی بنا پر مبارک اللہ نے نصرت مولانا کو رکھا گیا بلکہ سرکاری خرچ سے مسجد دوبارہ تعمیر کر دی گئی۔

سلف علامہ برہنہ مولانا : البیاقیت المریہ ص ۷۷

سلف علامہ قادری مولانا ابوالحسن سید : روزنامہ مرکزی جمعیتہ العلماء پاکستان (۱۶ و ۱۷ جولائی ۱۹۴۸ء) ص ۳۰۰

سلف علامہ برہنہ مولانا : البیاقیت المریہ ص ۷۷

سلف انبیا صلوات اللہ علیہم اجمعین : تذکرہ علمائے اہل سنت و جماعت الہجرہ ص ۳۱۷

حضرت علامہ ابوالحسنات قدس سرہ تبلیغ اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے، متعدد پاک و ہند کا شہر بھی کوئی گوشہ ایسا ہو گا جہاں تبلیغ اسلام کی خاطر آپ بندھنے ہوں، ذریعہ معاش کے طور پر مطلب جاری رکھا، اس طرح روحانی امراض کے علاوہ جسمانی امراض سے بھی بچاؤ کرتے رہے۔

مسجد وزیر خاں، لاہور کی خطابت سے امام الحدیث مولانا سید دینار علی شاہ قدس سرہ سبکدوش ہوئے تو مسز ظفر علی ریٹائرڈ جج ہائیکورٹ و متولی مسجد وزیر خاں نے جسے اصرار کے ساتھ منصب خطابت مولانا ابوالحسنات کے سپرد کیا، چنانچہ مولانا لاہور سے دخت حضراتہ کو لاہور تشریف لے آئے اور ہمیشہ کے لئے لاہور کے ہو کر رہ گئے۔ لاہور سے جو بھی دینی و ملی تحریک اٹھی اس میں آپ امتیازی حیثیت سے شریک ہوتے۔ اور میں آپ انجمن خادم اسلام کے صدر اور فتوے لکھنے کے بیڑے میں تھے۔ مسجد وزیر خاں میں بزم تنظیم قائم ہوئی جس کے صدر بنائے گئے، اس تنظیم کے شعبہ تبلیغ کے زیر اہتمام ۳۵ فریکٹ لکھ کر شائع کئے، انجمن حزب الاخوان، لاہور کے امیر مقرر ہوئے اور اگر انقدر خدمات انجام دیں۔

آل انڈیا سوسی کانفرنس نے تحریک پاکستان میں جس سرفروشی اور جاں سپاری سے کام کیا اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ قیام پاکستان کے بعد ایک ایسی ہیرو تنظیم کی ضرورت محسوس ہوئی جو اہل سنت و جماعت کو منظم کرنے کے ساتھ ملکی اور ملکی مسائل میں ماہرینی کا فریضہ انجام دے، طرزاتی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی و امت برکاتہم العالیہ کی تحریک پر انوار العلوم، ملتان میں ۱۹۶۲ء، ۲۸ مارچ ۱۹۶۸ء کو ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں پاکستان بھر کے علماء و مشائخ نے شرکت کی، جمعیتہ العلماء پاکستان کی تشکیل کے بعد حضرت علامہ ابوالحسنات صدر اور حضرت علامہ کاظمی، ناظر اعلیٰ منتخب ہوئے۔

جمعیتہ العلماء پاکستان اور جمعیتہ المشائخ کے منفقہ فیصلہ کے مطابق ۱۹۶۸ء بروز جمعہ پاکستان بھر میں یوم شریعت منایا گیا، جلسے منعقد ہوئے، قائد اعظم اور اسکا بچہ کو تائید دی گئیں اور حکومت پر زور دیا گیا کہ پاکستان میں قانون اسلامی نافذ کیا جائے، لہذا محمد بن اسلام کشمیر کے مہذب و حق خودارادیت کے حصول کے لئے جان بازی کا مظاہرہ

کر رہے تھے، سو دودی صاحب نے اس جنگ کو جہاد تسلیم نہیں کیا، حضرت علامہ ابو الحسنات رحمہ اللہ نے فتنے دیکھ کر جہاد فی سبیل اللہ ہے اور مسلمانوں کو ہر ممکن طریقہ سے مجاہدین کی امداد کرنی چاہئے لہٰذا جمعیتہ العلماء پاکستان کی تحریک پر ۸۰ ہزار روپے سے زائد کا ساڑھو ساٹھ لاکھ روپے میں تقسیم کیا گیا لہٰذا صدر جمعیت نے بنفس نفیس احباب سمیت محاذ کبیر کے کئی دورے کئے اور مجاہدین کی ہمت افزائی کے ساتھ ساتھ انہیں مسلمان ضرورت مہیا کیا، ان مساعی جمیدہ کی بنا پر آپ کو غازی کشمیر کا لقب دیا گیا لہٰذا جہاد کشمیر کے قائدین نے آپ کی خدمات کا بڑا اعتراف کیا اور آپ کا شکر یاد کیا چوہدری غلام عباس پریزیڈنٹ آزاد کشمیر و صدر مسلم کانفرنس جنوں و کشمیر کا ایک مکتوب ملاحظہ فرمائیں :

۹ مئی ۱۹۴۹ء سیانکوٹ محترم جناب ابو الحسنات صاحب

احقر غلام عباس اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزاج شریف

آپ کا خط ملا، اس سے قبل بھی جناب کا گرامی نام موصول ہوا تھا، قیام لاہور کے دوران میں میں نے آپ سے ملاقات کی بے حد کوشش کی لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں ایسا نہ کر سکا، امید کہ آپ معاف فرمائیں گے۔

جہاد کشمیر اور مسند کشمیر کے بارے میں آپ کی مالی، اخلاقی اور سیاسی سرگرمیاں اعلیٰ تشکر و اطمینان ہیں، خدا آپ کو، ہم کو مشترک مقصد میں جلد کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔

ایک اور مکتوب ملاحظہ ہو !

۱۸ مئی ۱۹۴۹ء، سیانکوٹ، روٹیلو جمیٹہ

۲۴ مئی ۱۹۴۹ء

۱۹ اگست ۱۹۴۵ء، روزنامہ نوائے وقت، لاہور

فوری سہیہ کو رٹیلو جمیٹہ

۱۶-۴-۴۹

محترم بندہ اسلام علیکم
گذشتہ ماہ مجھے لاہور مدعو کیا گیا وہاں آپ اور آپ کے رفقاء نے جس خلوص اور ہمدردی کا ثبوت دیا اس کے لئے میں تہ دل سے شکریہ گزار ہوں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ !
آپ کی ذات گرامی سے امید و افاق ہے کہ بسلسلہ استنصاب رائے کشمیر آپ کی مساعی جمیدہ اس وقت تک جاری و ساری رہیں گی جب تک تمام کشمیر اور اس کے محلات کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو کر وہاں اسلام کا قرآنی نظام قائم نہ ہو جائے۔

والسلام بالوف الاحترام

احمد علی شاہ

وزیر دفاع آزاد کشمیر

قیام پاکستان کے بعد ختم نبوت کے تصور فہم میں نقیب لگانے والے مرزائی قابو بان سے منتقل ہو کر پاکستان آگئے اور پاکستان کے وزیر خارجہ ظفر اللہ کے نام سے برائے نام قیمت کے عوض ربوہ کی زمین حاصل کر کے ارتداد پھیلانے میں مصروف ہو گئے، اس فتنے کے انسداد کے لئے پاکستان کے تمام علماء، سنی، دیوبندی، غیر مقلد، جماعت اسلامی اور شیعہ نے مل کر ۱۹۵۳ء میں مجلس اعلیٰ قائم کی جس کے صدر مولانا ابو الحسنات قادری منتخب ہوئے۔ متفقہ طور پر خواجہ ناظم الدین کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ظفر اللہ کو وزارت کے منصب سے برطرف کیا جائے اور مرزائیوں کو قانونی طور پر پختہ مسلم اقلیت قرار دیا جائے لیکن ارباب اقتدار اُس سے سس نہ ہوئے، آخر طے پایا کہ ایک وفد کراچی جا کر مرکزی فدریشن عظیم خواجہ ناظم الدین سے ملے اور اپنے مطالبات پیش کرے۔

نواب صاحب نے معذوری کا اظہار کیا اور قائدین وفد کو گرفتار کر لیا۔ یہ خبر جنگل کی گنگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی، جگہ جگہ احتجاجی جلسے ہونے لگے، جلوس نکلنے لگے، موعود خواہں کے مطالبے اور احتجاج کی شدت کے ساتھ ساتھ حکومت کا تشدد بھی بڑھت گیا اور پورے ملک کے جیل خانے خالی یا نیم ختم نبوت سے بھر گئے۔

حضرت علامہ ابوالحسنات رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء کو کھڑے جیل میں منتقل کر دیا گیا، آپ نے قید و بند کی صعوبتوں کو بڑی استقامت کے ساتھ برداشت کیا جب اپنی لیاؤر زندگی آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے اکلوتے فرزند مولانا طفیل احمد قادری مدظلہ کو ٹھیک ختم نبوت میں حصہ لینے پر پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے تو آپ نے بے ساختہ کہا، "الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے میرا یہ معمولی بڑا قبول فرمایا"۔

بعد میں پتہ چلا کہ یہ غیر منطقی تھی۔ آپ نے ایام اسیری میں قرآن پاک کی تفسیر تفسیر الحسنات" لکھنے کا کام شروع کر دیا اور متعدد حصے جیل ہی میں لکھا۔ جب دیگر زماں گرفتار ہو گئے تو ممبر اسلام مولانا عبدالستار خاں نیازی مدظلہ العالی نے مسجد وزیر خاں کو مرکز بنا کر اپنی شعلہ بار تقریروں سے تحریک کو آگے بڑھایا، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان کے خلاف پھانسی کا فیصلہ صادر کر دیا گیا۔

یہ شہادت گرا لخت میں قدم رکھنا ہے

لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

قریب تھا کہ یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہو جاتی لیکن بعض آسائش پسند و پٹیر حکومت سے معافی مانگ کر رہا ہو گئے، بعد ازاں مولانا ابوالحسنات اور مولانا عبدالستار خاں نیازی کو بھی رہا کر دیا گیا، اس طرح یہ تحریک وقتی طور پر رک گئی۔ ۱۹۷۳ء میں دوبارہ یہ تحریک چلی تو کامیابی سے ہمکنار ہو گئی اور ۷ ستمبر کو مرزا فیاض محمد نے اقلیت قرار دینے کے لئے

۱۷ خاتم مہرین، مولانا، ایوانیت المہر، ص ۷۸-۷۹

محدثانہ پیشکشوں، مولانا صاحب، روزنامہ نیت میں ۱۱ ماہ ۱۹۷۳ء کا حصہ، مکتبہ ختم نبوت، دسمبر ۱۹۷۳ء، ص ۷۷

۱۷ ختم مہرین، مولانا صاحب، روزنامہ نیت، مکتبہ ختم نبوت، دسمبر ۱۹۷۳ء، ص ۷۷

حضرت علامہ ابوالحسنات ایہ ناز خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ مسیحا ان نحر میں نظم و نثر پر قدرت کا در رکھتے تھے، حافظہ تخلص کرتے تھے، انجمن حمایت اسلام، لاہور کے ایک مجلس میں علامہ اقبال نے اپنی مشہور غزل پڑھی تھی

کبھی اسے حقیقت منتظر نظر آبا بس مجاز میں

کہ ہزاروں سجدے تپ رہے ہیں مری جہنم نیاز میں

حضرت علامہ ابوالحسنات نے اس کے جواب میں ایک غزل پڑھی جس کے چند

شعر پیش کئے جاتے ہیں

تو ہی خود، جب اسے دل حسن جہ ہوا سیر زلف دراز میں

تو کی ہو کیوں تہ سے سوز میں، تہ سے فکر آئندہ ساز میں

جو دباے حشر کے فتنے سب اجواٹھلے حشر میں فتنے سب

وہ ہے کام آپ کے لطف کا، یہ ہے لطف آپ کے ناز میں

ترہی آرزو تو سعید ہے مگر ایسا ہونا بعید ہے

کہ جمال یار کی دید سہرا رہے تو لباس مجاز میں

تجھ اور وصل کی آرزو، تجھے دید حسن کی جستجو

نظر ہوس آرزو نہیں چشم بندہ نواز میں

یہ غزل سن کر علامہ اقبال دیر تک عالم وارفتگی میں روتے رہے، اس غزل کو

انہوں نے "جذبات حافظ" کے عنوان سے یاد کر لیا تھا۔

آپ نے تصانیف کا گرانقدر ذخیرہ یادگار چھوڑا، چند تصانیف کے نام یہ ہیں:-

۱- تفسیر الحسنات

۲- ترجمہ کشف المحجوب

۳- اوراقِ غم

۴- طبیب اللورده شرح قصیدہ بردہ

۵- خمس حافظ

۶- مدرس حافظ

۱۷ ایس ایم ناز، ہفت روزہ تبدیلی، لاہور (۲۰ نومبر ۱۹۶۶ء)

۲ شعبان المعظم ۲۰ جنوری ۱۳۸۶ھ / ۱۹۶۱ء بروز جمعہ ساڑھے بارہ بجے
دن اہل سنت کے بطل مصلح مولانا علامہ ابوالحسنات سید محمد احمد قادری قدس سرہ کا وصال
ہوا، وصال سے کچھ پہلے یہ شعر نے بان پر تھا

حافظ زند زندہ باش، مرگ کجا و تو کجا

تو شدہ فنا کے حمد حمد بود لقا کے تو

یہ آپ کی اسلامی خدمات کا ایک شرف تھا کہ آپ کو حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ
کے اعلا منزل میں آخری آرام گاہ ملی۔

مولانا غلام دستگیر نامی نے تاریخ وفات کسی سے

درینا! ابن دیدار علی شاہ محمد احمد شیریں بیاں رفت

ابوالبرکات را اچ مکرم کہ بد محمود را علم کلاں رفت

خلیفتہ جانشین نام بردار بہاند چو کد فخر خاندان رفت

بتاریخ وفاتش گفت نامی

ابوالحسنات اجل از جہاں رفت

مکرمی جیکہ اہل سنت حکیم محمد موسی امرتسری مظلما العالی نے "تقدوس المل الجنتی مولانا (۱۳۸۰ھ)

سے تاریخ وصال استخراج کی ہے۔

۱۔ اقبال احمد فاروقی، پرلادہ، تذکرہ ۳۳، اجماع سنت و حاکمیت، لاہور، ص ۳۱۸

۲۔ ایس ایم، ہفت روزہ قدلی، لاہور

۳۔ سادہ معزم، لاہور، ۳ فروری ۱۹۶۱ء

حضرت مولانا پیر سید محمد اسماعیل شاہ قدس سرہ (کرمانوالہ)

۱۸۸۹ء
مرشد شہر حضرت مولانا سید محمد اسماعیل ابن سید علی شاہ بخاری کاظمی قدس سرہ ۱۳۰۷ھ میں

مربوع کرمانوالہ مضافات فیروز پور میں پیدا ہوئے، آپ کا سلسلہ نسب مرکز سیادت حضرت پیر محمد صاحب

جہاں گشت بخاری قدس سرہ (اچ شریف) تک پہنچتا ہے، قرآن پاک سید مخدوم قطب الدین رحمہ اللہ

تعالیٰ سے پڑھا، فارسی کی کتابیں مولانا رحمت علی جوہر اکراوالہ سے پڑھیں، پھر موضع جیکے پسر

(مضافات فیروز پور) میں مولانا محمد الدین سے ابتدائی علوم حاصل کئے، بعد ازاں حضرت پیر سید غلام حیدر

شاہ جہا پوری قدس سرہ کے مدرسین علم ظاہری کا اکتساب کیا اور حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے

فیض محبت سے مستفیض ہوئے، کچھ دن مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں قیام کیا لیکن جلد ہی لاہور شریف

آئے گئے اور مولانا مفتی عبدالغفار جہانگیر دی رحمہ اللہ تعالیٰ صدر مدرس جامعہ نعمانیہ لاہور اور دیگر

اساتذہ سے مروجہ علوم کی تحصیل تکمیل کر کے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے مدرسہ الاسلام، دہلی

میں مولانا عبدالعلی کے پاس پہنچے اور ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹ء میں سند فراغت حاصل کی

تھیں، علوم کے زمانہ ہی میں حضرت مولانا شرف الدین فیروز پوری قدس سرہ (خلیفہ مجاز

حضرت خواجہ ادرخش تونسوی قدس سرہ کے دست مبارک پر سلسلہ عالیہ شہتین نظامیہ میں

بیت ہو چکے تھے، تحصیل علوم کے بعد کرمانوالہ (مضافات فیروز پور) میں رشد و ہدایت کا پیغام

لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، بے شمار لوگ شرف بیعت سے مشرف ہوئے مولانا شرف الدین کے

وصال کے بعد ان کے ایام کے معاصرین شہر زبانی حضرت میاں شیر محمد شہر قوی قدس سرہ کی خدمت

اقدس میں حاضر ہوئے اور الطاف و عنایات سے بہرہ ور ہونے کے ساتھ ساتھ خلافت مہجارت

سے مشرف ہوئے

۱۔ غلام مرتضیٰ مولانا، البیوت المبرور، ص ۱۳۴

۲۔ سید مین الدین، حکیم، صوفیا نقشبند، مقبول کیتھی لاہور، ص ۳۹۶

۳۔ راکھ دیانے، خاص کر، ناہار سہیل، لاہور، ۱۹۶۳ء، ص ۵۰

تیسرے ملک کے بعد پاکستان تشریف سے آئے، تین سال پاکستان تشریف قیام کیا پھر موضع پرکا
(مضافات اوکاڑہ میں تشریف لے آئے، سابق جائے سکونت کے نام پر اس جگہ کا نام بھی کرمانوادی
رکھ دیا، یہاں نیا اسٹیشن بھی قائم ہو گیا، آپ کا علقہ ارادت بہت وسیع ہے اور خاص طور پر
قابل ذکر بات یہ ہے کہ آپ کے مریدین متبع شریعت و ذکر و فکر کی دولت سے مالا مال ہیں حضرت
شاہ صاحب کو اپنے مشہور عقیدت حضرت میاں صاحب سے بے پناہ عقیدت تھی، آپ کے وسیع منکر
سے جو کچھ پتہ چلتا اسے شیخ کے لنگر میں پیش کر دیتے، وہ و احترام کا یہ عام تھا کہ سالہا سال حاضر
خدمت رہنے کے وجود کبھی ٹکھ کر بات نہ کی

بے شمار افراد آپ کے فیض و عاصمت سے مستفیض ہوئے، ہر طبقے اور ہر فرسے کے
لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی کوشش شخصیت کا امن و نفس دل برے کر جانے شریعت
مطلوبہ پر خود بھی عمل کرنے اور آنے جانے والے مستحقین کو بھی اتباع شریعت کی تاکید کرنے

۲۰ جنوری ۲۰۰۰ رمضان المبارک (۱۳۸۵ھ / ۱۹۶۶ء) بروز جمعرات آپ کا وصال ہوا
اور کرمانوادی میں دفن ہوئے تھے

سے سید امین الدین بیگم، مولانا نقشبند، ص ۲۹-۳۰
سے نعمت علی، مولانا، ابو اجمیت لہری، ص ۳۵

سیہویہ زمانہ حضرت مولانا قاضی محمد اسماعیل قادری ہزاروی قدس سرہ

صرف دو سو کے مشہور فاضل حضرت مولانا مفتی قاضی محمد اسماعیل قادری ہزاروی ابن مولانا الحاج
مدد خاں بن ملک سائق رحمہ اللہ تعالیٰ بمقام نور پور نزد سرگندھت میں پیدا ہوئے، آپ کا سلسلہ
نسب حضرت امام محمد بن الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک پہنچتا ہے، آپ کے جد ماجد مولانا قاضی محمد
نور پوری بھی صاحب علم و فضل تھے، آپ نے ابتدائی کتابیں والد ماجد سے پڑھیں، پھر کشمیر کی
مشہور مدرس گاہ ڈنڈ پجیری اور گنچتر شریعت (آزاد کشمیر) میں تحصیل علم کرتے رہے، بعد ازاں مولانا آباد
اور سہارنپور کے مدارس میں تعلیم حاصل کی اور سند فراغت حاصل کر کے واپس وارد وطن ہوئے۔
ان دنوں والد ماجد قصبہ کوکل تحصیل ایسٹ آباد (ہزارہ) میں قیام پذیر تھے، والد گرامی نہیں اپنی جگہ مقرب
کر کے خود بمقام برہمن (محل ہزارہ) چلے گئے۔

مولانا محمد اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیہویہ میں تدریس کا آغاز کیا، آپ کی شہرت دور دراز تک
پہنچی اور سیہویہ زمانہ کے نقب سے مشہور ہوئے، امنتی طلباء خصوصیت سے نحو کی آخری کتابیں پڑھنے
کے لئے حاضر ہوتے تھے۔ دور افتادہ قصبہ میں مقیم ہونے کے باوجود آپ کے شاگردوں کی تعداد
بہت زیادہ ہے، آپ کے چھوٹے بھائی مولانا الحاج سکندر علی شاہ محمدی آپ کے لائق شاگردوں
میں سے تھے، سید محمد شاہ ہزاروی (حویلیاں) اور مولوی غلام اللہ خاں (داؤل پینڈی)، مولوی محمد تقی
ایسٹ آبادی، قاضی صدر الدین درویشی، قاضی محمد یونس بالاکوٹی اور مولوی محمد نعمان بانسٹری آپ کے
قلمذہ ہیں سے میں۔

مولانا کے شاگردوں کا وسیع سلسلہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، مرہد بلکہ کابل، قندھار
اور بلخ و بخارا تک پھیلا ہوا ہے، آپ صاحب تقویٰ و ورع، خوش گفتار اور پاک وضع شخصیت تھے
تمام عمر فی سبیل اللہ درس دیتے رہے، سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت غوث زمانہ خواجہ محمد صاحب داراجل

پھر دوی قدس سرہ (ہری پور) کے دستِ اقدس پر بیعت ہوئے۔ آپ کو اپنے شیخ سے بہت محبت و عقیدت تھی، حضرت خواجہ صاحب بھی آپ پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔

مولانا نے سلسلہ سیدہ مستطابہ پر ایک رسالہ اور دلائل اثبات شریف پر نئی شہید تحریر کیا تھا جو شائع ہو کر نایاب ہو چکے ہیں۔ آپ کا ذاتی کتب خانہ خاصا وسیع ہے جس میں نادر کتابوں کا کافی ذخیرہ موجود ہے۔ مولانا اپنے عقائد کے مشہور قاضی اور مفتی تھے، مسائل شرعیہ میں لوگ آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔

آپ کی اولاد میں دو صاحبزادے مولوی محمد الحق (مقیم کوکل ضلع ہزارہ) اور مولانا محمد علی نقوی نقویہ تیر ہزاروی فاضل مرکزی عرب الاحناف لاہور (۱۳۷۳ھ/۱۹۵۴ء) و خطیب جامع مسجد حنفیہ بارہ والی بیرون تیرا نوالہ دروازہ لاہور، یادگار ہیں۔

حضرت مولانا محمد اسماعیل رحمہ اللہ تھلے ۲۱ نومبر بروز جمعہ المبارک ۱۰ ماہ شوال ۱۳۵۹ھ (۱۹۴۰ء) کو واصل بحق ہوئے، آپ کی ہخسری آرام گاہ موضع کوکل (ضلع ہزارہ) میں شمال مشرق کی طرف نمایاں دکھائی دیتی ہے۔

۱۔ تمام حالات انہوں نے لکھ کر عنایت کئے جن کے لئے رقم ان کا شکر گزار ہے۔

محقق جلیل مولانا محمد عظیم قادری نوشاہی قدس سرہ الغریب

حضرت مولانا محمد عظیم المعروف بہ حضرت بابا جی ابن مولانا محمد یار موضع دانگلی ضلع جہلم میں پیدا ہوئے۔ سن ولادت ۱۲۶۱ھ/۱۸۴۵ء ہے۔ کلمہ فارسی کو تعلیم چودھری کشمباز خاں مصنف وقایح پنوں سے حاصل کی۔ فقہ، حدیث شریف اور علوم قرآنیہ کی زیادہ تر تعلیم والد ماجد سے حاصل کی۔ کچھ عرصہ قصبہ فتح گڑھ (پھر ڈیرا) (ضلع گورداسپور) اور امرتسر میں پڑھنے رہنے علم ادب اور طب مولوی دوست محمد ہاشمی قریشی فتح گڑھی سے حاصل کیا۔ حضرت سید فقیر اللہ شاہ بادشاہ شہسدری رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے اور سلسلہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ میں خلافت سے مشرف ہوئے۔

مروجہ علوم سے فارغ ہونے کے بعد کچھ عرصہ محکمہ مال لہجیا میں کام کرتے رہے لیکن حضرت شیخ کی محبت نے آپ کو کھینچ لیا اور حضرت شیخ کی حیات ظاہری تک آپ آستانہ پیشخ کے علاوہ کہیں نہیں گئے۔ آپ کے مریدین کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔ آپ شریعت و طہریت کے جامع، علوم دینیہ کے تجرید فاضل و سلف صالحین کے اخلاق کے پیگر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین خطاط، مایہ ناز خطیب، لغز گوشا و سواد کتب کثیرہ کے مصنف تھے۔

مولانا محمد عظیم قادری بڑے راسخ العقیدہ بزرگ تھے، ہمیشہ وہابیوں، دیوبندیوں اور دیگر باطل فرقوں سے انتہا کی نفی فرمایا کرتے تھے، جن دنوں آپ کے بھائی مولانا عبدالحق دیوبند میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، آپ نے انہیں ایک منظوم خط لکھا، اس خط کے چند اشعار

- ۱۔ محمد علیت دار نوشاہی ۱ ہدایۃ المریدین (دعوتِ حق) ص ۳۔
- ۲۔ اردو انسائیکلو پیڈیا ۱ مطبوعہ فروز سنز، لاہور، ص ۱۲۷۹۔
- ۳۔ محمد علیت دار نوشاہی ۱ ہدایۃ المریدین، ص ۲-۵۔

ملاحظہ ہوں سے

تا توانی از وہابی در گریز
در دہان خارجی بگذار گوز
شیخ نجدی در ابراز از خوشین
گرچہ پیش آید رو دیگر بود
الحذر! بہر خدا کل المذر
پائے بوس اہل حق شوا سے پسر
خاصاں خادع کہ او حنفی نماست

اتفاقاً یہ خط مولوی محمود حسن دیوبندی کے پاس پہنچ گیا، اسے دیکھتے ہی انہوں نے مولوی عبدالغنی کو مدرسے سے شائع کر دیا ہے

ایک اور نظم کے چند اشعار ملاحظہ ہوں جس میں انہوں نے ازراہ خوش وضعی پنجابی الفاظ فارسی اشعار میں سمونے میں سے

دماغ دیوبندی را گرفتہ بوئے بدنجوی
فردا رو شکست تا دہر آواز گرو گرو با
معلومست کایشان را پیغمبر پر غاسست
کہ از مدح و شنائے او بدل دارند گرو گرو با
چو بطن مصطفیٰ در دل چو ایمان چاسلے
چونک فردا بنا افتند با ہم جلد جڑ جڑ با

چو پیش اہل حق آئینہ تاب گفت گو نارند

گریزاں می روند تا ز پس بنیند مرمط با

کا لکھنویوں پر طنز کرتے ہوئے فرماتے ہیں سے

پڑی اپنے دل میں جو یہ ہوس، ہائے کانگرس با کانگرس
رہا رب نبی زد وہیلان میں بنے آپ گاندھی جو ہو ہو تے

۱۔ شرح اشعار و نثر، مولانا، خریف، سوات، ج ۲ (۱۹۵۱ء) اشعار و نثر، مولانا، مولانا

۲۔

۳۔

ایسا ہی ایک فارسی شعر ہے سے

من از ذکر تیراں چہ اندوخم
چرا در گاندھی شب موختم
مرزائیت پر بھر پور چٹ ملاحظہ ہو سے

اسے پیٹ تیرے واسطے ہم کیا کیا بنے
مہدی بنے، مسیح بنے، مقتدا بنے
بے شرم تو بھرا نہیں گو ہم خیال میں
ناگ بنے، کرشن بنے اور خدا بنے سے

آپ کی چند تعانیف کے نام یہ ہیں :-

۱۔ غایۃ الغایۃ فی برہ الساعۃ (اردو) حکیم نوکر یارازی کے رسالہ برہ الساعۃ
کا ترجمہ، مطبوعہ ۱۸۸۷ء

۲۔ تحفۃ اخوان الصفا فی جواز السماع والغناء سماع مشائخ کے جواز پر،
(میر و وال سے شائع ہوا)

۳۔ رحمت الرحمن شرح قصیدۃ النعمان قصیدۃ امام اعظم کی اردو شرح، پہلی مرتبہ
مطبع جنتاکی دہلی سے چھپی اور حال ہی میں مکتبہ نعمانیہ لاکھنؤ سے شائع ہوئی

۴۔ تحفۃ الفقراء المعروف نذر مولیٰ (تصرف) (۱۳۳۲ھ میں میر و وال سے چھپی -)

۵۔ اسم اعظم (۱۳۳۳ھ)

۶۔ العصیدۃ ایضاً شرح قصیدۃ غوثیہ شرح دوسری بار ادارۃ معارف اعظمیہ نوشاہیہ
مردیکے سے شائع کی جا چکی ہے۔

پیش بشر، ص ۱۱۔

۱۔ محمد اعظم فارسی نوشاہی ٹوٹا،

۲۔

۷۔ بے مثل بشر فضائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موضوعات پر بہترین کتاب (۱۳۵۰ء میں میردوال سے شائع ہوئی)

۸۔ ہدایۃ المریدین یہ رسالہ جناب محمد لطیف زار نے ۱۳۹۲ء میں دوبارہ شائع کیا۔ پاکستان کے مشہور نعت خوان اور نعت گو جناب محمد اسلم حسینی کا نام حضرت مولانا محمد اعظم قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام پر رکھا گیا تھا کیونکہ جناب حسینی صاحب کے والد ماجد مولانا کے نیاز مند اور فاضل جناب میں سے تھے لہ

حضرت مولانا محمد اعظم ستادری نوشاہی قدس سرہ کا وصال ۲۲ شوال ۲۰ جون (۱۳۷۵ھ/۱۹۵۶ء) کو مہلتہ اور اتوار کی درمیانی شب ۹ بجے ہوا، آپ کا مزار شریف قصبہ میردوال ضلع شیخوپورہ کی جامع مسجد اعظمیہ کے احاطے میں ہے لہ

لہ بروایت مولانا محمد عیسیٰ سنسری دہلہ ساہی

لہ محمد لطیف زار قادری نوشاہی : ہدایۃ المریدین ص ۴

فاضل گیارہویں مدرسہ مولانا الحاج خواجہ محمد اکبر حسینی نظامی بصیر پوری قدس سرہ

مولانا خواجہ محمد اکبر ابن مولانا خواجہ محمد تقی ابن مولانا خواجہ محمد عظیم ابن خواجہ محمد یار (المعروفہ حافظہ بگھا) ۹ شوال بروز یکشنبہ ۱۳۸۲ھ/۱۸۶۲ء کو تہجد کے وقت بصیر پور میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کے علاوہ شرح جامی تک کتب دسیہ کی تحصیل والد ماجد سے کی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہند کے مدارس کا قصد کیا، شملہ اور ڈلہوی وغیرہ مقامات پر ممتاز علمائے کرام کی ڈلہوی میں ایک قادری سروردی بزرگ سے کسب فیض کیا، آپ تین مرتبہ حج و زیارت کے شرف سے بہرہ ور ہوئے اور کئی کئی ماہ مدرسہ تعلیم میں قیام پذیر رہے تقریباً بائیس سال بعد واپس بصیر پور آئے، پہلے والد ماجد خواجہ محمد تقی (جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت تھے) سے بیعت ہوئے، پھر حضرت خواجہ احمد بخش تونسوی قدس سرہ العزیز کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے، حضرت خواجہ تونسوی نے آپ کو غریب نواز کا لقب عطا کیا، آپ نے بصیر پور میں جامع مسجد بننے والی (جو اب مسجد خواجہ محمد اکبر کے نام سے مشہور ہے) میں مدرسہ قائم کیا، جہاں تعلیم و تدریس کے علاوہ عرصہ دراز تک افتاء کے فرائض انجام دیتے رہے، آپ کی بہت سی لائق تصانیف فی الحال طبع نہیں ہو سکیں۔

۱۔ ثمرۃ العیبات

۳۔ تحفۃ النبی

۲۔ یاقوت اکبر

۴۔ تحفۃ محمدی، وغیرہ مشہور تصانیف ہیں۔

مولانا محمد صادق ابن مولانا محمد الدین حسینی نظامی، مولانا حافظ محمد مضان بصیر پوری، مولانا عبدالرحمن (بیکے والی)، مولانا جان محمد بصیر پوری اور مولانا نصیر الدین دکن پوری وغیرہم آپ کے مشہور شاگرد ہوئے، آپ کے بہت سے خلفاء ہوئے، ۱۶ رجب المرجب ۸ مئی (۱۳۳۵ھ/۱۹۱۶ء) کو آپ کا وصال ہوا، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس وقت آپ کے چچا زاد بھائی مولانا خواجہ محمد سعید اللہ مرحوم کے صاحبزادے مولانا محمد ظہور اللہ خدمت دینی میں مصروف ہیں لہ

قدوة السالکین حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی قدس سرہ

حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی ابن حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی قدس سرہ (۱۲۵۳ھ/۱۸۳۷ء) میں سیال شریف ضلع سرگودھا میں پیدا ہوئے آپ صورت و سیرت میں اپنے والدِ مکرم کا عکسِ مہبل تھے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی قدس سرہ کے وصال کے بعد تونسہ شریف حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی قدس سرہ نے آپ کو خرقہٴ خلافت سے نوازا، ایک عالم آپ کی نظر کیمیا اثر سے مستفیض ہوا، مولانا محمد ذاکر بگوی ثم لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرید اور بھارت تھے۔

حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی اخلاقِ عالیہ اور اوصافِ حمیدہ کے مالک تھے لنگر میں بڑی فراخ دلی سے خرچ کرتے، متعلقین کی خبر گیری میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتے، احباب کے غم اور خوشی میں بنفس نفیس شریک ہوتے، ایک شخص نے یہ باتیں آپ کی شان کے خلاف مجھیں اور حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی قدس سرہ کی خدمت میں خفیہ عرضہ ارسال کر کے درخواست کی کہ آپ انہیں ان امور سے منع فرمائیں، حضرت خواجہ تونسوی نے جواب دیا :-

”اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے یہ کام تو اسلام اور سیدالانام کی مناجت ہے، ایسے کاموں میں کسرِ شان نہیں بلکہ نہ کرنے میں نقصان ہے، اب تجھے لازم ہے کہ اگر تو ان کے والد کا مرید ہے تو تجدیدِ بیعت کر اور بیخیاں دل سے نکال دے“۔

۱۔ ایشیا مسعودیہ (۱۹۶۱ء) ص ۸۷-۸۸۔

۲۔ سلطان احمد قادری (۱۹۶۰ء) جامعیت، نبرہ، کتب خانہ، ص ۳۰۔

حضرت پیر سید مراد شاہ گولڑوی قدس سرہ آپ سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے تھے، آپ ہی کے ارشاد پر حضرت اعلیٰ گولڑوی تونسہ شریف گئے تھے۔ آپ ہی کے ایما پر انہوں نے ابتداً پاکستان شریف کا سفر شروع کیا تھا، آپ ہی کے کہنے پر پیر صاحب نے حضرت دیوان غیاث الدین اجمیری کی تائید و معاونت کے لئے مسندِ سماں پر سرحدی علماء سے پیشاور میں مناظرہ کیا تھا، حضرت اعلیٰ گولڑوی کے اس شعر سے

آکھیں خواجہ شمس دین دے لعل نون
گولڑھے فیماں والڑھے لچ پال نون

اور حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی کے اصلاح دادہ اس شعر سے

پیت کا وعدہ کر کے پیانے بہیت بھانا چھوڑ دیا

مترنے اکھیاں پھیر لیں، دم دم کا آنا چھوڑ دیا

کو دیکھنے سے دونوں حضرات کے باہمی تعلق کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی قدس سرہ کی مساعی جمیدہ سے خواجہ شمس العارفین سیالوی کے مدار شریف کا بلند و بالا گنبد، وسیع و عریض مجلسِ خانہ، تالاب، عالی شان جگہ اور کنواں تعمیر ہوا، آپ کو اپنے پیر خانہ سے اس قدر محبت تھی کہ ہر سال تین چار مرتبہ ضرور حاضری دیتے اور جب علالت کی وجہ سے نقابت بہت بڑھ گئی تو چار پائی پر سفر کیا اور تونسہ شریف حاضری دی۔

آپ کثیر الکرامات بزرگ تھے، ایک دفعہ پاکستان شریف سے واپسی پر خدام کو کھانا پکانے کا حکم دیا اور آنے والے ہر قافلے کو کھانا کھلانے رہے یہاں تک کہ تین نو افراد نے کھانا کھا جبکہ اس وقت بیس سیر آٹا، آٹھ آنے کا گھی اور ایک روپے کی شکوپاس تھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے چار فرزند عطا فرمائے جو سب کے سب عالم اور حافظ تھے،

۱۔ فیض احمد مولانا، مہر نیر، ص ۳۹۳۔

۲۔ ایشیا مسعودیہ، ص ۸۹۔

۱۔ صاحبزادہ محمد مہدیین (۱۳۳۳ھ)

۲۔ صاحبزادہ محمد ضیاء الدین

۳۔ صاحبزادہ محمد عبداللہ (رحمہم اللہ تعالیٰ)

۴۔ صاحبزادہ محمد سعد اللہ مدظلہ

۲ رجب المرجب (۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ء) کو حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی قدس سرہ کا وصال ہوا اور والد گرامی حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی قدس سرہ کے پہلو میں آدامہ نما ہوئے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی مسند نشین ہوئے لہ
مولانا امیر بخش مولف انوار شمس نے ایک ہی شعر میں عمر شریف اور سن ولادت و
وصال کو ذکر کیا ہے۔

میلاد مظہر حق، عمر شمس جمال گشتہ
مظہر جمال حق شد تاریخ انتقال
۱۳۲۷

لے سلطان احمد رومی، مولانا : "ذکرہ اولیائے چشت" (طبع نالی، سن ۱۳۲۰ء) ص ۱-۲۴۰۔

لے امیر بخش، مولانا : انوار شمس، ص ۱۰۳۔

عارف بیگانہ حضرت مولانا میاں محمد بخش قادری قدس سرہ (کھڑی شریف)

فاضل جلیل، عارف پشیمان، آفاق شاعر حضرت میاں محمد بخش قادری (مصنفت سیف

الملوک) ابن حضرت مولانا میاں شمس الدین قادری قدس سرہ (۱۲۴۶ھ/۱۸۳۰ء) میں علاقہ
کھڑی خاص (ضلع میرپور، آزاد کشمیر) میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ ثانی حضرت سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد گرامی سید عالم دین، باکمال صدوقی
اور حضرت پیرے شاہ غازی قدس سرہ کی درگاہ کے سجادہ نشین تھے۔ میاں صاحب نے علوم
دینیہ کی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، زہد و تقویٰ اور صفایہ باطن کا اعلیٰ ذوق بھی انہی کے
فیض نظر کا نتیجہ تھا۔

علوم ظاہریہ سے فراغت کے بعد تزکیہ باطن اور معرفت کے اسرار و رموز حاصل کرنے
کا اشتیاق پیدا ہوا، اس تلاش میں جہاں کہیں کسی صاحب دل کا پتہ چلتا وہیں پہنچ جاتے
اور روحانی استفادہ کی کوشش کرتے۔ ایک دن حصول مقصد میں تاخیر کی وجہ سے بہت محظوظ
ہوئے اور استخارہ کیا تاکہ کوئی راہ نکل آئے، نیند اور بیاری کے درمیان دیکھا کہ حضرت
پیرے شاہ غازی المعروف دھڑی واسے پیر رحمانہ تعالیٰ (کھڑی شریف) بازو سے پتھر کہہ
فرما رہے ہیں

”تم میرے مرید اور میں تمہارا پیر ہوں، سلسلہ عالیہ قادریہ میں سائیں

غلام محمد میرے روحانی فرزند ہیں، کھڑی شریف میں حاضر ہو کر ان کی ظاہری

بیعت کر لو“

میاں صاحب اٹھے اور بڑی خوشی کے ساتھ حضرت سائیں غلام محمد رحمانہ تعالیٰ کی خدمت
میں حاضر ہو کر عرض مدعا کیا، انہوں نے فرمایا ”کچھ دن صبر کرو“ چند دن بعد پھر درخواست
کی تو پھر وہی جواب ملا، اس طرح کئی سال گزار گئے، اس دوران آپ نے تزکیہ باطن اور سلوک
کی کئی منزلیں طے کیں اور باقاعدہ عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ آخر ایک روز حضرت

سائیں غلام محمد نے میاں صاحب کو اپنے شیخ کے مزار پر لے جا کر جمعیت سے مشرف فرمایا اور حکم دیا کہ کشمیر جا کر حضرت شیخ احمد دلی قدس سرہ سے مزید فیض حاصل کرو۔

میاں صاحب اب ایک دشوار اور کٹھن سفر پر روانہ ہو گئے اور مقصد کی لگن میں سفر کی صعوبتوں سے بے نیاز سر بیگہ جا پہنچے، حضرت شیخ احمد دلی رحمہ اللہ تعالیٰ جی شفقت سے پیش آئے اور اسرار معرفت سے آگاہ کر کے خلعت خلافت سے نوازا، کچھ عرصہ بعد مرشد کامل کی اجازت سے واپس آکر کھڑی شریعت قیام پذیر ہو گئے اور فیض وجود کے دریا بہا دئے، بلاشبہ ان گنت افراد آپ کے انعام قدسیہ، ارشادانہ عالیہ اور فیض نظر سے مستفید ہوئے، حضرت میاں صاحب ایک متمول اور خوشحال خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے باوجود جوانی ہی میں علائق دنیا سے بیزار اور ظاہری جاہ و چشم سے متنفر تھے، آپ کے والدین نے بڑی محبت سے آپ کی ایک جگہ نسبت طے کی تھی لیکن آپ نے اسے بھی توڑ دیا اور تجرد کی زندگی کو پسند کیا، تمام زندگی معمولی مقدار میں کھانا تناول فرماتے رہے، خاص طور پر عمر کے آخری حصے میں تو خورداک کی مقدار بالکل قلیل رہ گئی تھی، عبادت و ریاضت کی لگن اور محبت اللہ کی محبت نے آپ کے دل کو دنیا اور دنیاوی امور سے پروری طرح مستغنی کر دیا تھا، یہی وجہ تھی کہ آپ کی مجلس میں حاضر ہونے والا اللہ تعالیٰ کی محبت اہل اللہ کی عقیدت، ذکر و فکر کے شوق اور روحانی سکون کی دولت سے مالا مال ہو کر لوٹتا تھا آج بھی آپ کے مرقد پر حاضر ہونے والا دلی سکون اور مسرت حاصل کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

حضرت میاں صاحب سے متعدد تصانیف یا دکار ہیں جو ان کے تبحر علمی، عقیدے کی پختگی، حسن عقیدت کی فراوانی، قدرت کلام اور نئی البدیہ شعر گوئی پر شاہد عادل ہیں، آپ کی مشہور تصانیف کے نام یہ ہیں :-

۱۔ تحفہ رسولیہ

۲۔ گلزارِ فقر

۳۔ کراماتِ غوثِ اعظم

۴۔ تحفہ مہیلاں

- ۵۔ ہدایت المسلمین (ردِ نحویت) ۹۔ نیرنگِ عشق
۶۔ تکررِ مقیمی ۱۰۔ سخی خواص خاں
۷۔ قصہ شیخ صنعان ۱۱۔ مرزا صاحبان
۸۔ شاہ منصور ۱۲۔ سوسنی مہینوال

۱۳۔ شیریں فرہاد (دعویہ وغیرہ)

ان میں سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت آپ کی لافانی تصنیف سیف الملوک کو حاصل ہوئی جو آج بھی لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے اور خطہ پورٹھوہ میں قریباً تمام مرد و زن اسے بڑی عقیدت و محبت سے پڑھتے ہیں، سیف الملوک میں آپ نے محض بیچ لجمال و سیف الملوک کے حسن و عشق کا قصہ ہی بیان نہیں کیا بلکہ بقول عارفِ رومی سے

خوشتر آں باشد کہ ستر و لہراں

گفتہ آید در حدیث دیگران

عاشق صادق کو عشق حقیقی، تصوف کے گہرے اسرار و غوامض اور محبوب حقیقی کے راستے میں پیش آنے والے طوفان مصائب کے سلسلے مراد و ارسینہ سپر ہونے کا درس بھی دیا ہے چنانچہ خود فرماتے ہیں سے

ہات نمازی در محفاتی، اون و ناں دی کاٹھی

سفرِ عشق کتاب بانی سیف پھچی و جی لاٹھی

میاں صاحب واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ سیف الملوک ایسا مجازی عاشق ہے نہ پناہ مصیبتوں سے دوچار ہونا ہے، اس کے باوجود اس کی ثابت قدمی میں فرق نہیں پڑتا اور بالآخر حصول مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، عاشق حقیقی کو تو اس سے بھی زیادہ ہمت و استقلال کا ثبوت دینا چاہئے اور کسی بڑی سے بڑی مصیبت کو خاطر میں لائے بغیر براہ طلب میں کامرزن رہنا چاہئے، میاں صاحب کا کلام اسرار و معرفت کی عام فہم تشریح ہے اور اس سے اسی وقت استفادہ کیا جا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت کو مقصودِ قلب و نظر بنا کر پڑھا جائے ورنہ محض قصہ پڑھ لینے سے دل بھلانے کے علاوہ اور کیا حاصل ہو سکتا ہے؟

اس نادر قصے کا انتخاب بھی میاں صاحب کی جذبات طبع کا نتیجہ ہے طویل قلم کو جس
غرض سلوٹی اور تسلسل سے پیش کیا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے، پھر طبع یہ کہ حسن و عشق،
رنج و راحت، بجز و بر، باغ و بہار اور حقیقت و مجاہد کسی بھی عنوان پر آپ کا شہوار قلم کہنے
کا نام نہیں لیتا، سیف الملوک کے مطالعہ کی بنا پر اگر آپ کو چاہی پنجاب کہا جائے تو ہرگز
مبالغہ نہ ہوگا، آپ نے صرف تیس سال کی عمر میں اسے مکمل کر دیا تھا۔

عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش قادری قدس سرہ کا وصال ۱۹۰۶ء/۱۳۲۲-۲۳
آپ کی آنکھی آراہ گاہ آپ کے مدوح اور مرشد معنوی حضرت پیر سے شاہ غازی قادری قدس
سرہ کے جوار میں بنی، مزار پُرانا اور مرجع اہم ہے لہ

سلطہ فقیر محمد فیروز کٹرہ، جان پھچان، مقدمہ سیف الملوک (پنجابی ادبی کمیٹی لاہور)

شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد حسن جان فاروقی مجددی قدس سرہ

بقیۃ السلف حمزۃ الخلف حضرت مولانا خواجہ محمد حسن جان فاروقی مجددی ابن حضرت
خواجہ عبدالرحمن قدس سرہ (م ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء) بن حضرت شیخ عبدالقیوم سرہندی قدس سرہ
(۱۲۴۲ھ/۱۸۵۵ء) ۶ ریشال ۶۱ اپریل (۱۲۷۸ھ/۱۸۶۲ء) کو قندھار میں پیدا ہوئے لہ آپ کا
سلسلہ نسب حضرت امام ربانی مجدد العتباتی قدس سرہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد ماجد
حالات کی پگاندگی اور وظائف الملوک کے سبب ۱۲۸۱ھ/۱۸۶۵ء میں قندھار سے اڑکھان چلے
گئے۔ جب امیر عبدالرحمن نے خراسان پر تسلط کیا تو قتل و غارت کا بازار گرم کیا تو حضرت خواجہ
عبدالرحمن قدس سرہ نے ۱۲۹۷ھ میں حرمین شریفین کی طرف ہجرت کرنے کے لئے رخصت سفر
باندھا۔ سندھ، کراچی اور راجی سے ٹھوکتے عرب شریف پہنچے، ۱۳۰۰ھ سے ۱۳۰۲ھ تک تین
سال مکہ مکرمہ اور طائف میں قیام کیا، بعد ازاں مدینہ منورہ میں باہر رسالت میں حاضر ہوئے اور
ایک سال چار ماہ تک وہیں قیام پذیر رہے۔ آپ کے مخلص دوستوں اور خاص طور پر مولانا
رحمت اللہ صاحب برکی قدس سرہ نے شورش دیکھا کہ آپ وطن بلوٹ کو واپس تشریف لے جائیں
کیونکہ آپ کے وجود مسعود سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ پانچ سال تک بلادِ طیبہ میں
رہ کر وطن کو تشریف لے جاتے ہوئے جب سندھ سے گزرے تو معتقدین نے بے اصرار
گناراش کی کہ خراسان جانے کی بجائے ہمارے پاس تشریف رکھیں، چنانچہ آپ کلمہ و معانات
حیدرآباد میں قیام پذیر ہو گئے اور پھر بسین جان جان آذین کے سپرد کی اور کہ گجر کے امن میں
دفن ہوئے بعد ازاں اولاد و اہل ہاوند نے ٹنڈو سائیں داد کو مسکن بنا لیا۔

حضرت مولانا خواجہ محمد حسن جان قدس سرہ نے قرآن مجید پڑھنے کے بعد قندھار میں

سلطہ محمد مسعود احمد، پروفیسر، آئندہ مکتبہ مسعود، مظہر کراچی، ص ۴۴۰

سلطہ عبدالقدیر جان معروف، شاہ آغا، مولانا، انیس تالیفیں، ۱۳۶۱ھ/۱۹۴۱ء، ص ۵۰۰

مولانا محمد سعید فارسی کی کتابیں پڑھیں جب ۱۲۹۷ھ میں والد ماجد کے ہمراہ سندھ تشریف لائے تو قبضہ چکڑہ میں دو سال تک قیام کے دوران مولانا الحاج لعل محمد متعلوی سے کسب فیض کرتے رہے، بعد ازاں جب مکہ مکرمہ گئے تو مولانا رحمت اللہ مبارک پوری کی قدس سرہ کے قائم کردہ "مدرسہ مولانویہ" میں تعلیم حاصل کرتے رہے اور حضرت ابائی مدرسہ کی صحبت سے بھی فیضیاب ہوتے رہے۔ اسی مدرسہ میں مولانا حضرت نور سے سراجی پڑھی ۱۳۰۱ھ میں ورس حدیث مفتی محمد حضرت مولانا شیخ سید احمد دحلان رحمہ اللہ تعالیٰ سے لیا۔ والد ماجد سے دیگر کتب کے علاوہ بخاری شریف سبقتاً پڑھی اور سند فراغت حاصل کی۔

ابتداء ہی سے آپ کو حفظ قرآن مجید کا بہت شوق تھا، مکہ مکرمہ میں تعلیم حاصل کرنے لگے، تمام کام کاج کرنے، ہر روز عمرہ ادا کرنے اور عبادت و ریاضت کی بے پناہ مصروفیات کے باوجود قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا اور احتیاطاً والد ماجد کو بتایا کہ بے اندازہ مصروفیت کی بنا پر کہیں ممانعت نہ فرمادیں، والد ماجد کو اس وقت پتہ نہ چلا جب آپ بائیس پارے حفظ کر چکے تھے، اس پر انہوں نے بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور ختم قرآن کے موقع پر وسیع دعوت کا اہتمام فرمایا۔

حضرت مولانا محمد حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے علوم دینیہ کو بہت اہمیت دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ قرآن و حدیث میں جو فضائل علم دار ہیں وہ صرف علوم دینیہ سے متعلق ہیں اور مدارس دینیہ کی تعمیر و ترقی میں خود بھی حصہ لیتے تھے اور مریدین کو بھی پیش از پیش حصہ لینے کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اتباع شریعت، سادگی اور اخلاق حمیدہ میں بے مثل تھے صبر و تسلیم کا یہ عالم تھا کہ ۱۳۵۴ھ میں آپ اہل وعیال سمیت کوئٹہ میں تشریف فرما تھے کہ ۲۷ صفر کو ہولناک زلزلے نے قیامت صغریٰ قائم کر دی، پورا علاقہ تہ و بالا ہل گیا لہذا ان

۱۔ عبد اللہ شاہ جان المعروف شاہ آغا، مولانا : موشخصین ۱ ص ۵۹-۶۳

۲۔ ایضاً : ص ۶۴-۶۸

۳۔ ایضاً : ص ۱۴۱-۱۴۳

افراد شہید ہوئے حضرت مولانا کے اہل وعیال اور ہمراہیوں میں سے گیارہ افراد جام شہادت نوش کر گئے لیکن آپ نے حیرت انگیز صہمت و استقامت کا مظاہرہ کیا اور چند معاونین کے ہمراہ ایک ایک فرد کو طے کے نیچے سے نکالا اور کفن و دفن کا انتظام کیا۔

۱۳۳۲ھ میں حرمین شریفین کو بلا، نجف اشرف، شام اور بیت المقدس کی زیارات کی نیت سے تقریباً بیس افراد کے ہمراہ بغداد تشریف حاضر ہوئے۔ یہ آپ کا چوتھا سفر زیارت تھا، اسی دوران جنگ غلہ چھپر گئی اور آپ بہ ہزار مشقت حرمین شریفین پہنچے اور مختلف مقامات کی سیر کرتے ہوئے واپس تشریف لائے۔

حضرت مولانا علم و فضل کے ساتھ ساتھ بے باک مجاہد اور مرد میدان بھی تھے چنانچہ جب ۱۲۹۶ھ میں انگریزوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو آپ بھی والد ماجد کے ہمراہ شریک کارزار ہوئے۔ آپ بیدار مغز اور صاحب بصیرت قومی رہنما تھے۔ ترکی کے سلطان عبدالحمید خان کو خلیفہ المسلمین تصور کرنے سے اور جب انگریز پرستوں نے سلطان کو معزول کیا تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے، جنگ بلقان اور اطالیہ کے طرابلس پر حملے کے موقع پر معتقدین اور سندھ کے مسلمانوں سے خطیر رقم اکٹھی کر کے ہلال احمر کے ذریعہ مجاہدین کے لئے بھجوائی تھے۔

تحریک خلافت میں گم کردہ راہ لیڈروں کی کج روی پر بہت افسوس کیا کرتے تھے۔ آپ نے کھل کر بعض مسائل میں شرعی نقطہ نظر سے اختلاف کیا اور وطن و تہذیب کی پرواہ کئے بغیر اپنے موقف کو واضح طور پر پیش کیا۔ آپ گاندھی کی قیادت کو سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان لوگوں پر تعجب ہے کہ ایک طرف تو انگریزوں سے لاتعلقی کرتے ہیں اور دوسری طرف مشترکین ہنود سے اتحاد اور وداد کے حامی ہیں جو انگریزوں سے بھی زیادہ دشمن اسلام ہیں، اسی طرح جب لیڈوں نے ہندوں

۱۔ عبد اللہ شاہ جان المعروف شاہ آغا : موشخصین ص ۱۴۱-۱۸۰

۲۔ ایضاً : ص ۱۴۳-۱۴۸ : جملہ موشخصین ص ۱۸۰-۱۸۵ : تقریر اصولیہ اردو : جلد ۱ ص ۱۸۰-۱۸۵

۳۔ عبد اللہ شاہ جان : موشخصین ص ۱۹۱-۱۹۴

کے فریب میں آکر سادہ لوح مسلمانوں کو انگیزی کے مقبوضہ علاقوں سے ہجرت کر کے افغانستان چلے جانے کا مشورہ دیا اور لوگ جوئی درجوں تک وطن کرنے لگے تو اس موقع پر بھی آپ نے قوم کی صحیح رہنمائی کی اور ترک وطن سے ممانعت کی اور فرمایا :-
 ” وہاں اتنی گنہگار کشمیں ہے کہ سب لوگ سہا سکیں خواہ خواہ خود بھی پریشان ہوں گے اور مسلمانوں کے بادشاہ کو بھی تکلیف دیں گے
 اس سے مسلمانوں کے دشمنوں کو خوشی ہوگی“

تاریخ شاہد ہے کہ ترک وطن کر کے جانے والوں کا جو حال ہوا وہ کسی طرح جہنمی قابل اطمینان نہ تھا۔

اسی دوران سندھ میں فتنہ نجدیت نے سر اٹھایا، اس کی سرکوبی کے لئے بھی آپ نے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ غرض اعتقادی، عملی، اخلاقی اور سیاسی امور میں قوم کی بروقت راہنمائی کی اور ایک روشن دماغ صاحب الراء قائد کے فرائض انجام دئے۔

حضرت مولانا محمد حسن جان رحمہ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے۔ ہر اس تحریک میں بڑھ کر حصہ لیتے جو اسلام اور مسلمانوں کی بہتری کے لئے شروع کی جاتی۔ تحریک خلافت کے دور کا ایک واقعہ آپ کے فسر زئیہ اچند مولانا پیر ہاشم جان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا :

” جب تحریک خلافت شروع ہوئی تو اس وقت مولانا محمد علی جوہر کی ہدایت پر سندھ میں اہل ثروت لوگوں سے چندہ جمع کرنے کے لئے حاجی عبدالرشید ہارون کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کمیٹی کے افراد حاجی صاحب خود حکیم فتح محمد اور مولانا محمد صادق وغیرہ

۱۔ ترک کر کے ہجرت کے لیے ہر ایک کو صرف وہی تھا جو ملت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے تھا۔
 ۲۔ کئے گئے فاضل بریلوی اور لوگ مولانا شای کو وکری جیسی بھلا اور (از پر و شہرہ مسعود احمد)
 ۳۔ عبدالرشید ہارون، رشاد احمد، سائیس خٹک، ۱۹۰۵ء - ۱۹۰۶ء

میرے والد ماجد محمد حسن جان سرہندی کی خدمت میں پہنچے اور اپنا مقصد بیان کیا، والد محترم نے فرمایا کہ خلافت اسلامیہ کے احیاء اور انگریز حکومت سے مسلمان ممالک کی آزادی کے لئے ضرورت جس بات کی ہے وہ جہانی جہاد کی ہے، مالی جہاد جہانی جہاد سے بہت فروتر ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ میں گھر جا کر دیکھنا ہوں، گھر میں جو رقم ہوگی وہ لا کر پیش کر دوں گا، اس وقت کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، اشرفیوں کی صورت میں روپیہ جمع رہتا تھا چنانچہ والد محترم پھر بھی ہونے کی تمہیل سے اٹھا کر لائے، کمیٹی کے ممبروں کے حوالے کر دیں اور فرمایا : میرے گھر میں دس ہزار روپیہ سے کچھ زائد تھے وہ سب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انہوں نے ایک آنہ بھی گھر میں نہیں چھوڑا تھا، پورے برصغیر میں یہ مالی قربانی کی اس طرح کی پہلی مثال تھی جو والد محترم نے پیش کی تھی۔

مولانا محمد حسن جان رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریک پاکستان کے سلسلے میں مسلم لیگ کی بھرپور امداد کی، مریدین کو مسلم لیگ کے حق میں ووٹ ڈالنے کا حکم دیا اور بائزرگوان کو خطرہ لکھ کر مسلم لیگ کی حمایت کا حکم دیا۔ ذیل میں آپ کے ایک فارسی مکتوب کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے :

مخلصین کو میں ڈیرہ محمد قاسم و ڈیرہ عبدلرشید و قاضی جان محمد مسلم رہتم بعد از دعائے خیر تم مخلصین کو بطور نصیحت لکھا جاتا ہے کہ ایکشن کے سلسلہ میں اسلام کے مددگار بنو اور کافر ہندوؤں کی رقبت سے الگ ہو جاؤ کیونکہ یہ ہندوؤں کا مسلمانوں سے مقابلہ

ہے سید اکبر علی شاہ کو مسلم لیگ کا گھٹ دے دیا گیا ہے اس لئے
 تم پر لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے دستبردار ہو جاؤ اور جس قدر ممکن ہو
 امداد کرو۔ والسلام

فقیر محمد حسن جان عفی عنہ لہ

۶ ماہ صفر ۱۹۶۵ء

سندھ میں یہ مقولہ مشہور تھا کہ

”پیر سرہندی سندھ کا بے تاج بادشاہ ہے“

چنانچہ آپ کی امداد و اعانت سے مسلم لیگ نے سندھ میں زبردست کامیابی حاصل کی۔
 مسجد نزال گاہ، مسجد کوہ ہندوؤں کے قبضے سے واگزار کرانے کی تحریک چلی تو آپ
 نے اپنے دو صاحبزادوں مولانا عبداللہ جان اور مولانا عبدالستار جان کی قیادت میں
 ہزاروں مریدین کو سکھر جمیڈیا جنوں نے مسجد کی واپسی تک تحریک میں پُرجوش حصہ لیا۔
 سندھ میں لواری بہت بڑی گدی ہے، وہاں کے مشائخ دینی اور قومی خدمات کی
 بنا پر زبردست شہرت کے حامل رہے ہیں۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل بعض لوگوں
 نے مشہور کر دیا کہ جناب احمد زمان سجادہ نشین لواری شریف نے عرس
 کے موقع پر حج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور مریدین کو یہ تاثر دیا ہے کہ
 مکہ، مدینہ جانے کی بجائے ہمیں حج کر لیا کریں مکہ کا سامان اور لواری شریف میں منتقل ہو گیا
 ہے۔ حضرت خواجہ محمد حسن جان رحمہ اللہ علیہ کو یہ اطلاع پہنچی تو انھیں ایما پر ہزاروں مریدین
 کفن بردوش میدان میں نکل آئے۔ جب انگریز حکومت نے دیکھا کہ مسلمان اس مسئلہ پر
 خون بہانے کے لئے تیار ہیں تو سرکاری طور پر پابندی کا اعلان کر دیا تاکہ

حضرت مولانا کو دینی اور ملی کتب کے مطالعہ سے بے حد شغف تھا، اپنے اکثر
 اوقات تصنیف و تالیف میں صرف فرماتے تھے، آپ کا ذاتی کتب خانہ مطبوعہ اور

لے عبداللہ جان معروف بہ آغا، مولانا، مولانا نصیر، ص ۲۰۴

لے نور علی، ص ۲۵، ہفت روزہ اداکار، لاہور، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۱۹۶۵ء، ص ۲۵-۲۴
 (مترجم پروفیسر سرہندی)

نویسندہ نادر و نایاب کتب کا بہترین ذخیرہ ہے۔ آپ نے اس دور کی اعتقادی آویزش کو
 شکم کرنے کے لئے نہایت اہم کتابیں لکھیں۔ آپ نے دیگر موضوعات پر بھی قلم اٹھایا اور فضیلت
 علمی کے قابل قدر جواہر پارے یادگار چھوڑے۔ آپ کی تصانیف یہ ہیں:-

۱۔ شفاء الامراض (عربی) جلد امراض کے لئے کتب طبیہ کی ترتیب پر تعویذات اور وظائف
 پر مشتمل ہے۔

۲۔ انیس الارواح والذباہ حضرت خواجہ عبدالرحمن فاروقی قدس سرہ کی سوانح حیات
 ہے۔ اس میں مشائخ عظام کا اجمالی تذکرہ اور سلوک طریقہ نقش بندہ کے

ابحاث شریف درج ہیں۔ (مطبوعہ مطبع مجددی امرتسر ۱۳۲۸ھ)

۳۔ ترجمہ عمود مواعین (غیر مطبوعہ) حضرت مولانا عبدالوہاب شحرانی قدس سرہ (۱۳۴۱ھ)
 کی تصنیف کا فارسی ترجمہ۔

۴۔ انساب الانجباب: خاندان مجددیہ کا تذکرہ (مطبوعہ مطبع مشرق عالم لاہور)

۵۔ الاحول الاربعہ فی تردید الوہابیہ: مولوی محمد دین وفائی کی کتاب ”توحید الایمان“
 سندھی ترجمہ ”تقویۃ الایمان“ کی تردید۔

۶۔ طریق النجاة مع رسالہ التذییر فی اثبات التقدير (عربی) ردّ نہجیت۔

۷۔ العقائد الصیغی فی بیان مذہب اہل السنۃ والجماعۃ، علامہ بریلی اور دیوبند کے
 اختلافی مسائل پر تبصرہ اور مسلک اہل سنت و جماعت کی تائید۔

(مطبوعہ مطبع الفقیر امرتسر)

۸۔ رسالہ تبلیغیہ: کلمہ طبیہ کی شرح (مطبوعہ مطبع رفاه عام اسٹیٹ پریس لاہور)

۹۔ تذکرۃ الصلوات فی بیان الاقتیاب: اُن اولیاء و صالحین کا تذکرہ جن سے عرب شریف
 سندھ، خراسان اور ہند میں آپ کی ملاقات ہوئی (مطبوعہ مطبع نظامی لاہور)

۱۰۔ شرح حکم شیخ عطارد اللہ سکندری (مطبوعہ ۱۳۳۵ھ) علم توحید اور بندے کے اپنے

لے چوکھ حضرت علامہ مولانا حسین علی مدظلہ العالی کی سب سے بڑی کتاب ”تذکرہ“ سے چھپ گئی ہے مولانا نے یہ نہیں چاہے
 غرض ادرتے آہیں

رب کے ساتھ تعلقات کی مکمل تشریح۔

- ۱۱۔ پنج گنج : اس میں پانچ رسالے ہیں ، (۱) سفر ہجاز کی تفصیلات - (۲) شرح چمن کا۔
(۳) مناسک حج - (۴) مجموعہ احادیث ، جو آپ کو مکہ مکرمہ میں شیخ سید
محمد ابو نصر دمشقی سے حاصل ہوئیں مع خطبات نبویہ - (۵) دینی و دنیا کی
نصائح۔

۱۲۔ سفر نامہ عربستان۔

۱۳۔ الاشارة الى البشارة ، اہمیت میں اشارہ نہ کرنے کی تائید و تحقیق۔

۱۴۔ رسالہ فی باب مہمۃ الحجۃ فی القریۃ : دیہاتوں اور قصبوں میں جو اتر جمعہ کے
متعلق فرماتے۔

۱۵۔ لغات القرآن : قرآن پاک کے مشکل الفاظ کی تفسیر۔

۱۶۔ رسالہ در قواعد تجوید و قرأت لہ

حضرت مولانا شعروشاعری کا عمدہ ذوق رکھتے تھے، عربی اور فارسی میں انہماک
خیال کرتے تھے۔ اگرچہ اس طرف بیان و بیان بہت کم تھا اور کوئی شعری ذخیرہ بھی یادگار نہیں
چھوڑا لیکن آپ کے کلام کی سلاست، روانی اور پختگی، ہندی فکر کی نماز ہے، یہیں تبلیغ
کی تعریف میں لکھتے ہیں :-

زاوصاف بدینہم چہ گویم، قطراہ اندر یا است
عفات آنجا کفایت آنجا صلوة آنجا زکوٰۃ آنجا
خداوند اعلا کن بندہ خود را بفضیل خود
قیام آنجا مقام آنجا حیات آنجا حیات آنجا
اگر خواہی کہ بینی جنت الماوسے دریں عالم
نشیں در روضۃ اطہر خواہ از حق نجات آنجا

لہ عبد اللہ خان مہرولہ شاہ آغا : مجلس تلمذ میں ، ص ۴۲۔۴۳

۲۰ رجب ۱۳۶۵ھ / ۱۹۴۶ء کو آپ کا وصال ہوا اور کوہ گنجر (مصناعات
حیدرآباد) کے دامن میں والدہ ماجدہ کے مزار کے پہلو میں محو خواب ابدی ہوئے۔ آپ کا مزار
پرانوار مرصع خاص و عام ہے، جناب صاحبزادہ محمد سلیم جان مجددی نے "نقشہ لہ" (۱۳۶۵ھ)
سے تاریخ وفات نکالی ہے۔ آپ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا عبداللہ جان المعروف شہناشاہ آغا
رحمۃ اللہ تعالیٰ سجادہ نشین ہوئے۔

۱۔ افسوس حضرت شاہ آغا صاحب ۱۹۷۳ء میں وصال فرما گئے۔ آپ بھی اپنے وقت کے فاضل پیل اور علی
کال تھے اور لیڈر مائٹا نقوی میں بگڑا دور گزار تھے۔ آپ کی متعدد تصانیف ہیں، آپ کا کتب خانہ علمی نوادرات اور
نادر مطبوعات سے معمور ہے اور قابل دید ہے۔ آپ کا مزار مبارک والدہ ماجدہ حضرت خوام محترمہ جان حیدرآباد کے پہلو میں
ہے اور ایک ہی گنبد میں یہ تین فضلاء وقت آرام فرما رہے ہیں یعنی حضرت خوام عبدالرحمن، حضرت علی محمد محسن جان اور حضرت
شاہ آغا حیدر رحمتہ۔ حضرت شاہ آغا صاحب کے ہاشمیں صاحبزادہ علی جان مدظلہ اعلیٰ ہیں جو جسے شروع اور نقوی
عربیوں ۹۰ سال تک ہلک ہے۔ (دیکھیں پروفیسر محمد احمد امیر سے اپنی پانچ ڈی)

نوٹ : ۱۹۷۵ء میں حضرت مولانا محسن جان مرشدی قدس سرہ کے قابل مدظلہ فرزند زاد صدقہ کے مؤرخ عالم
فاضل بزرگ پیراشم جان رحمتہ مدظلہ وصال فرما گئے ان کے حالات دوسری جگہ ملاحظہ فرمائیں۔ (شرف قادری)

ادیب اربیب، فاضل علوم و فنیہ، ماہر فنونِ عربیہ مولانا ابوالفضل محمد حسن فیضی بن جناب
 نور حسین عیسٰی ضلع جہلم کے رہنے والے تھے، اپنے وقت کے مشہور زمانہ فاضل سے کتاب
 علم کیا، اساتذہ میں سے آپ کے اموں مولانا قاضی عبدالحمید ساکن ڈھابہ فاضلیاں کا نام معلوم
 ہو سکا ہے۔ آپ مولانا ابوالفضل رحم الدین (مولف آفتابِ ہدایت و نازیادہ سعادت) کے چچا زاد بھائی
 اور اپنے دور کے بہ شکل فاضل تھے، عربی شعر و شاعری میں متقدمین شعراء کے ہم پلہ تھے، ایک
 زمانہ تک جامعہ نعمانیہ لاہور میں مدرس رہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کی مکمل تفسیر بے لفظا لفاظ
 میں لکھی تھی جو طبع نہ ہو سکی۔ آپ کی تصانیف میں سے روض الربی فی تحقیقہ الربو (جس میں
 ہندوستان کو دارالحرب، کہ اس کا فرمانروا مسلمان نہیں) قرار دے کر غیر مسلموں سے سو ولایت
 جائز قرار دیا ہے) اور میراث، ولا اور وصیت کے مسائل پر الفرائض فی الفرائض و
 الاولاد والوصیہ، عربی شعراء میں طبع ہو چکی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے متعدد مطبوعہ اور
 غیر مطبوعہ عربی قصائد آپ کے تبحر علمی، قدرتِ کلام اور ادبِ عربی پر کامل عبور کے شاہد
 عادل ہیں۔

آپ کا یہ علمی کارنامہ ناقابلِ فراموش ہے کہ آپ نے اعجاز و نبوت کے مدعی تفسیر
 قرآن اور عربی نویسی میں "انا ولا نعیری" اچھو ما دیگرے نیست) کا ڈھنڈور پٹینے والے
 مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ شکست فاش دی کہ مرزا صاحب نازدست علامہ کا سامنا کرنے
 کی ہمت نہ کر سکے۔ ہوا یوں کہ مرزا صاحب کے بلند ہنگ دعاوی اور انہماک کے پر زور
 اعلانات سن کر علامہ فیضی ۱۳ فروری ۱۸۹۹ء کو مسجد حکیم حسام الدین (سیالکوٹ) میں بنفس
 نفیس تشریف لے گئے اور پانچ ایک بے لفظ عربی قصیدہ (بلا ترجمہ) مرزا صاحب کو دکھایا
 جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ کو الہام ہوتا ہے تو مجھے آپ کے الہام کی تصدیق کے لئے یہی کافی
 ہے کہ اس قصیدہ کا مطلب حاضرین کو سنا دیں، اس قصیدہ سے کچھ شاعرانہ نظر ہو

لما لك ملكه حمد، سلام علی مرسلہ علم الکمال
 حمود احمدی و محمدیو ظهور مع اولاد و ال
 امام سلوک احمد اهل علم والهام و حلال السوال

مرزا صاحب کو کافی دیر دیکھنے کے بعد جب کچھ بھی پتہ نہ چلا تو اپنے ایک فاضل حواری
 کو دے دیا جس کے تپے بھی کچھ بڑا، مقابلہ و معارضہ تو کہا انہیں تو مطلب بھی سمجھ نہ آیا اور
 مدعی قصیدے کو صحیح طور پر پڑھ سکے، آخر یہ کہہ کر قصیدہ واپس کر دیا کہ ہمیں تو اس کا کچھ پتہ
 نہیں چلتا، آپ ترجمہ کر کے دیں۔

علامہ فیضی نے ۹ مئی ۱۸۹۹ء کو مہراج الاخبار میں ایک اشتہار شائع کیا جس میں
 یہ تمام واقعہ درج کر دیا اور آخر میں کھلے لفظوں میں مرزا صاحب کو چیلنج کیا:۔
 "آخر میں مرزا صاحب کو اشتہار دیتا ہوں کہ اگر وہ اپنے عقائد میں سچے
 ہوں تو آئیں، صد جہلم میں کسی مقام پر مجھ سے مباحثہ کریں، میں حاضر ہوں
 تحریری کریں یا تقریری، اگر تحریر ہو تو نشر میں کریں یا نظم میں عربی ہویا فارسی
 یا اردو، آئیے سنئے اور سنائیے"

مگر مرزا صاحب نے کچھ جواب نہ دیا اور اس طرح چپ سا دھی کہ کر وٹ نہ بدلی، بعد ازاں پھر
 مرزا صاحب کو ایک مکتوب ارسال کیا جو ۱۳ اگست ۱۹۰۰ء کو مہراج الاخبار میں شائع ہوا
 اس میں آپ نے پھر مرزا صاحب کو دعوتِ مقابلہ دی اور واضح طور پر لکھا کہ:
 "میں آپ کے ساتھ ہر ایک مناسب شرط پر عربی نظم و نثر لکھنے کو تیار ہوں
 تاریخ کا تقریباً ہی کر دیجئے اور اطلاع کر دیجئے کہ میں آپ کے سامنے
 اپنے آپ کو حاضر کر دوں"

اس دفعہ آپ نے جہلم کی قید بھی حذف کر دی اور مرزا صاحب کو اختیار دیا کہ جہاں چاہیں
 مقابلے کے لئے آجائیں لیکن "حل من مبارزہ" کا بانگِ دُبل اعلان کرنے والے مرزا

صاحب اس جیلنج کو بھی حسب سابق پی گئے اور منقار زبیر پر رہنے میں عافیت سمجھی۔
مرزا صاحب نے آئے دن منت نئے دعویوں پر اکتفا نہ کیا بلکہ ایک قدم آگے
بڑھا کر تمام علماء اسلام، خاص طور پر شیخ الاسلام مرشد المسلمین حضرت خواجہ پیر سید
مہر علی شاہ قدس سرہ کو تحریری مقابلہ کا بڑی شد و مدت سے جیلنج کیا تو آپ نے اپنی بے پناہ
مصروفیات کے باوجود مرزا کا جیلنج قبول کیا اور ۲۴ اگست ۱۹۰۰ء کو لاہور تشریف لائے
سیدنگروں علماء اور مزاروں عوام حق و باطل کا فیصلہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لئے
موجود تھے لیکن مرزا صاحب کو سامنے آنے کی جرأت نہ ہو سکی اس موقع پر علامہ فیضی نے
بادشاہی مسجد میں ہزاروں کے اجتماع میں پُر مفرقہ تھریکی اور مرزا کے تمام مکرو فریب کو طشت
اذہام کر دیا جس سے تمام لوگوں پر حضرت پیر صاحب کی حقانیت اور مرزا کی بطالت روز
روشن کی طرح واضح ہو گئی۔

علامہ فیضی قدس سرہ نے دوران تقریر فرمایا حضرت پیر صاحب ۲۴ اگست سے
دو روز میں تشریف فرما نہیں مگر مرزا صاحب ادھر آنے کا نام تک نہیں لیتے :
” یہ حقیقت میں خود مرزا کے اپنے قول کے مطابق ایک الہی عظمت و
جلال کا کلمہ کھلا نشان تھا جس نے مرزا کی جھوٹی و بے جا شیخی کو کچل
ڈالا اور آپ کے محاسن کی وہ گت ہوئی کہ مقابلہ و مباحثہ لایا تو درکنار
آپ کو سوائے اپنے بیت المقدس کے تمام دنیا و مافیہا کی خبر نہ رہی
اور ”وقذف فی قلوبہم الرعب بما کفروا“ کا مضمون دوبارہ دنیا
کے صفحہ پر معرض قلم پر آیا :“ سلہ

برخلاف اس کے حضور پُر نور حضرت پیر صاحب ممدوح کے دست مبارک پر
خداوند کریم نے وہ نشان ظاہر کر دیا جس کا آیت مبارکہ ”وکان حقاً علینا نظر المؤمنین“
میں وعدہ دیا گیا تھا۔

علامہ فیضی رحمہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے اس وقت تک تو مرزا صاحب نے
سکوت کو حزمہ جاں بنائے رکھا لیکن جب علامہ وصال فرما گئے تو مرزا نے موقع کو غنیمت جانا اور
ان کی وفات کو حسب عادت اپنی صداقت کا نشان قرار دے دیا چنانچہ مرزا صاحب نے
اپنی تصنیف حقیقتہ الوحی میں یوں لکھا کہ :-

” ۱۵۰ ایسا ہی مولوی محمد حسن بھی ہیں وال میری پیشگوئی کے مطابق مراجعہ کیا کہ

میں نے مفصل اپنی کتاب مواہب الرحمن میں لکھا ہے :“

۱۵۰ مولوی محمد حسن بھی ہیں والے نے میری کتاب اعجاز احمدی کے حاشیہ

پر ”لعنة اللہ علی کاذبین“ لکھ کر اپنے تئیں مباہلہ میں ڈالا چنانچہ اس تحریر

پر ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ مر گیا :“ سلہ

تعجب ہے کہ اگر مرزا صاحب اتنے ہی صاحب انعام تھے تو حضرت علامہ فیضی
کے بار بار دعوت دینے پر سامنا کرنے کی جرأت کیوں نہ کر سکے؟

علامہ فیضی حضرت پیر سید مہر علی شاہ گورکھوی قدس سرہ سے بڑے نیاز مند و تعلقات
رکتے تھے چنانچہ علامہ کے بعض قصائد سے ان تعلقات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک
تفسیرہ میں فرماتے ہیں سلہ

سقى الله ديمات المنحيات وانما دياركم طيب الشجرة العهدى

عليه سلام الله ربي ورحمت الى ان يدور النيرات على الربد

وانت طيب القلب لاملت مرشدا وتسقى عطا شامن حليب من شهد

وبعد فقد ابنا اليك محبة امرنا بها وهي الواسيلة للعبد

وناظم هذا المحرف خادم بابكا سچار له منك الجميل من الرشد

و كسر غائب اصطفى واحلى ومودة

من الاحقرين الاخذين من المسفد سلہ

سلہ محکمہ الدین دہرا دہا ۱ ”تاریخ عبرت“ ص ۳۳

سلہ انتخاب مناقب سلیمانہ (آخری صفحات)

سلہ محکمہ الدین دہرا دہا ۱ ”تاریخ عبرت“ ص ۳۳

علامہ فیضی کی اولاد میں سے مولانا فیض الحسن فیض جید عالم اور ادب عربی کے بلند پایہ
فاضل اور شاعر گزرے ہیں مولانا محمد حسن فیضی قدس سرہ کا وصال ۱۸۰۱ء کو ۲۱ اکتوبر ۱۲۱۹ھ /
۱۹۰۱ء کو ہوا، آپ کی آخری آرام گاہ جبین ضلع جہلم میں ہے۔

۱۔ ممبر کراچی دہلی مولانا ، تازہ نعت ص ۴۵

نوٹ : اردو روزنامہ نعت میں مولانا محمد حسن فیضی کے کلاموں کی تفصیل کے لئے مولانا محمد شاہ نیش قندھاری
زیر مجرہ کا مضمون " طبع نبوت کے تین مقام " ماہنامہ ضیاء کے حرم کے طبع نبوت نمبر شمارہ دسمبر ۱۹۰۲ء کو
ملاحظہ فرمائیں۔

آقائے سرہندی حضرت مولانا محمد حسین جان قدس سرہ

حضرت مولانا محمد حسین جان ابن حضرت خواجہ عبدالرحمن (م ۱۳۱۵ھ) ابن حضرت خواجہ
عبدالقیوم (قدست اسرارہم) ۱۲۸۸ھ / ۲-۱۸۴۱ء میں بمقام ارغستان قندھار میں پیدا ہوئے، آپ کا
سلسلہ نسب حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ تک پہنچتا ہے، آپ کے بڑے بھائی حضرت خواجہ
محمد حسن جان قدس سرہ اپنے دور کے مقتدر عالم و عارف تھے، حضرت خواجہ محمد حسین جان سرہندی نے
تمام علوم اپنے والد ماجد اور فضلاء کے علم سے حاصل کئے، پانچ سال تک مدرسہ صوفیہ مکر مکرہ میں
تعلیم حاصل کی، شیب و روز مظاہرہ میں منہمک رہتے، تمام علوم میں بی گلوئی رکھتے تھے، خاص طور پر
علم ادب اور تاریخ پر کمال نظر رکھتے تھے، لہ جو انی ہی میں شہر و سخن کا آغاز کیا اور حالات زمانہ
کے دیگر گوں ہونے کے باوجود فارسی شاعری کو باج و دوج تک پہنچایا، آپ کو فی البدیہہ شعر کہنے میں
کمال حاصل تھا، طریقت میں حضرت خواجہ عبدالرحیم قدس سرہ (م ۱۳۱۵ھ) سے بیعت تھی۔

حضرت سرہندی تقریباً تمام اصناف سخن میں ماہرانہ انداز میں نظماں خیال فرماتے تھے۔

آپ کے کلام میں قطععات، رباعیات اور مثنویات تمام چیزیں ملتی ہیں، فارسی کے علاوہ عربی اور
پشتو میں بھی طبع آزمائی فرماتے تھے، آپ نے شعر و شاعری کو اپنا پیشوا و مسلک نہیں بنایا بلکہ بعض
اوقات تغزین طبع کے طور پر دلی جذبات کو اشعار کے قالب میں ڈھال دیا کرتے تھے، آپ نے

فارسی زبان کے نامور شعراء نظامی، بخاری، سعدی، رومی، خسرو، حافظ، جامی، ہرانی، کلیم اور
بیدل کی زمینوں میں بڑی جاندار غزلیں کہی ہیں، حافظ شیرازی کی ایک غزل کا مطلع ہے :-

تعالیٰ اللہ چہ دولت دارم امشب کہ آمد ناگہاں دلدارم امشب
اس پر حضرت سرہندی کہتے ہیں :-

تعالیٰ اللہ چہ شیریں کارم امشب ز وصل اُن پری بیدارم امشب

۱۔ آقا صاحب اللہ جان، مولانا، مونس المصنوعین، طبع ۱۳۶۶ھ، ص ۱۹۔

مجموعہ موصوفیہ، پروفیسر آقائے سرہندی، ماہنامہ روشنی زبان کراچی، جنوری ۱۹۶۸ء، ص ۶۵۔

مہم چوں تاب ہر روز در آمد ز عکس سز بسرا نوارم اشب
فعلت ایک اشکو کون فرا تک بگفتا لشکر کن غمواوم اشب

فداوند اکہ مرتب دی چو حافظ

ز جام بے خودی سرشارم اشب

حکیم ہرانی کے متبع ہیں ایک غزل لکھی ہے جس کا مقطع ہے یہ

سرہندی ازاں بست سبب شریعت و صلح کز بروئے او دید بلال رمضان را
جال رمضان دیکھ کر روزہ رکھنے کو استعارے کے انداز میں کس خوبی سے نبھایا ہے۔

افغانستان کی زمیں خالی کی وجہ سے چار مقدس چلے گئے، وہاں پانچ سال قیام کے بعد اپس
آکر موضع نیکھر صوبہ ہندوستان میں طویل عرصہ تک قیام پذیر رہے آخر میں سمارو شریف منتقل ہو گئے وہ یہیں
ماہ صفر ۱۳۶۸ھ / ۱۹۴۸ء میں انہی سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ آخرت میں جب حالت انتہائی نازک
ہو گئی تھی آپ کو اطلاع دی گئی کہ کوچی کے ایک ماہر طبیب کو بلا لیا گیا ہے، انشاء اللہ العزیز کل صبح کھٹکتے ہوئے
بلے گا، آپ نے حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے فرمایا:

”صبح تک حکیم کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔“

پنچاچیا ہی ہوا، رات کے تین بجے کے قریب کھڑے صیبر پڑھنے انک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے
ایک صاحبزادی کے علاوہ باقی اولاد آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھی۔

حضرت سرہندی کی کلیات خیابان سرہندی کے نام سے شاہ ہو چکی ہے، آپ کے کلام
کے مطالعہ کے بعد دثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ برطانوی عہد کے سندھی فارسی گو شعرا
کی صف اول میں شامل تھے لہ

سراج الملتہ حضرت پیر سید محمد حسین شاہ علی پوری قدس سرہ العزیز

حضرت مولانا حافظ پیر محمد حسین شاہ ابن امیر ملت حضرت پیر حافظ جامع علی شاہ محدث
علی پوری قدس سرہما، شوال المحرم ۱۲۹۸ھ / اپریل ۱۲۹۸ھ / ۱۸۷۸ء کو علی پور سیال (سیالکوٹ)
میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب ۳۷ واسطوں سے اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا
علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ۵ سال کی عمر میں حفظ قرآن کریم کے لئے حافظ
شباب الدین مرحوم کے پاس بھٹائے گئے۔ حفظ کلام پاک کے بعد ٹول تک سکول میں تعلیم حاصل
کی، بعد ازاں فارسی اور صرفت و نحو کی ابتدائی کتابیں مولانا عبدالرشید صدیقی سے پڑھیں، پھر تشریح
کے نامور عالم دین مولانا نور احمد تیسری (مخفی مکتوبات شریعت) کی خدمت میں حاضر ہو کر اکتساب
فیض کیا۔

جن دنوں آپ امرتسر میں زیر تعلیم تھے، امیر ملت حضرت پیر سید جامع علی شاہ قدس سرہ
امرتسر شریعت لے گئے اور اتھارنا آپ سے چند مشکل صیغے پوچھے جنہیں آپ نے صحیح طور پر
بتا دیا۔ ایک مولانا صاحب نے پوچھا کہ ”سگ بچہ در جو البغیر“ کو کس صیغہ ہے؟ آپ نے بتایا
کہ یہ فعل ماضی رباعی مجرد و فصل کے ابتدائی ترین صیغوں دحرج، دحرجا، دحرجا کے وزن پر ہے
اس پر حضرت امیر ملت بہت خوش ہوئے۔ دورہ حدیث مدرسہ امینیہ دہلی میں کیا جمال س وقت
مولوی کنایت اللہ دہلوی درس حدیث دیتے تھے، ڈیڑھی نذیر احمد سے ادب اور تاریخ کی کچھ
کتابیں پڑھیں۔

بیمیل علوم کے بعد ۲۰ سال کی عمر میں حضرت پیر سید نجابت علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ (حضرت
امیر ملت کے برادر بزرگ) کی دختر نیک اختر سے شادی ہوئی، انہی دنوں علی پور شریعت میں مدرسہ تفتیشیہ
کی بنیاد رکھی گئی جس کے آپ مہتمم مقرر ہوئے، مدرسہ کے انتظام کے علاوہ آپ مختلف علوم و فنون کی
کتابیں خود بھی پڑھایا کرتے تھے۔

حضرت پیر محمد حسین شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت بابا فیض محمد قدس سرہ (چوردہ شریعت)

لے یہ تمام حالات بخوبی پروفیسر محمد سعید احمد دہلوی کے مضمون ”آئینہ سرہندی“ ۵۰ ہمار قومی زبان، کراچی، جنوری ۱۹۶۸ء

میں ۱۰۵-۱۰۶ سے اخذ ہیں

کے دست مبارک پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہو کر خلافت پائی ان کے وصال کے بعد اپنے والد ماجد سے بیعت ہو کر خلافت سے نوازے گئے، ہزاروں افراد حضرت امیرت قدس سرہ کی ظاہری حیات ہی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ہدایت یاب ہوئے۔

آپ کے چند مشعلات ملاحظہ ہوں :-

- حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی تمام کمالات کا سرچشمہ ہے۔
- حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم و توفیق کے بغیر نجات ناممکن ہے اگرچہ کتنا عابد و زاہد ہو۔
- جو شریعت کا پابند نہیں مگر چاس سے عوارقی عادات کا کبرت ظلم ہو ولی نہیں ہے، ولایت کی بنا راتباع سنت پر ہے، کلمات پر نہیں۔
- اہل سنت و جماعت کا طریق ہی طریق حق ہے۔
- صحبت صالحین اخلاق و احوال کی اصلاح کے لئے اکبر اعظم ہے۔

افضل رسل آپ کی نصیحت یا دعا کے جس میں دلیل طور پر ثابت کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل ہیں تاہم ۱۹۱۲ء (جلد ۱) میں لکھی گئی تصانیف انوار الہیہ فی قصوں میں قسط وار شائع ہوتی رہی ہیں۔

۱۲ ربیع الاول ۱۲۸۱ھ (۱۹۶۱ء) بروز سوموار آپ کا وصال ہوا، دوسرے ہزاروں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی، علی پور شریعت میں آپ کا مزار مرجع خاص و عام ہے۔

حضرت مولانا ضیاء القادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ وصال لکھی ہے

دہلی ہوئے پشت بریں کو ہزار حیف! بزم جہاں سے آج محمد حسین شاہ
نور نگاہ پیر جماعت علی تھے آپ غصہ آپ شریح کامل و اکمل خدا گواہ

سال وصال کئے ضیاء انجمناب کی

”جنت نصیب میر محمد حسین شاہ“

۱۳ ۵ ۸۱

زبدۃ السالکین حضرت الحاج میاں محمد حسین قادری نقشبندی مجذبی قدس سرہ

زبدۃ الصغیر حضرت الحاج میاں محمد حسین قادری نقشبندی ابن کرم الہی رحمہما اللہ

تعالیٰ ۹، محرم الحرام ۲۰۰، نومبر بروز شنبہ (۱۳۰۰ھ/۱۸۸۲ء) موضع جھکیاں ناگرہ
مضافات لاہور میں پیدا ہوئے والد ماجد نے ہوش سنبھالنے پر تعمیر سیرت پر پوری توجہ دی،
ایک دن میاں محمد حسین کپاس کا پھول توڑ لائے، والد گرامی کو پتہ چلا تو خوب نواضع کی اور
زمیندار کے پاس جا کر فرمایا اس بچے نے تمہارے کھیت سے ایک پھول توڑ لیا ہے، اب
تمہاری مرضی ہے چاہو تو قیمت لے لو اور چاہو تو معاف کر دو۔ میاں صاحب فرمایا کرتے
تھے مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوئی ہو۔ قرآن مجید
والد ماجد سے پڑھا اور قصبہ ڈھولن وال میں پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔

ابتدائی تعلیم کے بعد حضرت پیر عبد الغفار شاہ قدس سرہ حامی اشاعتِ روڈ شریعت

امام مسجد تکبیر سادھواں کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور فارسی کی مروجہ کتب
گلستان، بوستان وغیرہ پڑھیں، اس کے بعد حضرت مولانا حافظ فتح محمد بانی جامعہ فتحیہ
اچھرہ (لاہور) کی خدمت میں حاضر ہو کر تین سال تک کسب فیض کیا اور مالابہ عمدہ پمفاج
الصلوۃ، اخلاق جلالی اور زیچا جامی وغیرہ کتابیں پڑھیں، ان کے زہد و اتقار اور
اتباع شریعت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے دستِ اقدس پر بیعت ہوتے طلب
علم کے ساتھ ساتھ مجاہدات میں مصروف رہے اور سلوک و عرفان کی منزل میں طے کیں۔ میاں
محمد حسین رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مرشد کامل سے والہانہ محبت تھی، ان کے ارشادات کو
تمام عمر حرز جہاں بنائے رکھا۔

ان کے وصال کے بعد حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز خطیب جنازہ گاہ مزنگ

(لاہور) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدوری، منیۃ المصلیٰ، کنز الدقائق، شرح وقایہ
اور تفسیر حسینی وغیرہ کتب پر عبور حاصل کیا، مولانا نور الدین ابن مولانا غلام قادر شائق رحمہما

اللہ تعالیٰ، اونچی مسجد پانچ منبری (اندرون شاہ عالم مارکیٹ) سے فرین خوشنویسی حاصل کیا اور اس فرین لطیف میں صاحب کمال ہوئے۔

حضرت میاں محمد حسین رحمہ اللہ تعالیٰ فریاً بیس سال تک اچھرہ میں مختلف بھٹیوں پر خوشی گیری کرتے رہے پھر ملازمت کو چھوڑ کر علوم دینیہ کی تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ پیشقدم آئینہ رنگ جاری رہا۔ آپ کو اولیاء کرام سے بے پناہ عقیدت تھی، دور دراز کا سفر طے کر کے ان کی زیارت سے مشرف ہوتے۔ کتب دینیہ میں سے کتب تصوف سے خاص لگاؤ رکھتے تھے، لباس اور خوراک میں سادگی پسند تھے۔ بہر کام میں سنت مبارکہ کی پیروی کو پیش نظر رکھتے، غیر مشروع اور قبیح رسوم سے سخت متنفر تھے اور ان کو ختم کرنے کے لئے ہر طرح کوشش فرماتے، صبح سے شام تک ذکر و فکر میں مصروف رہتے، جسمانی اور روحانی امر میں کے مرہض آپ کی توجہ، دعا اور دم سے بفضلہ تعالیٰ شفا یاب ہو جاتے۔ ۱۹۴۷ء میں حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے، واپسی پر پیٹ کی تکلیف کا عارضہ لاحق ہوا جو آخر تک دور نہ ہوا۔

حضرت میاں محمد حسین رحمہ اللہ تعالیٰ ۱۶ جمادی الاخریٰ ۲۸۰ (دسمبر ۱۹۴۸ء) / ۱۹۵۸ء) دست کو ساڑھے بارہ بجے راہی دار آخرت ہوئے۔ موضع جگکیاں ناگرہ ڈاک خانہ ڈھولن وال، ملتان روڈ (لاہور) کی مسجد میں آپ کی آخری آرام گاہ بنی۔ ہر سال ۱۶ جمادی الاخریٰ کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے جس میں وعظ و نصیحت کے علاوہ ایصالِ ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

مولانا پیر غلام دستگیر نامی نے تاریخ وفات کہی ہے کہ
تھے نام محمد سے حسین ایک جو مرموم
دل جن کا تھا اللہ کے اذکار سے مشغول
مسجد ہی میں مشغول عبادت رہے تا عمر
ہاں اسے کے چو گزشتہ مسجد میں مدفون

نامی نے کسی بے سہرا نکار یہ تاریخ
”عاجی ہوئے مغفور“ سزا عالم بخزون لے

۱۳۷۸ھ

حضرت میاں صاحب سے تین فرزند یادگار ہیں:-

۱۔ جناب سید محمد کرم صاحب۔

۲۔ جناب الحاج محمد اعظم خوشنویس۔

۳۔ ہمارے کرم فرما، صاحب علم و ادب محمد عالم مختار حق مدظلہ

حضرت میاں صاحب کے صاحبزادگان نے نقوش جمیل کے نام سے اپنے والد گرامی کے مختصر حالات شائع کر دیے ہیں۔

سزا عالم بخزون، نقوش جمیل، مطبوعہ ۱۹۵۹ء

امام المعقولات مولانا محمد دین بدھوی رحمہ اللہ تعالیٰ

منطق و فلسفہ کے مسلم ستارہ مولانا محمد دین بدھوی ابن مولانا قاضی سید رسول موہن بھو
ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، صرف و نحو کی تحصیل
فتح جنگ، ضلع کیمبلیو میں کی، بعد ازاں رام پور میں مولانا فضل حق رام پوری اور ٹونک میں غالب مولانا
حکیم برکات احمد ٹونکی کی خدمت میں کسب فیض کرتے رہے، رام پور اور ٹونک میں مجموعی طور پر سات
سال رہ کر کیمیل کی اور واپس وطن تشریف لائے۔ گمان غالب ہے کہ آپ حضرت پیر سید میر علی شاہ
گوٹروی قدس سرہ کے مرید تھے۔

پہلے چنچال بدھوی میں درس دیا جس میں بخارا، کابل اور علاقہ بغیر کے طلباء شریک ہوئے،
بعد ازاں امرتسر، محلہ شریف، عثمان، سیال شریف، وزیر آباد، بھیرہ شریف، ڈرہچہ، شرق پور،
بندیال، بری پور، چکوال وغیرہ مقامات پر مشنگان علوم کو میرا بنے رہے۔ آپ کا اتیاری
وصف یہ تھا کہ پنجابی طلبہ کو پنجابی میں، ہندوستانی طلبہ کو اردو میں، پٹھانوں کو پشتو میں، اہل
فارس کو فارسی میں، اور اہل عرب کو عربی میں درس دیتے تھے۔ منطق و فلسفہ کی کتب پر اس قدر
دسترس حاصل تھی کہ جس مسئلے کی ضرورت ہوتی کتاب کو اس طرح کھولتے کہ وہ مسئلہ
سلسلے ہوتا تھا۔ حافظہ اس غضب کا تھا کہ مطالعہ کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے،
حمد اللہ شرح سلم پڑھتے تو سلم کی عبارت زبانی پڑھ کر مطلب بیان کر دیتے اور اس کے
بعد شرح کی تقریر کر دیتے۔

قیام بندیال کے دوران ایک دفعہ مولانا محمد عبدالحق بندیا لوی ناظم علی جامعہ امدادیہ
منظریہ بندیال شریف نے مطالعہ کے لئے شرح حمد اللہ لاکر کھودی۔ امام منطق و فلسفہ
نے دیکھا تو کہا کتاب نے جامعہ کو مطالعہ کی ضرورت نہیں۔ ملک المدین حضرت مولانا
عطا محمد بندیا لوی و امت برکات نام عالمیہ نے ایک دفعہ فرمایا: اگر وہ مطالعہ کر کے پڑھاتے تو
حافظہ اس قدر قوی اور ذہن اتنا عاقل تھا کہ منتقدین اہل فن کے برابر ہوتے۔ خاص میں

ہونے کے باوجود تقریر اس قدر پُر اثر کرتے تھے کہ دلوں کی دنیا تو بالابال ہو جاتی تھی۔ اشعار
تحت اللفظ پڑھتے تھے لیکن ایک ایک مصرعہ پر آنسوؤں کے دریا جاری ہو جاتے تھے۔

بلشعب آپ سے سینکڑوں علمائے اکتساب فیض کیا، چند فضلاء کے اسماء
درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی مدظلہ العالی۔
- ۲۔ مولانا پیر محمد کرم شاہ، مدیر اعلیٰ ضیائے حرم۔
- ۳۔ مولانا محمد عبدالحق بندیا لوی۔
- ۴۔ مولانا محمد حنیف خطیب بغدادی جامع مسجد قائد آباد۔
- ۵۔ مولانا سید غلام حبیب شاہ۔
- ۶۔ مولانا سید غلام دستگیر شاہ، ڈرہچہ شریف۔
- ۷۔ مولانا سید زبیر شاہ چکوال۔
- ۸۔ مولانا سید عباس علی شاہ۔

شوال ۲۵۱، فروری ۱۳۸۳ھ / ۱۹۶۴ء کو تقریباً اسی سال کی عمر میں راہی دایہ
آخرت ہوئے اور بدھویں محو استراحت میں ملے

ملہ مکتوب جناب کاظمی حسن اختر، موضع بدھو، بنام مولانا۔

مولانا محمد ذاکر گوبی حشمتی قدس سرہ

مولانا محمد ذاکر ابن مولانا عبدالعزیز گوبی (۱۳۲۲ھ/۱۹۰۴ء) اپنے وطن گجرات صلیح جہلم میں ۱۲۹۳ھ/۱۸۷۶ء میں پیدا ہوئے، تاریخی نام گل زنگین محمد ذاکر (۱۲۹۳ھ) سے تمام ظاہری اور باطنی علوم والد ماجد سے حاصل کئے، مدرسہ طبری دہلی میں عازق الملک حکیم عبدالحمید خاں سے علم طب حاصل کیا، جم غمزم مولانا غلام محمد گوبی سے تصوف کی کتابیں پڑھیں، ۱۶ سال کی عمر میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا، بعد ازاں مدرسہ حمیدیہ، قائم کردہ انجمن حمایت اسلام لاہور میں بحیثیت صدر مدرس مولوی فاضل کے طلباء کو پڑھانے پر مامور ہوئے اور سالہا سال تک پڑھاتے رہے۔

حضرت خواجہ الحدیث تونسوی سے آپ کے خصوصی تعلقات تھے، حضرت خواجہ صاحب آپ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ۱۹۰۴ء میں حضرت خواجہ محمد زین سیالوی کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی کے عرس پر باقاعدگی سے حاضری دیا کرتے تھے،

آپ بروز بدھ ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۶ء میں لاہور میں فوت ہوئے، ہزار ہا عقیدتمندوں نے جنازہ میں شرکت کی، نماز جنازہ مسجد وزیر خاں میں ادا کی گئی، گاڑی کے ذریعے آپ کا جسدِ اقدس بھرہ صالح سرگودھا میں پہنچایا گیا، جہاں والد ماجد کے پہلو میں دفن کئے گئے۔

لے غلو احمد گوبی، مولوی : تذکرہ مشائخ گوبی، ص ۲۰-۲۲

شیخ طریقت مولانا الحاج پیر محمد سعید قادری رحمہ اللہ تعالیٰ

حضرت مولانا محمد سعید قادری ابن حضرت حافظ فتح محمد قادری، ماہ شعبان المعظم ۱۳۰۷ھ/۱۸۹۰ء میں جلال پور پیر والا میں پیدا ہوئے، قرآن مجید اور فارسی کی تعلیم مولانا غلام قادر جلال پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کی، بعد ازاں اپنے بڑا دریکرم مولانا محمد عبدالغفار رحمہ اللہ تعالیٰ سے ظاہری و باطنی علوم کا اکتساب کیا، والد ماجد کے حکم سے برادر بزرگوار سے بیعت کی اور خلافت سے مشرف ہوئے اور تیس سال تک مسند فقر پر فائز رہ کر تشنگان شریعت کی معرفت کی پیاس بجھاتے رہے، آپ کو معقولات و منقولات پر گہری دسترس حاصل تھی، کتب جنینی اور مطالعہ کا اس قدر شوق تھا کہ آپ کے کتب خانہ میں ایسی کوئی کتاب نہ تھی جس کا آپ نے مطالعہ نہ کیا ہو۔

آپ کو تبلیغ دین سے خاص طور پر شغف تھا، سفر و حضر میں آپ کی مجلس بند و ضابطہ، بزرگان دین کے ذکر خیر اور حبِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مہم جوئی تھی، حتیٰ گوئی آپ کا شمار تھا حق بات کہنے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، بزرگان دین کے مزارات پر عاضری اور سیر و سیاحت سے خاص دلچسپی لیتے تھے، حج و زیارت کی سعادت سے مشرف ہوئے، آپ کریم الخفس، رئیس القلب اور علیم الطبع بزرگ تھے۔

۵ جمادی الثانیہ ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء ہفتہ اور انوار کی درمیانی شب آپ کا وصال ہوا، حسب وصیت حضرت مخدوم سید شوکت حسین شاہ گیلانی متوفی سہ ماہہ ایشین درگاہ حضرت مولیٰ پاک شہید نے نماز جنازہ پڑھائی اور آبی قبرستان میں برادر گرامی حافظ محمد طاہر قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پہلو میں دفن ہوئے۔

لے ہفت ہندو سہ ماہہ پڑھانے والے، گورنور، متعلقہ شمارہ، اس وقت پیش نظر نہیں ہے۔

سلیمان زمان حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی قدس سرہ العزیز

شاہ شاہان، فخر دوراں، پیر پشیمان حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی ابن محمد زکریا ابن عبد الوہاب بن عرفان قدس سرہ العزیز کی ولادت ۱۱۸۳ھ/۱۷۷۰ء میں گوہ سلیمان گرجی نامی وادی میں ہوئی جو تونسہ شریف سے کچھ فاصلے پر واقع ہے، خاندانی طور پر آپ کا تعلق پشیمانوں کے قبیلے جعفر سے تھا جو علم و عبادت اور حیا و شرافت میں نہایت ممتاز تھا۔ بچپن ہی میں والد ماجد کا انتقال ہو گیا، والدہ ماجدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا کیونکہ انہوں نے آپ کی ولادت سے قبل خواب میں دیکھا تھا کہ آفتاب آسمان سے اتر کر ان کی آغوش میں آ گیا ہے اور سینکڑوں لوگ مبارکباد سے رہے ہیں۔ چار سال کی عمر میں تلامذہ حضرت جعفر کے پاس قرآن کریم پڑھنے کے لئے بٹھائے گئے، ان سے پندرہ پارے حفظ کئے بعد ازاں کئی مسجود تونسہ شریف میں میاں حسن علی کے پاس جاکر قرآن کریم کی تکمیل کی اور فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں، مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے وشوا گزاردار استوں کو طے کرتے ہوئے کوٹ مٹھن پہنچے جہاں حضرت مولانا قاسمی محمد عاقل قدس سرہ کے مدرسہ میں علوم دینیہ کی تحصیل و تکمیل کی لے

حضرت شاہ علم و عرفان تونسوی کو تبلیغ دین سے بے حد لگاؤ تھا اسی بنا پر جب آپ کو پہنچا کہ حضرت قبد عالم خواجہ نور محمد ماروی قدس سرہ بڑے ذوق و شوق سے قوالی سنتے ہیں، سوچا کہ کیوں نہ انہیں اس خلاف شریعت کام سے روکا جائے چنانچہ پیر عمر نے حضرت خواجہ ماروی کی خدمت میں پہنچے لیکن وہاں پہنچتے ہی طالب صادق اور سب مخلص مگر حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی نے حضرت خواجہ نور محمد ماروی کو حکم دیا تھا کہ :-

”گوہ سلیمان کی چوٹیوں پر ایک بلند پرواز شہباز رہتا ہے اسے تلاش

کر کے اپنے حلقہ میں داخل کرنا کہ اس سے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کو تبلیغ و اشاعت کے چار چاند لگ جائیں گے۔“

چنانچہ حضرت خواجہ ماروی اس بلند آشتیاں شہباز کی تلاش میں اوج شریف اور کوٹ مٹھن کا سفر کیا کرتے تھے، آخر ایک دن اوج شریف میں وہ شہباز حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی کی صورت میں مل گیا جسے دیکھتے ہی آپ نے فرمایا :-

”آری بسیار بلند بنظری آید“

اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری کی خانقاہ میں آپ کو بیعت فرمایا :-

حضرت مجاہد بکیاں شاہ محمد سلیمان تونسوی تقریباً چھ سال تک استاذہ پیشین پر رہے اور پیر و مرشد کی اس جان سپاری سے خدمت کی کہ کئی سال مریدین اور خدام سے کہیں آگے نکل گئے، اس عرصے میں مرشد کامل سے آداب العالیہ، فقرات، لوائح، عشق کلام اور قصص حکم وغیرہ کتب تصوف پڑھیں اور ساتھ ساتھ منازل عرفان بھی طے کرتے رہے۔ ۱۹۱۹ء میں حضرت خواجہ نور محمد ماروی قدس سرہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت شاہ فخر الدین دہلوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضری دینے کے لئے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے دہلی پہنچے مگر وہاں پہنچنے پر پہنچا کہ حضرت شاہ فخر الدین دہلوی قدس سرہ کا وصال ہو گیا ہے لہ

۲۲ سال کی عمر میں قبد عالم حضرت خواجہ نور محمد ماروی قدس سرہ نے فرقہ خلافت عطا کر کے تونسہ شریف میں قیام کا حکم دیا۔ رفتہ رفتہ جب رشد و ہدایت کا چرچا ہوا تو دور دور سے لوگ شرف بیعت حاصل کرنے کے لئے حاضر دربار ہونے لگے، انواب بہاول خاں والی ریاست بہاول پور بھی حلقہ خدام میں داخل ہو گئے۔

آفتائے نعمت مرشد بقیق سے آپ کو عشق کی حد تک محبت و عقیدت تھی، ان کے فراق میں طبیعت بے چین ہو جاتی تو پاپیادہ ہی مبارک شریف کا سفر شروع کر دیتے، آپ نے

تونسہ شریفین میں قیام کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ وہاں دینی تعلیم عام کرنے کے لئے مدرسہ جاری کیا اور پھر اس کام نے اس قدر ترقی کی کہ ہر طرف قال اللہ وقال الرسول کی صدا بلند ہونے لگیں اور تونسہ شریف دبستان علم و عرفان بن گیا، اس دور میں تونسہ شریف علوم دینیہ کی وہ عظیم الشان یونیورسٹی تھی جن میں تقریباً دو ہزار طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے اور ۵۰ مدرسین تعلیم دین کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ تمام علماء، اعلیٰ اور فہم کے لئے قیام و طعام اور لباس کا انتظام مدرسہ کی طرف سے تھا۔ حضرت پیر سید جان قدس سرہ نے خود مصلح مریدوں اور شاگردوں کو سسوک و طریقت کی کتابوں کا درس دیا کرتے تھے لہ

شاہ شاہان حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی قدس سرہ نے تبلیغ دین اور رشد و ہدایت کو جو گہرے طریقے پر عوام الناس تک پہنچایا، آپ کے روحانی فیض سے نہ صرف برصغیر پاک و ہند جبکہ کابل، ایران، لنگا، عدن اور ترکستان کے عوام و خواص مستفید ہوئے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی قدس سرہ فرماتے ہیں:-

”ولایت اور بیعت میں حضرت خواجہ مبارکی کی اتنی شہرت نہیں ہوئی جتنی شہرت حضرت خواجہ تونسوی کی ہے چنانچہ بلخ، بخارا، ایران، ہرات، ہند، سندھ اور حرمین شریفین کے لوگ اپنی استعداد کے مطابق ان سے مستفیض ہوئے“ لہ

یہ وہ دور تھا جب کہ پنجاب پر سکھوں کا تسلط تھا اور انگریزی اقتدار بڑی سرعت سے پھیل رہا تھا، آپ نے واشگاف الفاظ میں مسلمانوں کو احساس دلایا کہ تمہارا کامیابی کا راز کتاب و سنت کی پیروی اور اخلاق و کردار کو سنت مبارکہ کے سانچے میں مل جانے سے ہے، آپ نے واضح طور پر فرمایا:-

”چونکہ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی ترک کر دی

ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان پر مسلط کر دیا ہے“ لہ آپ نے تمام عمر شریف ملت اسلامیہ میں نئی روح پھونکنے میں صرف کی اور سیکڑوں ایسے افراد تیار کئے جو عظمت اسلام کے علمبردار اور صحیح معنوں میں ملت اسلامیہ کے نقیب تھے، لاکھوں افراد آپ کی ہدایت سے حیات جاودانی کے راز سے آشنا ہوئے اور بیسیوں اجازت و عطا سے مشرف ہو کر رہبر خلائق بنے۔ تاریخ مشائخ چشتیہ میں آپ کے ۶۳ خلفاء کے اسما مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے، چند خلفاء کے اسما گرامی یہ ہیں:-

۱۔ شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی۔

۲۔ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی۔

۳۔ حضرت خواجہ احمد میروی۔

۴۔ حضرت مولانا محمد علی مکتوی۔

۵۔ مولانا محمد علی خیر آبادی (شہید بھکر) زادی مولانا محمد فضل حق خیر آبادی (کاساؤ)

۶۔ سید احمد مدنی (عرب شریف)

۷۔ سیدستان شاہ (افغانستان)

۸۔ فاضل شاہ (کشمیر)

۹۔ حسن شاہ (قندھار)

۱۰۔ ولی اللہ (خراسان)

۱۱۔ فیض بخش (بیکانیر) وغیرہم قدس سرہم لہ

حضرت خواجہ خواجگان شاہ محمد سلیمان تونسوی قدس سرہ کے ملفوظات سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں، آپ انکار و کردار کی اصلاح پر خاص طور پر توجہ دیتے تھے، چند ملفوظات طیبہ درج کئے جاتے ہیں:-

- علم پیر عمل اور عمل بغیر عقیدہ اہل سنت و جماعت فائدہ نہیں پہنچاتا۔
 - توحید کا پھول اس زمین میں نہیں لگتا جہاں شرک، حسد اور ریا کے کانٹے موجود ہوں۔
 - سالک کو چاہئے کہ اپنے معیوب پر نظر رکھتے ہوئے دوسروں کے معیوب سے آنکھ بند کر لے۔
 - کلہ طیبہ کا ذکر بالآخر تمام اولاد سے بہتر ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔
 - علم سے مقصود عمل و ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا ہے۔
 - عورتوں اور لڑکوں سے عشق کرنا ایک بلا ہے، اس دور رہنا چاہئے۔
 - خدا و رسول (جمل و علا و حصے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ذکر کے بغیر سب دروس ہے۔
 - شریعت کی ناہری اور باطنی طور پر اتباع کے بغیر کمال لسانی کا حصول ناممکن ہے۔
 - سالک کو چاہئے کہ اپنے آپ کو بدنہ بیوں کی صحبت سے دور رکھے اگرچہ ان کی صحبت میں دنیاوی فوائد ہوں، ان کے میل جول سے بھوکا اور تنگوار رہنا بہتر ہے۔
- عرض زندگی کے مختلف پہلوؤں پر آپ کی نظر مجھ پر تھی اور حسب موقع ہر برس کے کام سے جاننت لازم جانتے تھے، اہل دنیا سے پوری طرح احتراز فرماتے تھے بلکہ مریدین کو بھی ان سے اجتناب کی تلقین فرماتے تھے، اگر کبھی ان سے ملاقات کا اتفاق ہوتا تو کمال خود داری اور استغناء سے پیش آتے۔
- ۷ صفر المظفر، ۱۳ دسمبر ۱۲۶۶ھ / ۱۸۵۰ء کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے دو صاحبزادے

حضرت خواجہ گل محمد اور حضرت خواجہ درویش محمد آپ کی حیات ظاہرہ ہی میں وصال فرم گئے تھے اس لئے آپ کے بعد آپ کے پوتے حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی قدس سرہ سجادہ نشین ہوئے۔ نواب بہاول پور نے ۷۰ ہزار روپے خرچ کر کے سنگ مرمر کا عالیشان قبر بنایا۔

مولوی حسین علی فتح پوری نے تاریخ وصال یوں نظم کی ہے۔

سیماں زماں رحلت چو فرمود
 یکایک درجہ ان نفلت بغیر و
 پچیس سال دفاتش ہاتھ غیب
 بگفت اوائنا چشتیاں بود

امیر خندانہ حضرت پیر محمد شاہ غازی قدس سرہ (بھیرہ شریف)

مصباح عظیم، مرد میدان، امیر خندانہ حضرت پیر حافظ محمد شاہ غازی ابن حضرت امیر اساکین پیر امیر شاہ (قدس سرہا) تقریباً ۱۳۰۸ھ/۱۸۹۰ء میں بھیرہ ضلع سرگودھا میں رونق افروزے وار دنیا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت شیخ الاسلام بہار الحق والدین ابو محمد ذکریا سرودی غسانی قدس سرہ جن کی دینی خدمات تاریخ اسلامی کا روشن ترین باب ہیں) سے ہوتا ہوا اصحابِ مہتممہ میں سے صحابی رسول حضرت بہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تقریباً تین سو سال پہلے حضرت شیخ الاسلام کے خاندان کے ممتاز فرد حضرت دیوان پیر فتح شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھیرہ میں تشریف لائے اور شد و ہدایت اور تبلیغ اسلام کا وہ چراغ روشن کیا جو آپ کی اولاد و امجاد کی بدولت ہمیشہ دہشتہ تابندہ رہا حتیٰ کہ یہ مرکزیت اور دینی قیادت حضرت پیر محمد شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں آئی۔ حضرت پیر محمد شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس شعور کو پہنچے تو مکتب میں بٹھائے گئے جہاں آپ نے حافظ محمد موسیٰ اور حافظ جہان سے قرآن کریم حفظ کیا بعد ازاں اگرچہ درس نظامی کی تکمیل نہیں کی لیکن بہت سے اساتذہ سے بہت حد تک ضروری مسائل کی واقفیت حاصل کر لی۔ قرآن پاک کے ساتھ آپ کو عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ رمضان شریف میں تراویح کے علاوہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں نوافل میں قرآن مجید کا حتم آپ کا معمول تھا۔ قدرت نے آپ کو کون داؤدی عطا فرمایا تھا جب آپ تراویح میں قرآن پاک پڑھتے تو بعض بندہ مسجد کے باہر بیٹھ کر ذوق و شوق سے سنا کرتے تھے۔

والد گرامی نے بڑی توجہ سے آپ کی تربیت فرمائی اور مناسب وقت پر حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی قدس سرہ العزیز سے بیعت کروا دیا حضرت خواجہ نے مختلف ریاضتیں کرانے کے بعد آپ کو فرقہ خلاف عطا فرمایا اور خلق خدا کی رہنمائی کا کام آپ کے سپرد کیا جسے آپ نے اس خوبی سے نبھایا کہ باہر و شاہر، عبادت و ریاضت میں محویت کا یہ عالم تھا

کہ تمام عمر صوم داؤدی (ایک دن روزہ اور ایک دن افطار) رکھتے رہے۔ نماز تہجد اور دیگر نوافل اس پابندی سے ادا کرتے کہ حالتِ عیاشی میں بھی شاید ہی کبھی تھکا ہوتے ہوں گے۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے خیال سے سفر میں کسی دکان کو اپنے ساتھ ضرور رکھتے۔ پندرہ شعبان سے آخر رمضان تک استکاف میں رہتے، وصال سے چند سال قبل تک آپ کا معمول تھا کہ نماز عصر کے بعد دریاے جہلم کے کنارے تشریف لے جاتے اور رات کو نو، دس بجے تک اواراد و وظائف میں مشغول رہ کر واپس تشریف لاتے۔

علوم و فنیہ کی ترویج سے آپ کو فطری لگاؤ تھا جس کی بنا پر آپ نے والد گرامی کی موجودگی میں مدرسہ تدریس القرآن قائم کیا جو اب تک جاری ہے، ایک پرائمری سکول کھولا تاکہ قوم کے نوجوان لکھنے پڑھنے کے قابل بن سکیں۔ ۱۹۲۵ء میں تلمیذ المسلمین کے نام سے ایک دینی درس گاہ قائم کی جس میں اپنے دور کے مقتدر فضلا کو تدریس کے لئے مقرر کیا۔ اس ادارہ ہوم نے خاطر خواہ ترقی کی اور قابل قدر دینی و علمی خدمات انجام دیں۔ ۱۹۵۶ء میں آپ کے فرزند چمن حضرت پیر محمد کرم شاہ مظہر العالی مدیر ایجنسی ضیاء حرم نے دارالعلوم محمدیہ نوشہرہ (بھیرہ) کے نام سے ایک خوشگوار انڈیا پبلیکیشن اور دارالعلوم کے نصاب میں قدیم و جدید علوم کو یکجا کر دیا، اپنی نوع کا پندرہ دارالعلوم بڑی کامیابی سے جانب منزل گامزن ہے۔

قیام پاکستان سے قبل مسلمانوں کی زبوں حالی اور بے عملی آپ کو ہمیشہ چین دکھتی اور خاص طور پر جب مسلمانوں کو ہندو نیوں کے سودی قرضوں میں پھنسا ہوا دیکھتے تو بغیر ہر ہوجاتے اس لئے آپ سال میں ڈیڑھ دو ماہ کا تبلیغی دورہ کرتے اور احکام الہیہ پر مسلسل پیرا ہونے کی تلقین کرتے، سودی قرضوں سے نجات پانے کے لئے بچوں کو ذریعہ علم سے آراستہ کرنے اور تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بھرپور تبلیغ فرماتے۔

تحریک پاکستان کے زمانے میں بڑی گرمجوشی سے مسلم لیگ کی تائید و حمایت کی، اپنے حلقہ میں بکثرت طرفانی دورے کئے اور مسلم لیگ امیدوار کو کامیاب کرانے کے لئے فضا ہوا کی، اگر کسی مرید نے کسی عیب داری کے تحت مسلم لیگ کو ووٹ دینے میں پس و پیش کی تو اس سے تعلق قطع کر لیا۔ جب قائد اعظم کے بارے میں نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی تو آپ بھی اس میں

شریک ہوئے اور قید و بند کی صعوبتوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔

قیام پاکستان کے بعد جب آزاد کشمیر کی جنگ شروع ہوئی تو حضرت پیر محمد شاہ قدس سرہ نے اپنے پچاس مریدوں کے ساتھ (جو سابق فوجی تھے) میدان کارزار میں اعلیٰ طور پر مردانہ وار حصہ لیا۔ چیت گڑھ بھارت کے مقابل موضع بوسے ونیس (ضلع سیالکوٹ) میں ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ آپ کے پاس روسی ساخت کی ایک بہترین رائفل تھی، آپ کے حکم پر ایک مرید نے سی رائفل سے دشمن کے جہاز پر تین فارے کے نتیجے وہ بھارت کے علاقہ میں ہمارا گر گیا۔ ایک دن مغرب کے وقت بھارتی ہوائی جہاز نے اگر گولیوں کی بارش کر دی آپ اپنے تمام ساتھیوں سمیت اطمینان سے نماز ادا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی کو خراش تک نہ آئی۔

کچھ دنوں بعد آپ کو باجرہ گڑھی (آزاد کشمیر) کے محاذ پر مقرر کر دیا گیا جہاں آپ نے کرنل کیانی (راجہ حامد مختار سابق ایڈمنسٹریٹو محکمہ و قاف پنجاب کے برادر محترم) کی قیادت میں مجاہدانہ کاروائیاں جاری رکھیں۔ دسمبر اور جنوری کی برفانی راتوں میں پیارا سالی کی پروا کئے بغیر مجاہدین کے ہمراہ ہندی نالوں اور نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچ جاتے اور دشمنی دیتے، بعض اہباب جب آپ کو آرام کرنے کا مشورہ دیتے تو آپ فرماتے "میں یہاں آرام کرنے کی غلط نہیں آیا، مجھے تو شوق شہادت کشاں کشاں نینا لے آیا ہے، دعا کیجئے کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے"۔

اس جگہ آپ نے قریباً تین ماہ گزارے، ہر شخص آپ کے جوش ایمانی اور جذبہ جہاد سے متاثر تھا، ڈیل میں وہ سرٹیفکیٹ درج کیا جاتا ہے جو کرنل کیانی نے اعتراف خدمت کے طور پر آپ کو لکھ کر دیا تھا:

I feel great honour in introducing Pir Muhammad Shah Sahib Sajjada Nashin and Amir Jund. u - llah Bhera Shrif.

He together with his fifty Mujahids worked in my sector for about three months.

In his old age he himself led his men in the battlefield.

A true patriot and a great inspiration to all. I wish we had more soldiers like him.

(I. J. KIANI)

Sialkot

A.K.F.

ترجمہ: "میں پیر محمد شاہ صاحب کا تعارف کراتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں، آپ نے اپنے پچاس مجاہدین کے ساتھ تقریباً تین ماہ تک میرے سیکٹر میں کام کیا، پیارا سالی کے باوجود میدان کارزار میں بہ نفس نفیس اپنے مجاہدین کی قیادت کی، آپ سچے محب وطن اور سب کیلئے عقلمند مشعل راہ ہیں، میری تمنا ہے کہ آپ جیسے مزید سپاہی ہماری میراث بنیں۔"

آئی جے کیانی

آزاد کشمیر فور سسر

آپ کی اولاد میں سے دو صاحبزادے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں:

۱۔ حضرت مولانا پیر محمد کرم شاہ مظاہر فاضل جامعہ ازبیر (فرزند اکبر)

۲۔ جناب صاحبزادہ غلام حیدر شاہ انچارج سول ہسپتال سکھیک (گوجرانوادر)

چونکہ آپ کو اس امر کا قومی احساس تھا کہ گمراہ تعلیمی شعور ہی مسلمانوں کو سستی سے نکال کر باعزت مقام پر پہنچا سکتا ہے اس لئے اپنی اولاد کو ذریعہ علم سے آراستہ کرنے میں

کوئی دقیقہ فرورگذاشت نہ کیا، خاص طور پر فرزند اکبر مولانا پیر محمد کرم شاہ مدظلہ کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی چنانچہ علوم عقلیہ کی تعلیم کے لئے امام المناطفہ مولانا محمد دین بدھوی (کمیلپور) اور فقہ، تفسیر، ادب، عروض اور ریاضی وغیرہ علوم کے لئے قدوة العظام مولانا غلام محمود قدس سرہ (پہلاں، میانوالی) مصنف نجم الرحمن وحشی تکمیل عبد الغفور کو مدعو کیا، دورہ حدیث کے لئے قائد اہل سنت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں جامعہ سیمیرا آباد بھیجا، بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے بی۔ اے کیا۔

اس کے باوجود آپ کو اپنے تخت جگر کو مزید تعلیم دلانے کا اشتیاق تھا۔ اس مقصد کے لئے اپنے نور نظر کو جامعہ ازہر (مصر) بھیجا۔ بلڈ پریشر کے عارضہ میں مبتلا ہونے کے باوجود اس طویل سفر پر روانہ کیا اور رخصت کرتے وقت فرمایا :-
 "اس وقت جب کہ مجھے تمہاری اشد ضرورت ہے وہ دروازہ سفر پر اس لئے روانہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دولتِ علم سے نوازا دے اور اپنے دین کی خدمت کی توفیق ارزانی فرمائے"

حضرت صاحبزادہ پیر محمد کرم شاہ مدظلہ ۱۹۵۱ء سے ۱۹۵۴ء تک جامعہ ازہر میں رہے آخری امتحان میں پورے جامعہ ازہر میں دوسری پوزیشن حاصل کی اور کلیۃ الشریعۃ الاسلامیہ کی سب سے بڑی ڈگری کے لئے واپس آئے۔ اس عرصے میں حضرت پیر محمد شاہ قدس سرہ کی بیماری نے بڑی شدت اختیار کر لی لیکن آپ نے متعلقین کو تاکید فرمایا کہ انہیں میری علالت کی شدت کی ہرگز اطلاع نہ دی جائے بلکہ اگر خدا نخواستہ کوئی سانحہ پیش آجائے تو بھی مطلع نہ کرنا تاکہ ان کی تعلیم میں خلل واقع نہ ہو، علم دین کی اس قدر والہانہ محبت کی مثال آج کے دور میں شاید ہی کہیں پیش کی جاسکے۔

۲۴ شعبان، ۲۶ مارچ (۱۳۷۱ھ / ۱۹۵۰ء) منگل اور بدھ کی دو میانی شب کو مجاہد و غازی حضرت الحاج حافظ پیر محمد شاہ سجادہ نشین دامیر حسد اللہ بھیرہ (سرگودھا) کا وصال ہوا۔ انتقال کے روز سخت نقابت تھی، اکثر اوقات

طاموش رہتے۔ جب کبھی آواز سنائی دیتی تو پت چلتا کہ سورہ یسین یا سورہ ملک کی کوئی آیت تلاوت کر رہے ہیں۔

وصال سے چند دن پہلے اکثر اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے رہے شہید
 اللَّهُ أَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ الْقَائِمُ الْقَابِلُ الْقَسُطُ
 (الانبیاء)

بھیرہ شریف میں ہر سال نہایت اہتمام سے آپ کا عرس ہوتا ہے جس میں بعد حسن و خوبی دین بسین کی تبلیغ ہوا کرتی ہے لہ

سلط محمد عبدالعظیم شرف قادری، پیر محمد شاہ غازی، ماہنامہ ضیاء حرم لاہور، اکتوبر ۱۹۷۰ء ص ۸۶-۸۷
 نوٹ :- یہ تمام حالات مولانا بنوا زاہری مدرس دارالعلوم محمدیہ غازی بھیرہ نے فراہم کئے جس کے لئے یاقم ان کا شکریہ ادا ہے۔

حضرت مولانا سید حافظ محمد شاہ حنفی قادری نوشاہی ساہنپالی رحمت اللہ علیہ

فاضل اہل حضرت مولانا سید محمد شاہ ابن حضرت مولانا سید محمد امین مجدد السالکین (۱۲۳۲ھ) ابن سید حافظ قل احمد نوشاہ ثانی (م ۱۲۸۶ھ) بمقام ساہنپال شریف (منبع گجرات) ۱۲۸۱ھ/۱۸۶۵ء میں پیدا ہوئے۔ آپ شیخ الاسلام حضرت سید حافظ شاہ حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری قدس سرہ العزیز کی اولادِ امجاد میں سے تھے۔ آبا و اجداد فضیلتِ علم ظاہری اور ولایتِ باطنی میں ممتاز رہے آتے تھے۔ مولانا سید محمد شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حفظ کیا اور ظاہری علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد، علم تحقیقی حضرت مولانا سید محمد شفیع (م ۱۳۱۱ھ) اور مولانا سید غلام قادر (۱۳۰۶ھ) سے کی۔ آخر میں موضع گاگڑہ کلاں منہل گجرات میں جمال الدین حنفی سے اکتسابِ فیض کیا۔ فقہ، حدیث اور طب میں سندِ فضیلت حاصل کی۔ آپ کا سلسلہ تلمذ آفتابِ پنجاب مولانا عبدالحکیم ساکنوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ آپ کا مطالعہ وسیع تھا۔ آپ کو ۲۸ علوم میں مہارت تھی جن کا کچھ بیان تذکرہ محمد شاہی میں کیا گیا ہے۔

آپ اپنے والد ماجد سے بیعت تھے۔ بچپن میں جدِ امجد حضرت نوشاہ ثانی کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا تھا، اپنے آبا و اجداد کی سند پر بیعت کر دین اسلام کی تبلیغ اور سلسلہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ کی ترویج کو کمال خوبی سے انجام دیا۔ آپ صاحبِ خوارق و کرامات بزرگ تھے، بہت سے اہل دل آپ سے مستفیض ہوئے۔ آپ اخلاقِ عالیہ کے مالک تھے، بنو بارہ فقہاء اور مسافروں کی دل کھول کر امداد فرماتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت، اذکار و نوافل اور ریاضت و مجاہدہ میں عالی ہمت تھے، ایک رات میں کبھی پانچ سو اور کبھی دو سو نوافل ادا کیا کرتے تھے۔

حضرت مولانا صاحب تصنیف بزرگ تھے آپ کا کلام حقائق و معارف سے معمور

لے ایک بڑی صفحہ پر مشتمل تذکرہ محمد شاہی، حضرت مولانا سید شریف احمد شرافت نوشاہی دہلوی تصنیف ہے۔

ہوتا تھا، درج ذیل تصانیف آپ سے یادگار ہیں۔
۱۔ کتاب الفوائد: مناقب بزرگان دین، مسائل تصوف، اوراد و عملیات، اور نصیحت آمیز اشعار پر مشتمل ہے۔

- ۲۔ روزنامہ محمد شاہی: ۱۴ سالہ روزنامہ
۳۔ مکتوبات محمد شاہی: یہ آپ کے پوتے مولانا سید بشیر احمد شرافت رحمہ اللہ تعالیٰ نے (م ۱۳۸۱ھ) نے مرتب کئے ہیں۔
۴۔ ملفوظات محمد شاہی: (الموسم پر مکتوم) آپ کے فرزند ارجمند مولانا سید غلام مصطفیٰ نوشاہی (م ۱۳۸۴ھ) نے جمع کئے ہیں۔
۵۔ فہرست مضامین تفسیر حسینی۔

حضرت مولانا سید غلام مصطفیٰ نوشاہی آپ کے تنہا فرزند تھے جو آپ کے بعد بجاؤہ نشین ہوئے، ان کے صاحبزادے ملک کے مشہور صاحب علم و فضل مولانا سید شریف احمد شرافت نوشاہی مالک السالی ہیں۔ حضرت مولانا محمد شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء کا سلسلہ کافی وسیع تھا۔
۲۲ محرم/۲۹ اکتوبر (۱۳۳۴ھ/۱۹۱۸ء) بروز منگل نماز تہجد کے وقت آپ کا دھال ہوا۔ آپ کا مرقد منور ساہنپال شریف (منہل گجرات) میں حضرت نوشاہ عالیجاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قبرستان میں ہے۔

۱۔ شریف احمد شرافت نوشاہی مولانا سید احمد شرافت نوشاہی ساہنپال شریف رحمت اللہ علیہ
۲۔ ۱۹۰۲ء ص ۸۱-۸۲۔

فقیر اعظم مولانا ابویوسف محمد شریف قدس سرہ (کوٹلی لوہاراں سیالکوٹ)

حنفیت و سنیت کے بطل جلیل مولانا محمد شریف ابن مولانا عبدالرحمن سیالکوٹی کوٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، علوم دینی کی تکمیل والد ماجد سے کی، ان کے وصال کے بعد پرنسپل ایک و مہند کے ممتاز علماء سے کسب فیض کیا، حضرت خواجہ غلام عبدالکریم نقشبندی کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے اور خلافت سے مشرف ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ سے بھی اجازت و خلافت حاصل تھی، فقیر اعظم کا لقب آپ ہی نے عطا فرمایا تھا، حضرت فقیر اعظم نے فقہ حنفی کی بے باک خدمات انجام دی ہیں، ہفت روزہ اہل حدیث "امر تسری" آئے دن اہل سنت اصناف کے خلاف مضامین شائع ہوتے رہتے تھے، حضرت فقیر اعظم کی کوششوں سے امر تسری سے "الفقیر" کے نام سے ہفت روزہ جاری ہوا جس میں ان اعتراضات کے جوابات نہایت تحقیق و مشانت سے دئے جاتے تھے، اس جریدے کے علاوہ دیگر موقر جرائد میں بھی آپ کے مضامین شائع ہوتے رہے ہیں۔

آپ عالم شریعت اور شیخِ ظرفیت ہونے کے ساتھ ساتھ مقبول ترین مقرر بھی تھے و عطا و ارشاد میں اپنا ایک مخصوص سلوب رکھتے تھے، آپ کے خلعتِ رشی سلطانِ اعظمین مولانا ابوالنور محمد بشیر سیالکوٹی مدیر ماہِ طیبہ کی تقریر میں آپ کے اندازِ بیان کی نمایاں جھلک پائی جاتی ہے۔

حضرت فقیر اعظم نے پنجاب کے اطراف و اکناف کے علاوہ کلکتہ اڈیشہ وغیرہ مقامات تک سنیت و حنفیت کا پیغام پہنچایا، آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کے تاریخی اجلاس میں شرکت فرمائی اور تحریک پاکستان کی حمایت میں جگہ جگہ تقریریں کیں اور مسلمانوں کو مسلم لیگ کی حمایت و معاونت پر تیار کیا۔

آپ کے مریدین کا حلقہ نہایت وسیع ہے جو ملک کے طول و عرض میں موجود ہے۔

- آپ نے تصنیف و تالیف کی طرف بھی توجہ فرمائی، چند تصانیف یہ ہیں:
- ۱۔ تائید الامام (حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی تالیف الرد علی ابی حنیفہ کا محققانہ رد)
 - ۲۔ نماز حنفی مدلل
 - ۳۔ کتاب التواضع
 - ۴۔ صداقت الاحناف
 - ۵۔ ضرورتِ فقہ
 - ۶۔ کشف الغطاء

آپ ۹۰ سال کی عمر میں ۱۵ جنوری ۱۹۵۱ء کو عازمِ خلدیہ پر سفر کے دوران ہی مسجد کوٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔

سہ ماہی نیشنل کونسل، مولانا، روزنامہ سعادت لاہور (۱۱ اگست ۱۹۶۸ء)

مقرر جادو بیان مولانا الحاج محمد شریف نوری قصوری رحمہ اللہ

خطیب پاکستان مولانا الحاج محمد شریف نوری رحمہ اللہ تھانے ۱۱ مئی مولانا محمد دین رضا عالمی ۳-۱۳۵۳/۱۹۳۵ء میں بمقام جاوڑی (ضلع گجرات) میں پیدا ہوئے۔ کنگواہ گجرات میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، اس کے بعد پاکستان کی عظیم دینی درس گاہ دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور (ضلع ساہیوال) میں تمام متادوں کو کتب کی تحصیل و تکمیل کر کے فقہ عصر مولانا ابوالخیر محمد نور احمد نعیمی دامت برکاتہم العالیہ سے درس حدیث لیا اور ۱۳۷۳/۱۹۵۲ء میں فراغت ماحصل کی اسی سال قصور میں خطیب مقرر ہوئے اور ۱۳۸۱ء تک کمال خوبی سے فرائض خطابت انجام دئے یہیں سے ان کی شہرت دور دراز تک پہنچی۔ آپ کی آواز میں بلا کا سوز تھا اور دورانِ تفسیر مجمع پر چھاپا یا کرتے تھے بڑے سے بڑے مجمع کو کنٹرول کرنا ان کے لئے معمولی بات تھی ۱۹۷۰ء میں جب دارالاسلام (لویڈیک سبگھ) میں شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں کانفرنس منعقد ہوئی تو کسی وجہ سے لاکھوں افراد میں پھیل جانے والی بے حدیثی کو آپ نے کنٹرول کر کے مشاہیر کو روک کر حیرت میں ڈال دیا۔ پاکستان کے سابق گورنر ملک امیر محمد خاں اپنے گھر پر منعقدہ مجلس میلاد کے لئے آپ کو دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ نے ۱۹۷۰ء کے عام انتخابات میں جمعیت العلماء پاکستان کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا۔

قصور کے قیام کی نسبت سے نوری قصوری کے نام سے عوام و خواص کے طبقے میں متعارف ہوئے۔ ۱۹۵۴ء میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل اور ۱۹۵۵ء میں ادیب فاضل کا امتحان نمایاں کامیابی سے پاس کیا۔ قصور ہی میں مشہور نعت خوان جناب میر علی ظہوی کو ساتھ لے کر ماہنامہ نوریہ ظہور نکالا جسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی مگر زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا۔ ان کے سوجھ بوجھ کا یہ کارنامہ ناقابل فراموش ہے کہ یکم مئی ۱۹۵۹ء کو گلارک آباد (مضافات رائے ونڈ) کے تقریباً دو ہزار عیسائی ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر حلقہ گوبوش اسلام ہو گئے تھے لہ

۱۳۸۱/۱۹۶۱-۲۲ میں لاہور آ گئے لہ پہلے ایک موصتک جامع مسجد سبیل والی شاہ عالم مارکیٹ میں، پھر کچھ عرصہ سرلے دن چند میں خطیب رہے، بعد ازاں شیش محل ہوزری کے بالمقابل جامع مسجد محمدیہ (راوی روڈ) میں تشریف لے آئے، یہاں آپ نے جامعہ محمدیہ کی بنیاد رکھی، مسجد کا عظیم پینار آپ ہی کی مساعی سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ ۱۳۸۴ء میں مقامات مقدسہ کی زیارات کے لئے بغداد شریف، کربلائے معلیٰ، نجف اشرف اور بیت المقدس کا سفر کیا اور حج و زیارت سے مشرف ہوئے۔ ۱۳۹۱ء میں کمال اشتیاق سے حرمین شریفین کی حاضری سے فیضیاب ہوئے۔ واپسی پر راستے ہی میں علالت نے آلیا، واپس وطن پہنچنے کے بعد میوہ ہسپتال لاہور میں علاج معالجہ شروع کیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا اور مہلہ ہی عالم بقا کی طرف کوچ کر گئے، مولانا مرحوم نے چار مرتبہ حج و زیارت کی سعادت حاصل کی۔

مولانا نوری ہندو علاقہ کے مالک تھے، دوستوں کے دوست تھے اور ملنے جلنے والوں کی بڑی فرائض دلی سے تواضع کیا کرتے تھے، جمعیتہ العلماء پاکستان، پاکستانی تنظیم اور انجمن اصلاح المسلمین کے سرگرم رکن اور ممتاز علموں پر فائز رہے۔ ۱۳۹۰ء میں جا بجا دورے کئے اور آئین اسلام کے نفاذ کے حق میں پر زور تقریریں کیں اور عوام الناس کو آئین اسلامی کی تائید و حمایت کے لئے تیار کیا۔

مولانا نوری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دور کے مقبول ترین مقرر تھے، سامعین مان کی خوش نوازی کے اثر سے کیفیت و سرور میں ڈوب جاتے تھے، وہ جہاں ایک مرتبہ تقریر کرتے تھے وہاں کے لوگ ہمیشہ ان کے مشتاق رہتے، تقریر اپنی ماوری زبان پنجابی میں کیا کرتے، ان کے عقیدہ مندوں کا حلقہ نہایت وسیع تھا، انہوں نے اپنے مواعظ کے ذریعے شہیت کا پیغام پاکستان کے گوشے گوشے تک پوری بیباکی سے پہنچایا اور عقائد باطلہ کی تردید پوری قوت سے کی، پرخاطر استوں سے گزرے، دھمکیاں سنیں مگر کبھی ان کا عزم متزلزل نہ ہوا۔

مولانا نوری نورانی مرقہ نے وعظ و تقریر کے ساتھ تحریر کا سلسلہ بھی جاری رکھا، لاہور آنے کے بعد ماہنامہ الحیب جاری کیا جسے کامیابی سے چلاتے رہے، ان دنوں نوجوان فاضل مولانا محمد شریف شرقپوری (فاضل بصیر پور) آپ کے معاون رہے اس کے علاوہ آفتاب سنت و تاریخ سنت (تاسیف فردوس علی شاہ دیوبندی قصوی) بارہ تقریریں، نشری تقریریں، مسئلہ گیا رہیں، ہر مسرت تعزیر داری اور عرب کا مسافر ایسی مقبول عام تصانیف یادگار چھوڑیں۔

۲۸ ربیع الاول، ۱۳۱۳ھ (۱۹۷۲ء) جمعہ ہفتہ کی دریا شب پر ہسپتال میں تقریباً ۲ بجے آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا علامہ ابوبکر کلات مباحہ دہشت برکات عالم نے پڑھائی ملے۔
آپ اپنے والد گرامی کے اکلوتے فرزند تھے، خطیب پاکستان مولانا غلام الدین قیس کے آپ کے علم محترم تھے، مولانا نوری قدس سرہ کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہوئی، اس وقت چار بچیاں بقید حیات ہیں۔

جامع مسجد محمدیہ راوی روڈ پر آپ کا مزار زیر تعمیر ہے۔

ماہنامہ رضائے معلیٰ گوجرانور (ربیع الثانی ۱۳۹۲ھ) ص ۱۰

مبلغ اہل سنت مولانا مفتی محمد صادق رحمہ اللہ (راولپنڈی)

حضرت مولانا مفتی محمد صادق رحمہ اللہ تمارے ۱۳۴۴ھ/۱۹۲۵ء میں موضع بلاذلی ضلع کیمپو (پنجاب) میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد آٹھویں جماعت تک سکول میں تعلیم حاصل کی، بعد ازاں اپنے بڑے بھائی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر حضر ضلع کیمپو کے مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کی، درس نظامی کی متداول کتب پڑھنے کے بعد ۱۳۶۰ھ/۱۹۴۰ء میں مدرسہ ملی پاکستان کی قدیم درس گاہ دارالعلوم حزب الاحناف (لاہور) میں درس حدیث لیا اور امتیازی حیثیت سے کامیاب ہوئے تحصیل علم کے بعد راولپنڈی میں مستقل سکونت اختیار کی اور تبلیغ دین کا کام شروع کیا۔ ۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء میں سرپاشا تیار و محبت بن کر حجاز مقدس کا سفر کیا اور حرمین شریفین کی حاضری سے شاد کام ہوئے۔ آپ سلسلہ حدیث شریفہ نظامیہ میں پار عالمی گورنر شریف کے حلقہ ارادت میں داخل تھے۔

مفتی صاحب ہر عمر نرینہ اور مقبول عام شخصیت تھے، فن خطابت میں یدِ طولیٰ حاصل تھا اکثر و بیشتر تبلیغی دوروں پر ہا کرتے، دین تین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لئے بے پناہ درد رکھتے تھے، راولپنڈی میں جب تنظیم العلماء کے نام سے ایک جماعت قائم کی گئی تو مفتی صاحب نے پرچوش اور سرگرم رکن کی حیثیت سے کام کیا، تنظیم کے تحت ہفتہ وار پروگراموں میں باقاعدگی سے شریک ہوئے، چونکہ آپ کی قیام گاہ مورگاہ میں تھی اور رات کو اجلاس کے اختتام پر کوئی سڑی بھی میسر نہ ہوتی تھی اس لئے پیدل ہی اپنی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے۔ یہ ان کے مخصوص ایثار کی تین دلیل تھی کہ وہ تبلیغ دین کے جذبے کے تحت اپنے آرام و سکون کو پس پشت ڈال دیتے تھے، جب بھی کوئی مجلس مشاورت منعقد ہوتی تو آپ کی یہی کوشش ہوتی کہ غیر متعلقہ باتوں کی بجائے پوری توجہ علماء کی تنظیم اور جماعت کی حرفی دستکام کے مختلف پہلوؤں پر صرف کی جائے۔

مفتی صاحب صحیح بیان خطیب تھے، جب خطبہ شروع کرتے تو تمام مجمع پر سکوت طاری ہو جاتا اور ہر شخص ان کی تقریر سننے کے لئے بہترین گوش ہو کر بیٹھ جاتا اور جب پُرکوا آواز

میں سنوئی شریف پڑھتے تو سامعین مجھوم تھے اور اکثر لوگوں کی آنکھیں بے اختیار اشکبار ہو جاتیں۔

۱۲ صفر المظفر ۱۳۰۳ مئی (۱۳۸۴ھ / ۱۹۶۶ء) بروز منگل شام ساڑھے چار بجے مورگاہ انک آئل کمپنی سے ایک ضروری دینی کام کے لئے سکورپسٹلائٹ ٹاؤن جا رہے تھے کہ راستے میں مری روڈ پر پولیس کی گاڑی سے حادثہ ہو گیا جس میں آپ شدید طور پر زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تین بجے شب محبوب خلیق کے دربار میں حاضر ہو گئے، دوسرے دن بونڈا بونڈی کے باجوہ شہر بھر کے علماء کے علاوہ بیس ہزار سے زائد افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور مورگاہ کی مسجد میں باچشم بزم سپرد خاک کیا، مطعی صاحب نے پساندگان میں ایک بیوہ اور چھ بچے چھوڑے۔

لے بہت بدوہ (آب ہنار) رضاعی مصطفیٰ

حضرت مولانا ابوالنور محمد صدیق حجتی بن مولانا ابوالصدقین احمد دین (قدس سرہ) پاک

حضرت مولانا ابوالنور محمد صدیق حجتی بن مولانا ابوالصدقین احمد دین (قدس سرہ) پاک سیرت اور صوفی مشرب عالم تھے۔ آپ کے آبا و اجداد جلعق فرزند پور (بھارت) کے رہنے والے تھے، سکھوں کے حملہ میں منتقل ہو کر یہ بزرگ جلعق ساہیوال میں آباد ہو گئے۔ اس خاندان نے علوم دینیہ کی اشاعت میں اہم خدمات انجام دی ہیں، آپ کے جدِ اعلیٰ حضرت مولانا ابوالجمال حافظ محمد حبیب اللہ المعروف برفع پوش قدس سرہ بلند پایہ عالم اور ولی کامل تھے، چوٹا انور پر حجاب ڈالے رہتے اور حسن تغاتی سے تدفین کے دوسرے روز آپ کے مرقد پاک کو بھی سبزہ زار نے ڈھانپ کر آپ کی عادتِ کرمیہ کی اتباع کا حق ادا کر دیا۔

آپ کے والد ماجد اپنے دور کے ممتاز عالم تھے، فارسی زبان میں مہارت تامر رکھتے تھے چنانچہ آپ نے علوم عربیہ اور فارسی کی تعلیم انہی سے حاصل کی اور دورہ حدیث پاک کی تحصیل کے لئے اپنے فرزند ارجمند فقیر محمد مولانا ابوالخیر محمد نور اللہ نعیمی مدظلہ العالی کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ سرکارِ دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، ذکرِ مصطفیٰ منکر آپ کا جسم لرز جاتا تھا۔ ایک مرتبہ دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بھیر پور کے سالانہ جلسہ پر شیخ القرآن علامہ ابوالخیر محمد عبدالغفور ہزاروی قدس سرہ اپنے خاص انداز میں تقریر شروع کی، آپ بہت علیل تھے، علامہ ہزاروی کی آواز سن کر فرمایا مجھے جلسہ گاہ میں لے چلو چنانچہ دو آدمی کندھوں پر آپ کو جلسہ گاہ میں لائے اور تین فرسٹ اونچے اسٹیج پر بٹھا دیا، علامہ ہزاروی نے امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی قدس کا یہ شعر پڑھا:

ان کی بہت سے دل کے غمگینوں کے لئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسادے میں

تو سرکارِ دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مخصوص مہک سے غفلت ہو کر آپ پر وہ کی کیفیت طاری ہو گئی چنانچہ آپ بڑی روانی سے ذکر کرتے ہوئے سچے سے سچے آرائے آپ نے ۱۹۴۸ء میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔

مولانا ابوالنور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مشہور بزرگ قدوة السالکین حضرت خواجہ حافظ جان محمد

قدس سرہ (مکمل) صلیح ساہیوال سے بیعت اور ہمارے نئے نئے دوسرے سلسلہ ہائے طریقت کے بزرگوں سے بھی استفادہ تھے۔ آپ کے مریدین کا حلقہ وسیع تھا۔

آپ کے فرزند ارجمند حضرت فقیر اعظم جب محقق دوران علامہ سید ویدار علی شاہ قدس سرہ سند درس حدیث لیکھائے تو آپ نے فرید پور باگیرساہیوال میں دارالعلوم کے قیام کا مشورہ دیا چنانچہ ۱۲۴۲ھ میں یہاں دارالعلوم قائم کر دیا گیا اور پھر ۱۳۶۵ھ میں اسے لہیر پور منتقل کر دیا گیا۔ مولانا ابوالانور نے اس دارالعلوم کے ذریعہ دینی خدمات کا تمام تر اجر خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نذر کر دیا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ روزِ محشر ہم خالی ہاتھ جا کر اپنا دارالمنجور ہی کی عنایات سے بھری گے۔ دارالعلوم کی ترقی میں آپ کی مساعی ناقابل فراموش ہیں۔

آخر عمر میں شانہ کے موذی مرض میں مبتلا ہوئے، شدید ترین تکلیف کے باوجود آپ احکام شریعہ پختگی سے عمل پیرا رہے۔ آپ کو سول ہسپتال (منگھری) میں داخل کیا گیا مگر اپریشن کے باوجود بھی مرض میں کمی واقع نہ ہوئی۔ آخری لمحات میں آپ نے اپنے فرزند ارجمند فقیر عظیم رضا علی سے راز دارانہ باتیں کیں، اس دوران کر تک رشتہ زلیست ٹوٹ چکا تھا لیکن آپ برقی رفتاری سے کلمہ طیبہ کا ذکر کر رہے تھے چنانچہ اسی کیفیت میں، ۱۷ رمضان المبارک ۱۵ ارجح (۱۳۸۰ھ/۱۹۶۱ء) بروز اتوار آپ نے سفرِ آخرت فرمایا اور دارالعلوم کے وسیع احاطہ میں آپ کا مرقدا نوراً من مریدین و متقین ہے۔

آپ نے دو شاہان کیں جن سے متعدد صاحبزادیوں کے علاوہ مولانا ابوالخیر محمد نواز علی مدظلہ، شیخ الحدیث و بانی دارالعلوم فقیر فرید پور، مولانا ابوالیقار محمد حبیب اللہ نوری، مولانا ابوالخیر محمد احمد حقیقی، مولوی محمد احمد اور حافظ مقصود احمد صاحبزادگان آپ کے غلت ہیں لہٰذا استاذ العلماء مولانا الحاج فتح محمد بہاولنگری قدس سرہ نے قطعاً تاریخ وصال رقم فرمایا ہے

بیت حضرت بگویم دوستان	کہ رحلت مولانا صدیق فرمود
مجاہد عابد و عاشق رسولی	فقیر وہم تعنی وہم صفتی بود
گذشتہ عمر اور خدمت خلق	برفت از ما بحق فرسندہ خوشنود
ذول تاریخ پر سیدیم و گفتہ	فنگندہ کشش جت مغفور بودود

لہٰذا یہ حالات مولانا شاہ محمد چشتی قصوری سے حاصل ہوئے۔

مرجع الکاملین حضرت خواجہ محمد عثمان نقشبندی قدس سرہ

شیخ المشائخ حضرت خواجہ محمد عثمان نقشبندی قدس سرہ ۱۲۴۴ھ/۱۸۰۹ء میں بمقام لونی تحصیل کلہاچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خاں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد نام معلوم نہیں ہو سکا، نہایت متقی اور پرہیزگار تھے، انہوں نے آپ کو علوم دینی کی تحصیل پر لگا دیا۔ تکمیل علوم کے بعد حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری (۱۲۸۴ھ/۱۸۶۷ء مولیٰ فی شریف ڈیرہ اسماعیل خاں) خلیفہ حضرت شاہ احمد سعید دہلوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ۹ جمادی الاخریٰ (۱۲۶۶ھ/۱۸۵۰ء) کو بیعت ہو کر مدارج سلوک طے کرنے کے علاوہ علم اخلاق، علم سیر، علم تصوف اور علم حدیث کی تحصیل کی اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ احمدیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کبرویہ مداریہ قلندریہ شطاریہ میں ماذون و مجاز ہوئے آپ نے جس محنت و جانگدازی سے اپنے شیخ کی خدمت کی، کوئی اور مرید نہ کر سکا۔ شیخ کامل بھی آپ پر عنایت بے غایت کرتے تھے حتیٰ کہ جب حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری قدس سرہ کا ۲۲ شوال المکرم (۱۲۸۴ھ) کو وصال ہوا تو مولیٰ زنی شریعت میں ان کے ایما اور اجازت سے آپ ہی مجاہد نشین ہوئے اور بڑی خوبی سے فرائض نیابت کو انجام دیا، پیر و مرشد کے وصال سے تین سال بعد کمال اشتیاق سے زیارت حرمین شریفین کے لئے روانہ ہو گئے، حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور گیارہ دن تک قیام کیا، اس دوران کھانا پینا ترک کر دیا تاکہ قضائے حاجت کی ضرورت نہ پڑے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں قضائے حاجت کی جائے وہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پائے قدس آیا جو، ذرا اندازہ کیجئے کہ دیا حبیب کا ان کے دل پر کتنا احترام تھا۔

حضرت خواجہ محمد عثمان قدس سرہ ہر فعل میں اتباع سنت کو پیش نظر رکھتے اور کسی کام میں خلافت سنت کو رد نہ رکھتے تھے، خالقاہم حاضر درویشوں کو نماز تہجد کے لئے

اٹھنے، مراقبہ کرنے اور کثرت ذکر کی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ باوجودیکہ آپ کے بزرگوں میں سے تھے لیکن نفسی کا یہ عالم تھا کہ فرمایا کرتے تھے "مجھے پیری اور بزرگی کا دعویٰ نہیں ہے، میں تو حضرت پیر و مرشد کے مزار پر انوار کا چاروب کش اور درویشوں اور نازرین کا خدمت گزار ہوں۔" کسی عقیدت مند پیش کش کرنے کہ ہماری زمین، چاند اور باغ وغیرہ قبول فرمایا بیٹے ہا کہ نگر کا کام چلتا رہے مگر آپ فرماتے کہ: "نگر کے اخراجات اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتوں میں ہمارے مشائخ کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ تردد نہیں کرتے تھے" اور پیشکش بڑی خوبصورتی سے ٹال دیتے۔ آپ کے ملفوظات اور مکتوبات مولانا مظہر حکیم کے ہتھ پر جو اہر پارہ ہوتے تھے، ملفوظات، کرامات اور مکاتیب پر مشتمل مجموعہ فوائد عثمانی مرتبہ سید محمد اکبر علی شاہ دہلوی چھپ چکا ہے۔ آپ سے بے شمار افراد نے کسب فیض کیا اور درجہ کمال کو پہنچے۔ آپ سے بکثرت کرامات کا ظہور ہوا اور خلق خدا کو ظاہری و باطنی عام نفع پہنچا۔ آپ کے مرید مولوی حسین علی داں بھروی (مضلع میانوالی، مولف بلفہ الحیران ایک روز یہ سوچتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اولیاء کرام کو بعض چیزوں کا عالم ہونا ہے یا اکثر کا، اور توجہ کے بعد حاصل ہوتا ہے یا بغیر توجہ کے؟ اس وقت آپ کسی شخص سے پشت میں گفتگو کر رہے تھے، مولوی صاحب کے آتے ہی پتہ چھو کر فرمایا:

"اولیاء ہمہ میدانند و لکن مامور بانہما نیستند" لے
یہ کہہ کر پھر اسی طرح غور گفتگو ہو گئے۔

سید سرور علی شاہ بخاری مثنوی کو ایک مکتوب میں لکھتے ہیں :-
"اے عزیز! اوقات مستعارہ خود را کہ بدل ندرند بطاعت و عبادات

لے محمد اکبر علی شاہ دہلوی سید : مجموعہ فوائد عثمانی (مطبع ثانی ۱۳۸۳ھ، لال پور پک ۲۳، جھوکہ چورس) ص ۹۰
۵۵ بعد ازاں یہ صاحب دیوبند میں ایسے دو بکے بلذات ان کے حسن مقامات پر سفر و کسب عنایت کی تلمیح کر گئے کہ اللہ تعالیٰ کو مشاہدہ کے وجود ہونے سے پہلے میں ہوتا، ان خود بات سوز رک: (مذہب انور علی و ص ۵۰۵)

واذکار و افکار و ارادہ کہ سعادت دارین و دولت کوٹین در این است غیر ازین
ہمہ چیخ و انجام حاجات ضروریہ لایذریہ جو سید پیران کبار علیہم الرضوانی نارحمتہ
مہوارہ میخواستہ باشند انشاء اللہ تعالیٰ بہدین اجابت رسد" لے

آپ نے کثیر التعداد مریدین کو شرف خلافت عطا فرمایا، خود حضرت خواجہ دوست محمد
قدھاری رحمۃ اللعالمین کے متعدد خلفاء ان کے وصال کے بعد آپ سے مستفیض ہوئے، آپ
کے فرزند ارجمند حضرت مولانا سراج الدین خلیفہ و جانشین ہوئے۔

۲۲ شعبان المعظم ۲۶ جنوری (۱۳۱۴ھ/۱۸۹۶ء) بروز منگل اشراق کے وقت آپ کا
وصال ہوا، مولوی زکی شریف (ڈیرہ اسماعیل خان) ہیں آپ کا مزار مرصع خلافت ہے لے
حافظ محمد حسین خان نازاں حاشتی سلیمان رییس اعظم بھرتے قطعہ تاریخ وفات کما
بست و دوم زمانہ ہے شعبان محترم بود رفتہ بسوئے جنت کاں جس پر فرشتہ
سال وفات حضرت بہر صلاب نازاں عثمان نقشبندی کمال ولی نوشتہ لے

۱۳ ۱۲ ۱۱

لے محمد اکبر علی شاہ دہلوی سید :	مجموعہ فوائد عثمانی	ص ۴۳
لے ایضاً	۱۳۵۱۲۸ (تقریباً تمام مقامات کتبہ افواجی)	ص ۱
لے ایضاً		ص ۱۲۲

مفسر جلیل، تاج العلماء مولانا مفتی محمد عمر نعیمی قدس سرہ العزیز

حسن ملت محدث و مفسر مولانا مفتی محمد نعیمی ابن محمد صدیق ربیع الاول ۱۲۰۳ / ۱۸۹۳ء میں بمقام مراد آباد پبلیکیشنز کے مدیران مجید الحاج حافظ محمد حسین سے پڑھا فارسی اور صرف و نحو کی کتابیں مولانا نظام الدین سے پڑھیں ۲۲ / ۱۲ / ۱۹۰۶ء کو صدر لکھنؤ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت جلد علوم و فنون اور حدیث شریف کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ادب عربی اور طب میں دسترس حاصل کی صفر ۱۳۲۹ / ۱۹۱۱ء میں سند فضیلت حاصل کی دو سالہ بندی کے وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی، صاحب الاسلام مولانا حامد رضا خاں، مکمل العلماء مولانا مظفر الدین بہاری، صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی، مولانا محمد فاخر اجملی، شاہ عبدالقادر ریلوینی، مولانا صاحب احمد بریلوینی، مولانا عبداللہ عبدالقادر ریلوینی، مولانا شاہ سلاطین رامپوری، مولانا امجد حسین رامپوری وغیرہم فضیلت اکابر اسلام جہودہ اقر و رضی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے دستار بندی کی رسم دلائی۔

فراغت کے بعد مراد آباد میں اہل سنت کی عظیم کس گاہ جامعہ نعیمیہ کے مدرس اور ستم مقرر ہوئے، ۱۹۰۶ / ۱۳۲۵ء میں شیخ المشائخ مولانا سید علی حسین کچھوچھوی کے دست اقدس پر بیعت ہوئے، ۱۹۱۱ / ۱۳۲۹ء میں اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے، قیام مراد آباد کے دوران ۱۹۱۹ / ۱۳۳۸ء میں نہایت اہم بابنامہ السواد الاعظم جاری کیا یہ جدید ربع صدی سے زیادہ عرصہ تک علوم اسلامیہ و زینت کا سرگرم نقیب رہا، حالات حاضرہ اور ملکی سیاست پر زبردست تنقید و تبصرہ کے علاوہ اپنی نقطہ نظر سے راہنمائی کے فرائض بھی انجام دیتا رہا۔ مفتی صاحب نے آل انڈیا مسلم کانفرنس کے نائب ناظم کی حیثیت سے نمایاں خدمات انجام دیں ۱۹۲۶ء میں بنارس کے تہذیبی اجلاس میں تحریک پاکستان کی پرزور تائید فرمائی۔

تقریر ملک کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں عافیت سے رہنا مشکل ہے تو ہجرت کر کے ہندو شریف جانے کے ارادے سے کراچی شریف لائے اور مبلغ اسلام

مولانا عبدالعلیم نعیمی کے اصرار پر کراچی میں قیام پذیر ہو گئے، دارالعلوم مخزن علوم عربیہ جاری کیا اور جامع مسجد آرام باغ میں اعزازی طور پر شطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ۲۳ ذیقعدہ ۱۳۵۵ / ۲۰ مارچ (۱۹۶۶ / ۱۳۸۵ء) میں کراچی میں وفات پائی آپ کا مزار شریف مسجد دارالصلوٰۃ ناظم آباد کراچی میں ہے، مفتی جنت محمد عمر (۱۳۸۵ھ) تاریخ جمال ہے نے جناب مبارک براری نے درج ذیل تاریخ وفات لکھی ہے

جو کیوں نہ چشم حق میں یوں اشکبار بار عالم سے اٹھ گیا ہے کہ عاقبت نبوی تھا جس کا فیض جاری دنیا کے علم دین با تھی جس کی عطر باشی خوشبو کے صد تیبی شیخ الحدیث تھے وہ اس دور حاضرہ کے اسلام ذی شرف کے مجرورہ نعیمی پہنچا دے ان کو یارب دربار مصطفیٰ میں دے خدا ان کو تیری برشان ہے کرمی

سال وصال مبارک فقیر کو ملا کر

ہادی اہل سنت مفتی عمر نعیمی

مولانا ضیاء القادری بریلوینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے درج ذیل تاریخ لکھی ہے

عالم ذی جاہ مولانا عمر مفتی سراج علم مثل ماہ مہر اسے ضیاء ہے آپ کا سال دہا عالی جنت رحمتہ اللہ علیہ

”تفرقہ اقوام“ اور مسائل رمضان و عید الفطر آپ کی یادگار ہیں۔

حضرت مولانا اطہر نعیمی شطیب جامع مسجد آرام باغ کراچی مدرس دارالعلوم نعیمیہ کراچی آپ کے فرزند ارجمند ہیں اور مسلک اہل سنت کی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی استاذ دارالعلوم نعیمیہ کراچی بہت ہی ممتاز ہیں۔ نہایت وسیع المطالعہ، انتہائی خوش اخلاق اور مسلک و ملت کے لیے پروردگار کے لئے ان کی مسلکی اور دینی خدمات نہایت وقیع اور قابل قدر ہیں۔

۱۔ غلام مہر علی مولانا ابو اقیات امرہ ص ۱۱۱ - ۱۱۲
۲۔ مولانا احمد قادری، مولانا شاہ ۱۔ تذکرہ صلوات جنت ص ۸۸
۳۔ سواد اعظم لاہور

مناظر اسلام مولانا محمد عمر اچھروی قدس سرہ

وسعت علم اور حاضر جوابی میں ان کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی، تقویٰ اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ انہوں نے مسلک اہل سنت و جماعت کے تحفظ کے لئے تحریری اور تقریری کوششوں میں تمام عمر صرف کی وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہیں بلا تخصیص تمام مذاہب باطلہ کے مقابلے میں پیش کیا جاسکتا تھا۔ ہر روز قرآن مجید کے پانچ پاروں کی تلاوت اور شب بیداری آپ کے معمولات میں سے تھے۔ دورانِ تقریر آیاتِ قرآنیہ سے اس کثرت سے استدلال کرتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔

۱۹۰۲ء میں مولانا محمد امین ابن حاجی عبدالملک کے گھر قصور میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید والدہ ماجد سے پڑھا۔ علومِ دینیہ مولانا صلاح الدین، مولوی محمد حسین لکھوی، مولوی عطاء اللہ لکھوی، مولوی محمد عالم سنبل (لاہور) سے پڑھے۔ امامِ ہند امام احمد رضا بریلوی کے شاگرد رشید مولانا محمد حسین (امام و خطیبِ ملیشن فیودر پور) کے ہاں کچھ عرصہ زیر تعلیم رہے اور اس عرصہ میں مولانا کے شاگرد راشد مولانا علی محمد جماعتی علیہ الرحمۃ (قصور) کے ہاں قیام پذیر رہے (جو ان دنوں فتوہ والہ میں مقیم تھے) مولانا علی محمد جماعتی کے بیان کے مطابق مولانا اچھروی بہت جتنی تھے ملے

آپ نے مدرسہ رحمانیہ دہلی میں درسِ حدیث کی تحصیل کی اور سند مولوی عبداللہ پوری اہل حدیث سے حاصل کی۔ آپ نے تمام زندگی مسلکِ اصناف کی بھرپور حمایت کی۔ مولانا احمد علی سہارنپوری، حمید رشید مولانا احمد علی میرٹھی سے دوبارہ حدیث شریف کا درس لیا۔

حضرت مناظر اسلام نے تمام عمر تقریر اور مناظرہ میں صرف کرنے کے باوجود تصانیف کا بھی قابلِ قدر کتب کا ذخیرہ یا دو کار چھوڑا ہے، آپ کی مشہور اور مقبول علم تصانیف کے نام یہ ہیں۔

۱۔ سلسلہ روایت: سلسلہ محمد علی بن سلیمان بن علی بن ابی طالب

- ۱۔ مقیاسِ خشیت
- ۲۔ مقیاسِ انور
- ۳۔ مقیاسِ الصلوٰۃ
- ۴۔ مقیاسِ المناظرہ
- ۵۔ مقیاسِ الخلافۃ
- ۶۔ مقیاسِ النبوة وغیرہ وغیرہ

آپ حضرت میاں شیر محمد شہر قبری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دستِ حق پرست پر بیت تھے ملے اور ان سے بے حد عقیدت رکھتے تھے۔

۲۔ فدا القعدة المبارکہ، ۲۱ دسمبر ۱۹۳۱ء / ۱۹۴۱ء کو آپ دلہا ودانی کی طرف تشریف لے گئے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ ابوبکر کرات سید احمد امت بکا تلم لعلیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

آپ کے صاحبزادوں میں سے مولانا محمد عبدالوہاب منظر ان دنوں انگلینڈ میں تبلیغِ اسلام کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مولانا عبدالنواب ریڈیچہ مقیاس پر لیس کی نگرانی کے علاوہ تقریر و مناظرہ کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں مشہور شیعہ مناظر مولوی سخیل سے گنگ شریف میں کامیاب مناظرہ کیا اور مقابلہ کوشکت دے کہ والد ماجد کی یاد تازہ کر دی۔ مولانا سلطان باجو زید مجتہد اور مولانا فقیر اللہ بھی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

حضرت مولانا شریف احمد شرافت نوشاہی نے قطعہ تاریخ وفات لکھا ہے

جناب مولوی فخر زمانہ	محمد آں عمر مرد یگانہ
بعلیم دین عالی دستگاہ ہے	بشرع و فطرت بس ان لنگاہ ہے
مناظر اہل حق بودہ بانصاف	معلین مست بیضائے احصاف
برائے اہل بدعت تیغ قاطع	خلاف گریہاں برہان ساطع
باعدائے نبی شمشیر تہاں	بمیدان نغز اچوں شیر نغراں
گریزاں رافضی وہم دہانی	ہم ازو سے قادیانی راخرابی

فنائے ارحمی الاق شنیدہ سوئے فردوس شد رخشنیدیہ

شرافت سالہ وصلش جیت ازجاں

نہ آد بگو " منظور دیاں ! "

۹۱ ۳

دیگر

زہے مولوی محمد عمر کہ دروین حق بود مثل قمر
ز زحیل و سے چوں شرافت بجست نداگشت " حافظ محمد عمر "

۹۱ ۳

رئیس المحققین حضرت علامہ مولانا محمد غازی قدس سرہ

آپ کا پیرِ عظمیٰ بہت بلند ہے، اپنے دور کے اکابر فضلاء میں سے غفے، فرژہ (کمپا پور) میں پیدا ہوئے۔ علامہ محمد غازی صاحب اسٹاؤن من مولانا احمد حسن کانپوری کے جلد تلامذہ میں سے تھے، ہجرت کر کے میکہ مکہ مکرمہ چلے گئے اور مدرسہ مولانیہ میں آٹھ سال تک درس دیتے رہے حضرت شیخ الاسلام پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو مولانا علامہ محمد غازی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے علوم و معارف سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کے ساتھ ہی گولڑہ شریف چلے آئے اور تمام علم و ستائش عالیہ پر بسری اور مسلک اہل سنت و جماعت کے تحفظ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ افسوس کہ آپ کے تفصیلی حالات معلوم نہیں ہو سکے، ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء کو دارالافتح کا سفر کیا اور گولڑہ شریف کی مسجد کے شمالی جانب حضور اعلیٰ گولڑوی کے والد ماجد حضرت خواجہ سید نذر الدین قدس سرہ کے مزار کے پہلو میں دفن ہوئے سلمہ

حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ نے اپنی مشہور نہ ماہ کتاب سیفِ چشتیانی میں سیکہ کذاب، مرزائے قادیانی وغیرہ کی صف میں محمد بن عبدالوہاب نجدی کو بھی شمار کیا ہے آپ کے وصال کے بعد وہابیوں نے مطالبہ کیا کہ نجدی کا نام اس کلمت سے حذف کر دیا جائے حضرت مولانا محمد غازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ایک حویلِ حاشیہ میں نجدی کے عقائد و مظالم بیان کر کے فرمایا کہ ان حالات میں ہم نجدی کا نام حذف کرنے سے معذور ہیں۔

عارف باللہ حضرت خواجہ محمد قاسم موہڑوی قدس سرہ الخریز

ولی کامل مرشد خلائق حضرت خواجہ محمد قاسم موہڑوی (باداچی) رحمہ اللہ تعالیٰ کا شجرۂ نسب درہمیں ایران کے کیانی خاندان سے ملتا ہے۔ آپ کے جد امجد عبدالعزیز عالمگیر (رحمہ اللہ تعالیٰ) میں دار و ہندوستان ہوئے۔ آپ کے جد امجد اور والد گرامی کا معمول تھا کہ پنجاب سے سامان تجارت لے کر کشمیر جاتے اور راستے میں پہاڑی علاقوں میں تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرتے رہتے۔ حضرت خواجہ صاحب کے والد ماجد بچپن میں ہی دایع مفارقت دے گئے۔ ہوش سنبھالنے پر والدہ ماجدہ نے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا اور علوم دینیہ کی تحصیل کے لئے ہندوستان بھیجا جہاں آپ نے اس دور کے مشہور مفسر سے استفادہ کیا اور تقریباً ۱۸۶۶ء/۱۲۸۶ھ میں تکمیل علوم کے بعد واپس تشریف لائے اور راولپنڈی کے قریب موضع جگپورٹ میں دینی مدرسہ قائم کر کے تشنگان علوم دینیہ کو میراب کرنے لگے اس کے باوجود آپ کو کسی مرد کامل کی تلاش بے چین کے رکھتی تھی جس سے مراد معرفت اور فیوض و برکات کا استفادہ کیا جاتا۔

علاقہ مری کی جنوبی جانب کسی قوم آباد تھی ان میں ایک دفعہ شیعی بنیاد پر نزاع پیدا ہو گیا اور نوبت خونریزی تک جا پہنچی فریقین کے بے دانش نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کسی مشہور عالم دین کو بلا کر تصفیہ کرایا جائے اور ان کے فیصلے کو دونوں فریق تسلیم کریں، نگاہ انتخاب حضرت خواجہ موہڑوی قدس سرہ پر پڑی، آپ نے فریقین کے بیانات سن کر اہل سنت کے حق میں فیصلہ دیا، فریق مخالف نے سازش کے تحت آپ کے کھانے میں ذہم ملا دیا جسے کھا کر آپ بیہوش ہو گئے اور ایک رات دن تک یہی کیفیت رہی اسی حالت میں آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین کیائے شریف (کشمیر) کے دربار عالیہ کا نقشہ دکھا کر حاضر کی حکم دیا گیا چنانچہ آپ ہوش میں آنے کے بعد دشوار گزار راستوں کو طے کرتے ہوئے کئی شریف پہنچ گئے اور مزاج عالم حضرت خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے دست مقدس پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت کی سعادت حاصل کی۔ آپ کا سلسلہ طریقت بارہ واسطوں سے حضرت مجدد الف ثانی

شیخ احمد سرہندی قدس سرہ تک پہنچتا ہے۔

مرشد کامل نے بیعت کے بعد خلافت سے نوازا اور موہڑہ شریف ایسے گنجان اور شہر گزار پہاڑی علاقہ میں قیام کا حکم دیا حضرت خواجہ محمد قاسم موہڑوی قدس سرہ نے شیخ کے ارشاد کی تعمیل ہی طرح کی کہ ستر سال کا طویل دور اسی جگہ عبادت و ریاضت اور خلق خدا کی رہنمائی میں بسر کیا اور سال میں ایک دفعہ مرشد کی خدمت میں حاضری دینے کے علاوہ کسی طرف رخ نہ کیا۔ دور افتادہ مقام میں قیام کے باوجود ہزاروں افراد آپ کی خدمت میں حاضری دیتے اور مقصد دلی حاصل کر کے واپس ہوتے سینکڑوں راہ طریقت کے سالک رتبہ کمال کو پہنچے، خلعت خلافت سے مشرف ہوئے اور پھر پاک و ہند کے مختلف مقامات پر تبلیغ دین اور رشد و ہدایت کے کام پر مامور ہوئے۔ آج بھی لاکھوں افراد آپ کے فیوض و برکات سے مستفید ہو رہے ہیں۔

آپ کے خلاق و عادات سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے منظر غنی سینکڑوں ہندو اور سکھ آپ کے خلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور بے شمار فسق و فجور میں مبتلا افراد آپ کے فیض صحبت سے تقویٰ و پرہیزگاری کے پیکر بن گئے۔

آپ ہر وقت یہاں تک کہ رات کو بھی جبر زیم تن رکھتے تھے کسی نے اس کا سبب

پوچھا تو فرمایا!

”جس طرح ایک ملازم باوردی ڈیوٹی پر حاضر ہوتا ہے میں چاہتا ہوں

کہ میرا سر محمد یا د خدا اور مخلوق خدا کی ہدایت میں باوردی لکھا جائے۔“

تقریباً ایک سو بیس سال کی عمر میں ۱۳ ذی قعدہ ۱۲۱۰ نومبر (۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء) بروز

جمعۃ المبارک عارف باللہ حضرت خواجہ محمد قاسم موہڑوی قدس سرہ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار اقدس

موہڑہ شریف تحصیل مری (منطقہ راولپنڈی) میں مرجع خلائق ہے۔ آپ نے اپنی حیات ظاہری میں اپنے

فرزند ارجمند حضرت خواجہ پیر علی احمد قدس سرہ (۲۸ محرم ۱۲۱۰ جولائی ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۰ء بروز جمعہ)

خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین قدس سرہ (کیائے شریف) کو جانشین بنا دیا تھا اور وصال کے وقت

وصیت فرمائی تھی کہ جہانمات میں نے آپ کو دی ہے اس کی حفاظت کرنا، امیر اور غریب دونوں آپ کے پاس آئیں گے، اگر غریبوں کو باہر نکال دیا اور امیروں کو ترجیح دی تو میرا دل ڈکے گا، دونوں سے برابر سلوک کرنا۔

ان دنوں حضرت الحاج خواجہ پیر یاروں الرشید مدظلہ موہڑہ شریف میں عوام و خواص کو فیضِ دربرکت سے مستفید فرما رہے ہیں۔

سید محمد عبدالعزیز ہمدانی مولانا ، بابائے سبیل ، جولائی ۱۹۷۳ء
فیض ، اگست ۱۹۷۳ء

مبلغ سنیت عارفِ حقانی مولانا پیر محمد معصوم شاہ قدس سرہ العزیز
(بانی نوری کتب خانہ اور باہر حقہ گنج بخش قدس سرہ الہی)

مولانا سید محمد معصوم شاہ ابن حضرت فضل شاہ (سجادہ نشین) ایک سادہ شریف ، ضلع گجرات ، تقریباً ۱۳۱۶ھ/۱۸۹۶ء میں پیدا ہوئے۔ ذہنی تعلیم حضرت مولانا امام دین رحمہ اللہ سے حاصل کی، بعدہ لاہور میں حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر حضرت بابا فضل نور قادری نوشاہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے اور خلافت سے نوازے گئے، حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو خاص عقیدت تھی آپ نے اپنی زندگی کے اکثر اوقات مزار حضرت داتا صاحب پر گزارے، آخر ۱۹۵۵ء میں حضرت کے قریب متقل سکونت اختیار کر لی، حضرت شیخ الحدیث لاکھڑوی ہر ماہ حضرت داتا گنج بخش کے دربار میں حاضر فرماتے آئے تو حضرت پیر صاحب سے ضرور ملاقات کرتے اور سنی رضوی کتب خانہ کے لئے بہت سی کتابیں خرید کر لے جاتے۔

آپ کا عظیم شان کا نامہ نوری کتب خانہ کا قیام ہے، اس کے اہتمام سے حضرت مجددِ ملت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی اکثر کتابیں شائع کی گئی تھیں اور دیگر علمائے اہل سنت کی نایاب کتب کو حیاتِ نو بخشی، آپ ہی کے مشورے پر حضرت مفتی احمد یار خاں نعیمی قدس سرہ نے قرآن مجید کا ماشیہ نور العرفان تحریر کیا جو امام احمد رضا بریلوی کے ترجمہ کے ساتھ متعدد بار شائع ہوا۔ حضرت مفتی صاحب نے قرآن شرح مشکوٰۃ بھی آپ ہی کے کہنے پر لکھی اور آپ ہی کوششوں سے شائع ہوئی، نیز امیر معاویہ پر ایک نظر حضرت مفتی صاحب سے اس فرض سے لکھوائی کہ بعض لوگوں میں خاص طور پر بعض سادات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بغض پایا جاتا ہے وہ رفع ہو جائے۔

آپ نہایت متدین بزرگ تھے، تبلیغِ دین زندگی کا نصب العین تھا، مسلکِ اہل حق اہل سنت و جماعت کی نصرت و حمایت اور ترویج کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے، آپ نے

اپنی زندگی میں تقریباً بیس سال قلمی کراہیں جن میں لاہور کی حسین و جمیل نور محمد مسجد نوری جامع مسجد نوری بالمقابل دیوبند کے اسٹیشن لاہور آپ کی بے مثال یادگار رہے اور آپ کے عشق رسول کی شہادت دے رہی ہے۔ اس مسجد میں ایک مدرسہ اور ایک فری شفا خانہ نوری قائم ہے۔ مرکزی مجلس ضلعا لاہور اسی مبارک و نورانی مسجد میں یومِ رضا مناتی ہے اور مجلسِ رضا کا دفتر بھی اسی مسجد میں قائم ہے۔

آپ نے مختلف خانقاہوں میں رائج بدعات کا قطع قمع کیا اور ان مقامات پر درس تدریس اور وعظ و تبلیغ کے مراکز قائم کئے، بہت سے سستی مدارس قائم کئے اور متعدد اسکول کی مالی امداد و اعانت فرمائی، اسی جذبہ تبلیغ و اشاعت دین کے تحت متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آپ اپنے وقت کے عظیم شیخِ طریقت تھے۔ پورے پاکستان میں آپ کے مريدین کا وسیع حلقہ ہے۔

۲۹ شوال ۱۸۰۱ جنوری (۱۳۸۸ھ/۱۹۶۹ء) بروز شنبہ بوقت عشاء آپ نے رحلت فرمائی اور اپنے پیڑھو بقیّت کے پہلو میں چک سادہ میں مخمخواب آبادی ہوئے حضرت کے ایک صاحبزادی اور دو صاحبزادے یادگار ہیں، بڑے صاحبزادے سے سید محمد حسین شاہ سجادہ نشین ہیں اور چھوٹے صاحبزادے سے سید محمد حسن شاہ لاہور میں نوری بکدلو کے ذریعے خدمتِ مسکات انجام دے میں ملے۔

سلفہ محمّدی اور نوری مولانا : تذکرہ ص ۱۱۱ سنّت (مجموعہ بیوتی پور، بہار، ۱۹۶۹ء) ص ۲۴۴-۲۴۸۔

مبلغ اسلام حضرت مولانا پیر محمد ہاشم جان سرہندی

حضرت مولانا پیر محمد ہاشم جان سرہندی ابن حضرت خواجہ محمد حسن جان سرہندی قدس سرہا ۱۲۱۱ ذیقعدہ ۱۰۲۰ جنوری (۱۳۲۳ھ/۱۹۰۶ء) کو ٹنڈو ساہیو (سندھ) میں پیدا ہوئے۔ سلفہ آپ کا سلسلہ نسب امام ربانی مجدد العتبات ثانی قدس سرہ سے ملتا ہے۔ کتب فارسی والدِ مہاجر سے پڑھنے کے بعد حافظ قاری احمد صاحب نیری سے قرآن کریم حفظ کیا۔ ختم قرآن کے موقع پر عظیم الشان محفل منعقد ہوئی، ایک شاعر نے مادہ تاریخ "حافظ ہاشم" (۱۳۳۵ھ) سے نکالا سلفہ عربی کی تعلیم کا آغاز والدِ مہاجر سے کیا۔ ان کے علاوہ مولانا غلام محمد نظامانی اور مولانا شفیع محمد سوگاری سے بھی استفادہ کیا۔ شرح وقایہ تک پڑھنے کے بعد مزید تعلیم کے لئے امیر شریفیت مولانا معین الدین اجیری قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اکتسابِ علوم کیا۔ اسی اثنا میں لوٹک میں حضرت مولانا حکیم سید برکات احمد ٹوٹی (تلمیذ مولانا عبدالحق خیرآبادی) اور فرنگی محل میں مولانا عبدالباری فرنگی علی کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کیا۔ عمر محل گیارہ سال بیرونِ سندھ رہ کر علم و فضل کی دولت سے مالا مال ہوتے رہے، زیادہ تر امیر شریفیت میں مقیم رہے، یہیں مولانا سید امیر علوی اجیری سے بھی شرفِ تلمذ اختیار کیا۔ سلفہ اور حکیم نظام الدین (ابا اور مولانا معین الدین اجیری) سے علم طلب میں استفادہ کر کے کمال حاصل کیا۔ سلفہ

حضرت مولانا پیر محمد ہاشم جان سرہندی صورت و سیرت اور علم و فضل میں بے مثال شخصیت سلفہ احمدیوں پر کاتی : حضرت پیر ہاشم جان سرہندی سے یک ملاقات از زبان حضرت کاظمی گت ۱۹۶۴ء ص ۲۳ نوٹ: حضرت خواجہ عبداللہ اسدرف شاہ آثار دار درگاہ پیر ہاشم جان نے آپ کا سالِ ولادت ۱۲۶۲ھ لکھا اور کہیں نہیں لکھیں کہ ۱۲۶۲ھ سے عبداللہ جان شاہ آثار دار : مدرسہ علمین ص ۳۰۲-۲۳۲ سلفہ احمدیوں پر کاتی : حضرت ابن سنّت ۱۹۶۴ء ص ۳۴-۳۵ سلفہ عبداللہ جان شاہ آثار دار : مدرسہ علمین ص ۲۳۳

تھے، مگر می پروفسر محمد مسعود احمد مدظلہ پر نیشنل گورنمنٹ کالج (سندھ) رقمطراز ہیں،
 "خوبصورت و خوب سیرت، آپ کو دیکھ کر بے ساختہ قرآن پاک کی آیت
 یاد آتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین ————— لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
 کی تفسیر شاہدہ کرنی ہو تو آپ کی زیارت کریجئے۔"

اس میں شک نہیں کہ مولانا کے مدد و رجوع متوجہ عالم، باکمال مقرر اور ماہر طبیب
 ہیں، ان کی تقاریر سے تجربی کا اندازہ ہوتا ہے، سندھ کا باشندہ ہوتے ہوئے
 اردو اتنی صاف اور رواں بولتے ہیں کہ اہل زبان کا گمان ہوتا ہے؟ سہ

دینی اور ملی تحریکوں سے آپ کو ابتداء ہی سے شفقت رہا ہے، زمانہ طالب علمی
 میں اجمیر شریف سے ایک اشتہار شائع ہوا جس میں درج تھا کہ فوج اور پولیس کی لازمت
 حرام ہے، یہ اشتہار چسپاں کرنے کے جرم میں آپ کے چند ساتھی گرفتار ہوئے، آپ بھی
 معتوب قرار دئے گئے لیکن آپ کے واپس سندھ آجانے پر معاملہ دفع دفع ہو گیا سہ
 شریک پاکستان کے سلسلے میں آپ کے والد ماجد مولانا محمد حسن جان سرہندی قدس سرہ
 نے اپنے مریدین و متعلقین کو خطر طے کھے، ذہنی طور پر تلقین کی کہ ہر صورت میں مسلم لیگ کی حمایت
 اور اعانت کی جائے۔ آپ بھی ان کے ہمراہ کام کرتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد جب
 مجاہدین کشمیر نے آزادی کشمیر کے لئے جہاد شروع کیا تو آپ نے مریدین کو جہاد میں شریک
 ہونے پر تیار کیا، ہزاروں مریدین جمع ہو گئے لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے اجازت
 نکل سکی۔

لاری شریعت (سندھ) میں عرس کے موقع پر بعض لوگوں نے مشہور کر دیا کہ
 وہاں کے سجادہ نشین جناب احمد زمان نے لاری شریعت میں حج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے
 اس فقرہ کے انسداد کے لئے مولانا پیر ہاشم جان سرہندی نے جسے پہلے مضامین لکھے جو

سہ محمد مسعود احمد، پروفیسر؛ تذکرہ منظر مسعود (میریڈین پبلشنگ کمپنی) ص ۲۰۲-۲۰۳
 سہ احمد یار کانی؛ صحابہ اچھوت کراچی اگست ۱۹۷۳ء ص ۳۶

سندھ کے اخبارات میں شائع ہوئے اور بعد میں کئی صورت میں بھی شائع ہوئے، انہوں
 نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس فقرے پر ہمیشہ کیلئے پابندی عائد کر دی جائے سہ

حضرت پیر ہاشم جان سرہندی کے دل میں ملک پاکستان کی سلامتی، اسلام اور
 مسلمانوں کا بے پناہ درد تھا۔ وہ دشمنان اسلام کے خلاف شمشیر بے نیام تھے۔ جی ایم سید
 ابتداء حضرت خواجہ محمد حسن جان سرہندی کے حلقہ ارادت سے وابستہ تھے۔ جب ان
 کے خیالات تبدیل ہو گئے تو ان سے تعلقات ختم کر لئے۔ ایک دفع پیر ہاشم جان سرہندی
 مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس کے سامنے تلاوت کر رہے تھے کہ سید عبدالسادی اور جی ایم سید
 آپ سے ملنے آگئے۔ آپ نے جی ایم سید کے ساتھ مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا
 اور فرمایا "خدا اور رسول کے خلاف حملوں کی وجہ سے تم سے مجھے نفرت ہے" یہ کہہ
 قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، بعد ازاں اسے پیغام بھیجا کہ آپ سے مجھے ذاتی طور پر
 کوئی عنصرت نہیں سوائے اس کے کہ آپ نے اپنی تحریروں سے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی
 کر دیا ہے۔ اگر آپ اپنی ان کارگزاروں سے تائب ہوں اور مجھے تائب ہونے کی چند سطور
 لکھ کر دیں تاکہ میں نہیں سے سندھ کے اخبارات کو آپ کے تائب ہونے کی خبر پھیلے
 پھر میں آپ سے خود ملنے کے لئے آجاؤں گا۔ اس کے جواب میں جی ایم سید نے کہا کہ
 میں پہلے ہی تائب ہو چکا ہوں سہ

آپ سے پوچھا گیا کہ اس وقت پاکستان مختلف قسم کے فتنوں میں گھرا ہوا ہے، آپ
 کے نزدیک ان میں بڑا فتنہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: یہاں لادینیت سب سے
 بڑا فتنہ ہے، اس کے پرورش کرنے والے شیخ ایاز اور جی ایم سید ہیں، ان لوگوں نے
 اصول دین پر دیکھ حملے کئے ہیں، یہ قادیانیت سے زیادہ خطرناک ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ

سہ محمد یوسف بیٹو، حافظ؛ سندھ کے عظیم پیر ہاشم جان سرہندی سے خصوصی ملاقات (بہشت روزہ اداکار
 لاہور، ۲۰۰۶ء، ۲۶ جولائی، ۱۹۷۵ء، ص ۲۵۔

سہ ایضاً ص ۲۵۔

ہم مسلمان نہیں سندھی ہیں اور نئی لپوکو سندھی کی بنیاد پر منظم کر رہے ہیں، جو بہت ہی خطرناک ہے۔

جون جولائی ۱۹۷۲ء میں جب کراچی اور سندھ میں بعض شہر پسند عناصر نے لسانی جنگا مہم کھڑی کر کے مسلمانوں میں اختلاف و انتشار پیدا کر دیا تو مولانا پیر ہاشم جان نے اپنے تمام ذرائع اس فتنہ کی سرکوبی کے لئے صرف کر دئے، سندھی اور اردو میں لٹریچر شائع کیا، اس سلسلے میں پیر الٹی بخش، سابق وزیر اعلیٰ سندھ ان کے معین و مددگار تھے۔

علماء اہل سنت میں سے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں بریلوی، حضرت مولانا سید محمد محدث کچھوچھوی، صدر انشریعہ مولانا امجد علی عظمیٰ، فقیہ اعظم مولانا محمد شریف (کوٹلی لوہاراں)، حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا سید ابوالبرکات مدظلہ العالی سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ حضرت محدث اعظم کچھوچھوی کی تقریر سے بہت متاثر تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے بارے میں فرمایا:

”فاضل بریلوی (قدس سرہ) نے عظیم کارنامے انجام دئے ہیں وہ اس دور کے عظیم علماء میں شامل ہیں، اگر فاضل بریلوی اپنے دور کے ان فتنوں کا سدباب نہ کرتے اور ان لوگوں کا شدید مقابلہ نہ کرتے تو نہ معلوم آج وہ طرفان کہاں پہنچتا؟“

موسم گرما میں آپ کو کئی نثریعت لے جاتے تھے، پندرہ سولہ سال تک وہاں قرآن پاک کا درس دیا جس میں بڑے بڑے فوجی افسر بھی شریک ہوتے تھے۔

آپ تبلیغ اسلام اور رشد و ہدایت کی مصروفیات کی بنا پر تصنیف و تالیف کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے تاہم بعض تراجم آپ سے یادگار ہیں :-

۱۔ اہل سید الناس کی تصنیف ”قرۃ العیون فی سیرۃ الامین الامون“ کا سندھی ترجمہ (نویسٹر)

۱۔ اہل سید الناس کی تصنیف ”قرۃ العیون فی سیرۃ الامین الامون“ کا سندھی ترجمہ (نویسٹر)

۲۔ اہل سید الناس کی تصنیف ”قرۃ العیون فی سیرۃ الامین الامون“ کا سندھی ترجمہ (نویسٹر)

۲۔ مخدوم محمد ہاشم کی تصنیف ”فرائض الاسلام“ کا ترجمہ۔

۳۔ والد ماجد مولانا محمد حسن جان سرہندی کی تصنیف ”طریق النجاة“ کا اردو ترجمہ۔

ان کے علاوہ والد ماجد کی متعدد دیگر تصانیف کا ترجمہ۔

حضرت مولانا پیر ہاشم جان رحمہ اللہ نے علمائے سندھ اور ان کی تصانیف کے بارے میں وسیع معلومات رکھتے تھے خصوصاً مشائخ خاندان مجذوبیہ کی حالت کا حفظ تھے آپ کا کتب خانہ بہت بڑا تھا۔ انہیں کتابوں سے والہانہ شغف تھا، دور دور سے کتابیں منگواتے، نادریہ کتابوں کی مالیک و فلم یا فوٹو سٹیٹ حاصل کر کے محفوظ کر لیتے، کراچی کے علماء میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے، اپنے غیر آبادی اساتذہ کا بڑی محبت سے ذکر کیا کرتے تھے۔

۲۲ رمضان المبارک ۲۸۸ھ (ستمبر ۱۹۷۵ء/۱۹۷۵ء) کو حضرت پیر ہاشم جان سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئٹہ میں وصال ہوا۔ آپ کی آخری آرام گاہ ٹنڈو وسائیں (سندھ) میں ہے۔

۱۔ اہل سید الناس کی تصنیف ”قرۃ العیون فی سیرۃ الامین الامون“ کا سندھی ترجمہ (نویسٹر)

۲۔ اہل سید الناس کی تصنیف ”قرۃ العیون فی سیرۃ الامین الامون“ کا سندھی ترجمہ (نویسٹر)

۳۔ اہل سید الناس کی تصنیف ”قرۃ العیون فی سیرۃ الامین الامون“ کا سندھی ترجمہ (نویسٹر)

۴۔ اہل سید الناس کی تصنیف ”قرۃ العیون فی سیرۃ الامین الامون“ کا سندھی ترجمہ (نویسٹر)

خطیب سرہیاں حضرت مولانا محمد پارقدس سرہ (گڑھی شریف)

شیخ طریقت حضرت مولانا محمد پارقدس بہ عبدالمجیب الحداد ابن مولانا عبدالکفریم رحمانی
 (تعلیم ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۳ء میں گڑھی فقیارخان ضلع جیم پاران میں پیدا ہوئے، مولانا رحمت اللہ،
 مولانا محمد حیات اور مولانا تاج محمد سے علوم دینیہ کی تحصیل کی اور ۱۹ سال کی عمر میں سند فراغت
 حاصل کر لی حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ (پاچڑال شریف، ضلع ڈیرہ غازیخان) کے دست
 اقدس پر بیعت ہوئے، حضرت خواجہ صاحب کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت
 خواجہ محمد بخش المعروف بہ نازک کریم کی خدمت میں رہ کر دس سال تک کسب فیض کیا اور ان
 کے مدرسہ میں مدرس بنا، ان کے وصال کے بعد ایک زمانہ تک ان کے صاحبزادے حضرت
 خواجہ محمد عین الدین رحمہ اللہ تعلی کی خدمت میں رہے اور اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔
 پھر اپنے وطن گڑھی فقیارخان چلے گئے اور علوم و معارف کے دریا بہا دئے، ۱۳۳۳ھ میں آپ
 حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

مولانا کی تقریر حد درجہ دلکش اور پر سوز ہو کر تھی، مسائل تصوف کو کمال خوبی سے
 بیان کرنا آپ پر ختم تھا، چونکہ صاحب حال تھے اس لئے ان کی گفتگو بے حد مؤثر ہوتی تھی اور
 سننے والوں پر محویت کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ خانپور میں تقریر کے لئے تشریف فرما
 ہوئے اور آغاز تقریر میں فرمایا کہ مخالفین ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صرف اچھی داز کے
 ساتھ وعظ کرتا جانتے ہیں اور کسی چیز سے انہیں سروکار نہیں آج میں خاموش تقریر کروں گا،
 مخالفین میں سے کسی میں سکت ہے تو ایسی تقریر کر دکھائے پھر حاضرین سے فرمایا کہ تمکھیں بند
 چند مرتبہ ذکر کرنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے، پوری محفل پر سنا، چھا گیا، تمام حاضرین تین گھنٹے
 تک چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے رہے، وقت گزرنے کا کسی کو احساس تک نہ ہو سکا۔

مولانا، ایوانیت المریہ، ص ۱۳۶
 مولانا فخر احمد ندووی، مدرسہ مکتب سلج العلوم خانپور

مشہوری مولانا روم کے تو گویا حافظ تھے، خود بھی شعر کہتے تھے، آپ کا کلام نبی اکرم صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے شیخ کی عقیدت و محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اور دیوان محمدی کے نام سے
 طبع ہو چکا ہے، آپ بلبل اور محمد مخلص کہتے تھے۔

۱۲ رجب، ہجری (۱۱۳۶ھ/۱۹۲۷ء) پیر کی رات کو لاہور میں آپ کا وصال ہوا اور حضرت
 میاں میر محمد اللہ تعالیٰ کے احاطہ میں دیوار کے ساتھ بیرونی جانب دفن ہوئے، چھ ماہ بعد آپ کا
 تابوت گڑھی فقیارخان منتقل کیا گیا جہاں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے، پھر سال بڑی محرم و صام
 سے آپ کا عرس منایا جاتا ہے جس میں آپ کے ہزاروں مریدین شرکت کرتے ہیں آپ کے
 صاحبزادے حضرت مولانا محمد غلام نازک بلند پایہ فاضل اور سمادہ نشین ہیں۔

مولانا، ایوانیت المریہ، ص ۱۳۷

حضرت مولانا الحاج محمد یوسف نوشاہی قدس سرہ

مولانا بابا محمد یوسف بن حافظ کرم الہی ۱۳۰۴ھ / ۱۸۸۶ء میں موضع مردانہ ضلع شیخوپورہ میں پیدا ہوئے، آپ کے اجداد میں سے گجرات سے گھر گھر راجپوت، بجاڑہ کے حاکم تھے۔ حضرت اورنگ زیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں علاقہ گجرات میں تھے۔ ان کا نام نواب محمد رحمت اللہ رکھا گیا۔ مولانا محمد یوسف سن شوگر کو پہنچنے کے بعد جب علوم دینیہ سے بہرہ ور ہوئے تو ازراہ انکساریہ مبارکہ "وکلیم باسط ذراعیہ بالوصید" (۱۳۰۴ھ) سے اپنی تاریخ ولادت نکالی۔

سلسلہ عالیہ قادریہ نوشاہی میں حضرت مولانا محمد اعظم نوشاہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت ہوئے اور مجاز ہوئے۔ اپنے سلسلے کے اوردو وظائف پابندی سے ادا کرتے اور ہر ماہ خیر کیا رہوں شریعت کا اہتمام کرتے، حضور سیدنا خورشید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتے تھے، چونکہ بجاڑہ کے حساب سے "بابو" کے عدد گیارہ ہیں اس لئے انہوں نے یہ لفظ اپنے نام کا جزو بنا لیا تھا۔ حصول معاش کے لئے پوسٹل کلرک کے فرائض انجام دیتے رہے۔

ایک مرتبہ انہوں نے ذہنی طور پر حضرت حافظ شیرازی کو مخاطب کرنے ہوئے دیوان حافظ سے قال نکالی کہ آپ کا زمانہ حضرت سیدنا خورشید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مؤخر ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کی توصیف میں کچھ نہیں کہا؟ چنانچہ یہ شعر نکلا

حافظ از معتقدانست، گرامی دارش

زانکہ بختنا کش بس روح مکرم با دوست

"حافظ معتقدین میں سے ہے اس کی عزت کرو کیونکہ بہت ہی مکرم روح کی عنایت

اس کے شامل حال ہے"

مولانا محمد یوسف نوشاہی دو مرتبہ حج و زیارت سے مشرف ہوئے، اسی دوران لغنا و شریعت، کربلا معلیٰ اور نجف اشرف گئے اور بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہو کر استغاثہ

کیا تھا۔

آپ کی تصانیف کے نام یہ ہیں۔

- ۱۔ تہلی بغداد۔
- ۲۔ حسانت اعظم عرف برکات با دوہم۔
- ۳۔ بارہویں نامہ۔
- ۴۔ گیارہویں نامہ۔
- ۵۔ فیضان اعظم ترجمہ نظر تصیوہ امام اعظم۔
- ۶۔ احسان اعظم۔
- ۷۔ عرفان اعظم۔
- ۸۔ ذکر اصحابین۔
- ۹۔ ترجمہ قصیدہ نوشیہ مع چہل کاف۔
- ۱۰۔ علیہ شریعت۔
- ۱۱۔ مساعیت بدرگاہ قاضی الحاجات۔

۲ صفر، یکم مارچ (۱۳۶۰ھ / ۱۹۴۱ء) ۵۶ سال کی عمر میں مولانا بابا محمد یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، مزار شریعت موضع مردانہ تحصیل فیروزوالہ ضلع شیخوپورہ میں ہے۔

دادہ تاریخ وفات یہ ہے:

"مغفور آداب گاہ"

مولانا حکیم نذیر حسین آپ کے سجادہ نشین ہیں لہ

۱۔ شریعت احمد شرافت نوشاہی، مولانا، شریعت اتوار بج (دہلی)

مولانا تقی احمد خان میکش رحمت اللہ تعالیٰ

مولانا تقی احمد خان میکش دہلوی، جن کا تعلق افغانستان سے ہے، آپ کے والد بزرگوار سے حاصل کی، بعد ازاں جہانگیر کے سکول میں پڑھتے رہے پھر اعلیٰ تعلیم کے لئے لاہور کے کالج میں داخلہ لیا اور دو سال تک مصروف تحصیل رہے۔ ۱۹۲۰ء میں تحریک آزادی کی خاطر کالج کو خیر باد کہہ کر کابل چلے گئے اور ایک سال بعد واپس لاہور آگئے اور ۱۹۲۲ء سے ۱۹۵۵ء تک مختلف روزناموں میں ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا، علمی ادبی اور آزادی کی تحریکوں میں منہایت سرگرمی سے حصہ لیتے رہے، ہفت روزہ افغانستان (جو فارسی میں شائع ہوتا تھا) میں انگریزی استعمار کے خلاف مقالات لکھنے کی بنا پر ۱۹۳۱ء میں ایک سال تک جیل میں رہے لیکن جیل سے واپس آنے پر بھی ان کی ادبی و سیاسی دلچسپی میں کوئی فرق نہ آیا مولانا میکش نے لاہور سے نکلنے والے روزناموں مثلاً زمیندار، احسا، شہباز، مغربی پاکستان اور نوائے پاکستان میں رئیس التحریر کی حیثیت سے کام کیا، انہوں نے صحافتی فرائض انجام دینے کے ضمن میں تنہا ساڈگا پورا، ملایا اور برما کا سفر کیا ہے

مولانا میکش نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی، بعد ازاں جہانگیر کے سکول میں پڑھتے رہے پھر اعلیٰ تعلیم کے لئے لاہور کے کالج میں داخلہ لیا اور دو سال تک مصروف تحصیل رہے۔ ۱۹۲۰ء میں تحریک آزادی کی خاطر کالج کو خیر باد کہہ کر کابل چلے گئے اور ایک سال بعد واپس لاہور آگئے اور ۱۹۲۲ء سے ۱۹۵۵ء تک مختلف روزناموں میں ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا، علمی ادبی اور آزادی کی تحریکوں میں منہایت سرگرمی سے حصہ لیتے رہے، ہفت روزہ افغانستان (جو فارسی میں شائع ہوتا تھا) میں انگریزی استعمار کے خلاف مقالات لکھنے کی بنا پر ۱۹۳۱ء میں ایک سال تک جیل میں رہے لیکن جیل سے واپس آنے پر بھی ان کی ادبی و سیاسی دلچسپی میں کوئی فرق نہ آیا مولانا میکش نے لاہور سے نکلنے والے روزناموں مثلاً زمیندار، احسا، شہباز، مغربی پاکستان اور نوائے پاکستان میں رئیس التحریر کی حیثیت سے کام کیا، انہوں نے صحافتی فرائض انجام دینے کے ضمن میں تنہا ساڈگا پورا، ملایا اور برما کا سفر کیا ہے

مولانا میکش اپنے دور کے نامور اور ہیک صحافی تھے، شیخ اسماعیل بانی چی (انجمنی) لکھتے ہیں۔

لکھتے ہیں۔

"اپنے زمانے میں لاہور کی صحافت میں ان کا طوطی بولتا تھا" اسے
 آپ نے زندگی کے آخری ایام بڑی مسرت میں گزارے مگر عزم و استقلال میں فرق نہ آیا
 حضرت حافظ مظہر الدین مدظلہ فرماتے ہیں۔

"مولانا تقی احمد خان میکش نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مجھ سے
 فرمایا تھا کہ ایک دن میں اپنی زندگی کی ناہوار یوں سے تنگ اگر پریشان چھٹا
 تھا کہ خضر آئے اور مجھے تسکین دے کر چلے گئے"۔

مولانا میکش مایہ ناز صحافی، بلند پایہ ادیب، ملت اسلامیہ کے بے باک ترجمان و تحریک
 آزادی کے سرگرم رکن تھے، جمعیتہ العلماء پاکستان کے مشیر قانونی اور قائمہ تحریک ختم نبوت مولانا
 ابوالحسن قادری کے رفیق خاص تھے۔ ۱۹۴۶ء میں جب بنارس میں آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد
 ہوئی تو مولانا ابوالحسنات خاص طور پر آپ کو اپنے ساتھ لے گئے وہاں مولانا میکش خصوصی اجلاس
 میں شرکت ہوئے اور متعدد قراردادیں پیش کیں جو اتفاق رائے سے منظور کی گئیں تھے
 مولانا میکش قادر الکلام شاعر تھے، مادری زبان فارسی ہونے کی وجہ سے آپ کا اکثر کلام
 فارسی میں ہے، آپ نے متعدد کتابیں بھی لکھیں جن میں سے صبح ذیل طبع ہو چکی ہیں۔

۱. الہامی فلسفے
 ۲. امیر دشمن گز عرف مرزائی نامہ
 ۳. اخراج اسلام از ہند
 ۴. تقدیر و تدبیر
 ۵. تاریخ اقوام عالم (دو جلد)
 ۶. تاریخ اسلام (چار جلد)
 ۷. اسلام اور معاشی اصلاحات
 ۸. دو دول (مجموعہ کلام اردو و پنج گانہ فارسی)
- تقریباً ۲۷ جولائی (۱۹۵۹ء/۱۳۴۰ھ) کو مست شرب الہست ہو کر راجہی دار آخرت ہوئے تھے۔

۱۔ لغزش لاہور نمبر ۱ ص ۹۲۹
 ۲۔ نوائے وقت، لاہور، ۲۳ اپریل ۱۹۷۵ء
 ۳۔ ہدایت بخوشی، لاہور، ۱۹۷۵ء
 ۴۔ سب سے پہلے، لاہور، ۱۹۷۵ء
 ۵۔ لغزش لاہور نمبر ۱ ص ۹۲۹

استاذ العلماء مولانا مفتی سید مسعود علی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ

حضرت علامہ مفتی سید مسعود علی قادری بن حافظ سید احمد علی بن سید قاسم علی بن سید ہاشم علی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) ۱۳۲۴ھ / ۱۹۰۹ء میں علی گڑھ کی ایک ریاست بوڑھا گاؤں میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم ماہرہ موضع میں پائی۔ ۱۹۱۹ء میں مدرسہ تحفہ جامع مسجد علی گڑھ میں مولانا عبدالرحمن سے عربی کی تعلیم شروع کی ۱۹۲۱ء میں نواب بوکچرخاں کے قائم کردہ مدرسہ عربیہ قادریہ ادول ضلع علی گڑھ میں داخلہ دیا اور مولانا وجیہ الدین احمد خاں رامپوری، مولانا نعمانی اور ستاری محی الدین ایسے فاضل اساتذہ سے اکتسابِ علم و فضل کیا۔ ۱۹۲۸ء تا ۱۹۳۱ء مدرسہ عالمیہ رامپور میں تعلیم حاصل کی، دیگر اساتذہ کے علاوہ مولانا فضل حق رامپوری اور ان کے فرزند گرامی مولانا افضل الحق رامپوری سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ مفتی صاحب تحصیل علوم کے نام نہ منّت، ذہانت، خوش اخلاقی اور خود داری میں اپنے ساتھیوں میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔

۱۹۲۲ء میں حضرت علامہ مولانا وجیہ الدین کے ایما پر مدرسہ نعمانیہ دہلی میں فرائض قرآنِ مجید میں شروع کئے۔ ۱۹۳۴ء میں مدرسہ عالیہ قادریہ بدایوں میں مسند تدریس و افتاء پر فائز ہوئے اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ کا انتظام بھی آپ کے سپرد تھا۔ ۱۹۴۱ء میں مدرسہ عربیہ قادریہ بدایوں تشریف لے گئے اور تقریباً ۱۹۵۰ء تک تدریس و افتاء اور انتظام مدرسہ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ۱۹۵۱ء میں مدرسہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان میں تشریف لائے اور ۱۹۶۰ء تک تدریس و افتاء اور نائب مہتمم کے فرائض انجام دیتے رہے، اس دوران آپ کی مساعی جمیلہ سے مدرسہ انوار العلوم نے نمایاں ترقی کی۔

۱۹۶۰ء میں آپ کے عارضہ ذیابیطس میں اضافہ ہو گیا اور ساتھ ہی عارضہ قلب بھی لاحق ہو گیا، پھر آپ کے بڑے صاحبزادے اہل سنت کے ویاک ترجمان مولانا سید سعادت علی قادری تبلیغ کے لئے سری نام جنوبی امریکہ چلے گئے، ان حالات میں آپ اپنے

صاحبزادے مولانا مفتی سید شہامت علی قادری کی گزارش پر بیچ اہل و عیال کراچی چلے گئے اور اسلام آباد میں تدریس و افتاء کا کام شروع کر دیا اور جامع مسجد قضاہاں صدر میں خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔

حضرت مفتی صاحب سلسلہ عالمیہ قادریہ میں اپنے استاذ مولانا وجیہ الدین احمد خاں کے پیر بھکھن میاں بریلوی مدظلہ العالی کے مرید اور خلیفہ مجاز تھے لیکن آپ نے بہت کم لوگوں کو بیعت کیا۔ آپ نے تقریباً ۴۵ سال تک جمہور علوم دینیہ کا درس دیا، اس طویل عرصے میں بے شمار علماء و فضلاء نے آپ سے کسب فیض کیا۔ حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمۃ ابتدا ہی سے جمعیتہ علماء پاکستان کے ساتھ وابستہ رہے اور تمام عمل سنت و جماعت کی تنظیم کے لئے سرگرم عمل رہے۔ آپ کی اولاد میں سے چار صاحبزادیاں اور پانچ صاحبزادے آپ سے یادگار ہیں صاحبزادگان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

۱. مولانا سید سعادت علی قادری مدظلہ العالی۔
۲. مولانا سید مفتی شہامت علی قادری مدظلہ العالی ناظم علی جامعہ نعیمیہ کراچی، ترجمان اہلسنت کراچی دیکچرائیا گورنمنٹ کالج کراچی۔
۳. سید طارق علی ایم۔ اے (اکن کس)، جنگ کراچی
۴. سید خوشنود علی قادری
۵. سید عقیق علی۔

مفتی صاحب کا یہ کچھ معمولی کا زمانہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے صاحبزادوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا بلکہ دنیاوی تعلیم سے بھی بہرہ ور کیا۔ اس وقت آپ کے صاحبزادے دو بیٹے اور مسکب اہل سنت و جماعت کی گرانقدر خدمات انجام دے رہے ہیں خدا کرے کہ مفتی صاحب کا یہ صدقہ جاریہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے۔

۵. مرحوم الخیرام، ۹ فروری (۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳ء) کو نماز جمعہ پڑھائی، حسب معمول تقریر کی اور عجاذ جمعہ کھانا سنت اول فرمایا، کچھ دیر بعد دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا، تقریباً پانچ بجکر بارہ منٹ پر آپ کی روح نقسِ عنصری سے فرودس بریں کی جانب پرواز کر گئی، انا اللہ

وانا امیر راجپوتوں سے آپ کے وصال کی خبر سے پرے ملک کی علمی نفسان پر ناقابل بیان غم و اندوہ طاری ہو گیا اور ہر شخص آپ کی وفات پر دعا گو اور حسرت کنان تھا جناب جامی مارہروی نے درج ذیل قطعہ تاریخ وصال لکھا ہے۔

ہوئے رخصت جہاں مفتی مسعود علی سید جو تھے ک عالم دین رہنا تھے اہست بھی
 خدا کی حمد بے پر عشق پاک مصطفیٰ دل میں وہی پیش نظر ہر دم شریعت بھی طریقت بھی
 صلے میں عشق احمد کا انیس فی سنی غرضی مثنوی سیادت بھی اہست بھی مساد بھی شجاعت بھی
 مشیت تھی مجرم کے مینے میں اسل آئی کسی صورت کو کام آئی گیا جذبہ شہادت بھی
 کہا ہائے جامی زینت فخر ہیں وہ
 یہی قلبِ خلش سے ہو گئی تاریخِ رخصت بھی سنہ

لے شہادت علی قادری مدوہ ناسید : ترجمانِ اہلسنت کراچی ۱۹۷۳ء ص ۱۸-۲۰
 لے جامی مارہروی : ص ۳۱

مولانا مشیت اللہ قادری قدس سرہ

حضرت مولانا مشیت اللہ قادری ابن مولانا رحیم بخش قادری ابن مولانا حکیم سعید اللہ قادری ابن اشرف اعجاز مولانا حافظ حکیم عظیم اللہ قادری (رحمہم اللہ تعالیٰ) اپنے وطن اور ت آؤدہ (منبع بریلی، یو پی) میں ۱۳۰۶ھ/۱۸۸۹ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم خلیفہ ضیاء علی محلے اصل کی فارسی کی کتابیں اپنے والد ماجد مولوی رحیم بخش اور مولوی اسماعیل سے پڑھیں عربی کتب و تصنیفات لکھنے اپنے جراحید مولانا حکیم سعید اللہ قادری سے پڑھیں پھر کچھ کتابیں مولانا سعید مہراج الدین شاہ جاما پوری سے پڑھیں، مولانا مفتی حافظ بخش بدایونی قدس سرہ سے تکمیل کی۔

ہندی فنی جو کھال سے سبقتاً پڑھی اور بعض دیگر فنون بھی حاصل کئے۔ فنِ شہسوار ی میں کمال رکھتے تھے، تاریخ و ادب کے ماہر تھے خاص طور پر تاریخ و ذہل کھنڈ پر وسیع نظر رکھتے تھے، انساب و رجال کے حافظ تھے، ہندوستان کے تاریخی مقامات کو دیکھنا اور کار کا بر علماء سے ملنا ان کا محبوب مشغلہ تھا، مولانا عبدالماجد بدایونی سے مخصوصہ تعلقات تھے۔ ۱۹۲۶ء سے ۱۹۳۳ء تک ممبئی میں مقیم رہے، اس دوران افغانیوں کا رد بلوچ کیا پھر ۱۹۳۵ء سے ۱۹۳۷ء تک دہلی میں رہے پھر اودھ میں رہے اور پوری سرگرمی سے تبلیغ کی جس کے نتیجے میں بہت سے غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔

مولانا مشیت اللہ قادری رحمہم اللہ تعالیٰ تحریک پاکستان کے زبردست مؤید تھے ۱۹۵۰ء میں ہجرت کر کے دادو (سندھ) آگئے اور ۲۱ ربیع الثانی، ۲۵ اکتوبر (۱۳۷۹ھ) / ۱۹۵۹ء بروز یکشنبہ ایڑی دارِ آخرت ہوئے۔ آپ سے تاریخ انساب اور بعض رسائل و رسائل کی یاد دہی میں، یادگار ہیں لے پروفیسر محمد یونس قادری اور حافظ نعمت اللہ امرتسری اور سعید اچھے صاحبزادوں میں افسوس کہ ۲۳ نومبر ۱۹۸۳ء کو پروفیسر صاحب ایکسٹنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ گزشتہ سال ان کی کوششوں سے کراچی میں یومِ رضا شاذار طریقے سے منایا گیا تھا۔ اس سال بھی وہ انہی کوششوں میں مصروف تھے کہ بلاوا آ گیا۔

حضرت مولانا مفتی محمد مظفر احمد ابن مولانا مفتی محمد مظفر اللہ ابن مفتی محمد سعید ابن مفتی محمد مسعود (علیہم الرحمۃ) تقریباً ۱۳۲۸ھ/۱۹۱۰ء میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ قاری فضل الدین مدرس مدرسہ عالیہ مسجد جامع فتحپوری، دہلی سے قرآن مجید حفظ کیا اور علم تجوید و فرائض حاصل کیا۔ ماہ رمضان المبارک میں مسجد فتحپوری میں سالانہ قسراں پاک سنایا۔

علوم دینیہ کی ابتدائی تعلیم والد ماجد حضرت مفتی اعظم شاہ محمد مظفر اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۱۳۸۶ھ/۱۹۶۶ء) سے حاصل کی، اس کے بعد تقریباً ۱۳۲۶ھ/۱۹۴۶ء میں مدرسہ عالیہ مسجد فتحپوری، دہلی میں چوتھے درجے میں داخل ہوئے اور اٹھویں درجے تک (جو درجہ تکمیل تکفہ تعلیم حاصل کی، ۵۰ ذوالحجہ ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء) کو فارغ التحصیل ہوئے اور سند حاصل کی۔ بعد ازاں علوم طب کی طرف متوجہ ہوئے اور حکیم جمیل الدین (استاذ حکیم اجل خاں) سے شرح موجز، شرح اسباب اور حمایت القانون پڑھیں اور جمادی الاخریٰ ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء کو سند حاصل کی، اس کے بعد کچھ عرصہ تک حکیم محمد ظفر خاں (برادر کمال حکیم محمد اجل خاں) کے مطب میں عملی تجربہ کیا، علوم عقلیہ و نقلیہ اور طب کی تحصیل کے بعد شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خانوادہ میں مفتی صاحب کا عقیدہ مستنون ہو گیا۔

حضرت مفتی صاحب نے زمانہ تحصیل میں تقریباً ۱۳۲۲ھ/۱۹۲۵ء سے مسجد جامع فتحپوری، دہلی میں نائب امام کی حیثیت سے اپنے فرائض سنبھالے، آپ کے والد ماجد حضرت مفتی اعظم شاہ محمد مظفر اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ شاہی امام تھے جب آپ تحصیل علم سے فارغ ہو گئے تو فتویٰ نویسی کی ذمہ داری بھی آپ کے سپرد کی گئی چنانچہ تقریباً ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء سے ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء تک باہر ۳۹ سال تک یہ فرائض کمال خوبی سے انجام دیتے رہے۔

آپ کے فتاویٰ باقاعدگی سے جمع کئے جاتے تو کسی ضخیم جلدات مرتب ہو جاتیں۔

مفتی صاحب نے علوم باطنی میں مولانا شاہ رکن الدین لوری رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء) خلیفہ حضرت مفتی محمد مسعود رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۱۳۰۹ھ) سے استفادہ کیا اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ ۱۳۶۸ھ/۱۹۴۸ء میں حضرت ضیاء معصوم رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے آغا جان علیہ الرحمہ نے سلاسل اربعہ میں اجازت و خلافت عطا فرمائی، آپ کے والد ماجد نے بھی اجازت و خلافت سے نوازا۔

۱۹۴۷ء تک دہلی میں امامت اور افتاء کے فرائض بحسن و خوبی انجام دیتے رہے مسلم لیگ میں شامل ہو کر تحریک پاکستان کے لئے گرانقدر خدمات انجام دیں۔ ۱۹۴۷ء میں کراچی تشریف لے آئے۔ ابتدائے جامع مسجد آرام باغ کراچی اور جناح مسجد وغیرہ میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے بعد ازاں گوشہ نشینی اختیار کر لی اور فتویٰ نویسی، تصویب نویسی اور طبابت میں مشغول رہے۔

آپ کی تصانیف میں سے چند رسائل یہ ہیں۔

- ۱۔ الدعاء للعباد والعباد للعباد
- ۲۔ الجہاد
- ۳۔ عقائد و اعمال
- ۴۔ شمشیر صداقت وغیرہ وغیرہ

۱۹۳۶ء سے قبل "الارشاد" وغیرہ رسائل میں آپ کے مضامین شائع ہوتے رہے۔ آپ بڑے خود دار اور غیور تھے، جس کوئی اور بے اکی آپ کے مزاج کے نمایاں اوصاف تھے، تحریک ختم نبوت میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں مگر حاکم وقت کے آگے نہ جھکے، تبلیغ و شاعت دین میں نمایاں کردار ادا کیا، آپ کے دست اقدس پر بے شمار غیر مسلم شرف حاصل ہوئے۔

آخر عمر میں عارضۂ قلب لاحق ہو گیا، ۲ دسمبر، ۱۷ شوال (۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء) کو پاک بھارت جنگ کے دوران نماز تہجد پڑھ کر مستقر لیت گئے، تسبیح ہاتھ میں تھی اور

پڑھتے پڑھتے جہاں جہاں آخریں کے سپرد کر دی، مولانا سید شریف احمد شرافت نوشاہی مظلم
نے تاریخ وفات کہی جس کا تاریخی شعر یہ ہے

شرافت زسابل وصالش بگفت

دلی ولایت بخیلہ میری

حضرت مفتی صاحب کے تین صاحبزادے حافظ قاری محمد ظفر احمد، حافظ محمد انور احمد،
حکیم محمد نذیر احمد، نظام العالی اور پانچ صاحبزادیاں ہوئیں، ایک صاحبزادی عالم شہاب میں
انتقال کر گئیں، جناب ڈاکٹر محمد سعید احمد مظلم پرنسپل گورنمنٹ کالج مظلمی ضلع مظفر آباد (مظلم)
حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے برادر گرامی ہیں اور علم و ادب کی دنیا میں بلند
مقام رکھتے ہیں۔

سہ مہر سعید احمد، پرنسپل، دہنار زمین، اہل سنت کراچی (فردی ۱۹۶۳)

نوٹ: حضرت مفتی صاحب اور آپ کے خاندان کے تفصیلی حالات کے لئے ملاحظہ ہو "سیرت مولانا سعید احمد" مولانا
پروفیسر محمد سعید احمد مظلم، شائع کردہ مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی (مطبوعہ ۱۹۶۹)

قدوة السالکین حضرت خواجہ معظم دین مرلوی قدس سرہ العزیز

شیخ المشائخ حضرت خواجہ معظم دین مرلوی قدس سرہ العزیز ۱۲۴۴ھ/۱۸۳۲ء
میں تحصیل بھلوال کے ایک گاؤں مرولہ میں پیدا ہوئے جسے بعد میں آپ کی فضیلت و شرافت کی
نسبت سے مرولہ شریف کہا جانے لگا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، قرآن کریم تجویداً حفظ کیا،
تیرہ سال کی عمر میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ عنہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے
پھر تحصیل علم کے بعد کچھ عرصہ لاہور اور زیادہ عرصہ بمبئی میں قیام کیا، وہاں سے علوم متداولہ کی
تحصیل و تکمیل کی علی اسند نے کئی زیارات مقدسہ اور سیاحت عالم کے لئے روانہ ہوئے۔
ترکی میں علماء سے علمی مباحث میں شریک ہوئے۔ ترکی کے علماء آپ کی جلاست علمی سے بچہ
مناظر ہوئے اور حکومت وقت کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا چنانچہ سرکاری طور پر ایک باوقار
تقریب میں آپ کو حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب و اعزاز دی ڈگری پیش
کی گئی۔

دور طالب علمی میں آپ سخت ریاضت و مجاہدہ میں مصروف رہے، دن کو تحصیل
علم میں اور رات کو یاد خدا و ندبی میں اس طرح مصروف رہتے کہ کسی کوئی دن سوئے بغیر گزار دیتے
برصغیر کی نامور اہل علم و عرفان ہستیوں سے ظاہری و باطنی برکات کا استفادہ کرتے رہے تکمیل
علوم کے بعد سالہا سال تک سیر و سیاحت میں ظاہر قدرت کا نظارہ کرتے رہے اور علم و معرفت
کے اسرار و رموز سے بہرہ ور ہوتے رہے۔ ایک عرصہ بعد پھر اپنے شیخ و مرشد کی بارگاہ اقدس
میں سیال شریف حاضر ہوئے، چودہ سال اور چار ماہ کے طویل عرصہ تک اس جانفشانی سے
خدمت بجالاتے رہے کہ قابل تقلید مثال بن گئی۔

جب آپ کا ظاہر و باطن انوار الہی سے معمور ہو گیا تو حضرت خواجہ شمس العارفین
سیالوی قدس سرہ عزیز نے آپ کو خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا، رفتہ رفتہ آپ کے
گرد و خلق خد کا جہوم ہونے لگا۔ صوبہ پنجاب اور سرحد کے تقریباً تین ہزار افراد آپ کے

حلقہ ارادت میں داخل ہو کر محبتِ الہی کی لازوال نعمت سے مشرک ہوئے حضرت خواجہ صاحب نے حکومتِ انگریز کے ظلم و ستم اور بڑھتے ہوئے استعمار کے خلاف مسلمانوں کے دینی، سیاسی، ثقافتی اور ذہنی انحطاط کو دور کرنے کی خاطر اپنی تمام تر توجہات وقف کر دیں اور اپنے تمام کامیابیوں کو مسائلِ حرفت کے مسلمانوں میں حیاتِ نو کا جذبہ بیدار کیا۔

حضرت خواجہ صاحب روحِ فقر سے پوری طرح آشنا تھے۔ آپ کے نزدیک قالب کی بجائے قلب کی اصلاح و تربیت اولین حیثیت رکھتی تھی کیونکہ دل پورے جسم پر حکمرانی کرتا ہے جب دل کی صحیح طور پر اصلاح ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ظاہر اسلامی سانچے میں نہ داخل جائے آپ کی رائے یہ تھی کہ جو امیں اٹانایا پانی پھینا فقر نہیں ہے، فقر یہ ہے کہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے آراستہ ہو اور باطن علم و عقل اور عشق سے منور ہو اور دل کسی وقت بھی یادِ الہی سے غافل نہ ہو یہی وجہ تھی کہ آپ کرامتِ نمائی کو پسندیدہ نظر سے نہ دیکھتے تھے۔ آپ اس بات کے قائل تھے کہ فقر اس وقت تک درجہ کمال کو نہیں پہنچتا جب تک ساکب علم شریعت میں پوری دستگاہ نہ رکھتا ہو، شریعتِ مطہرہ کی انتہائی پابندی ہی فقر کی بنیاد ہے اس معیار پر اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ کے درجہ ولایت پر فائز ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

حضرت خواجہ صاحب کی قائم کردہ خانقاہ ایک صدی سے رشتہ و ہدایت کا مرکز ہے آپ کے پوتے موجودہ سجادہ نشین حضرت خواجہ غلام سدید الدین مدظلہ العالی صاحبِ علم و فضل بزرگ ہیں انہوں نے خیر و برکت کی منظم اشاعت کے ساتھ ساتھ دورِ حاضر کے ذہنی تشنگی اور سماجی مسائل کو حل کرنے کے لئے متوسلین خانقاہ پر مشتمل ایک فلاحی و رفاہی انجمنِ معنوی جماعت کے نام سے قائم کر دی ہے جو حضرت خواجہ معظم دین کی علمی و روحانی میراث اور خدمتِ خلق کے سماجی مشن کو پیک میں عام کرنے کے لئے مؤثر خدمات انجام دے رہی ہے۔

حضرت خواجہ معظم دین مرواوی قدس سرہ کے علاوہ مقام کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کے شیخ و مرشد حضرت خواجہ شمس العارفین قدس سرہ کا ارشاد پیش کر دینا ہی کافی

ہے، فرماتے ہیں:

مرواوی معظم دین مرواوی مرد سے عالی ہمت است کہ حافظِ قرآن و تحصیلِ علوم تمام نموده، حج حرمین شریفین بجا آورده بیادِ الہی مشغول است و ہم حبتِ زمان تا ہنوز در دل او نیامده، سہ

حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ۱۱ جمادی الاولیٰ (۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء) کو

ہوا آپ کا مرقبہ انور مرد شریف (تحصیل بھلول) میں مرجعِ غلامت ہے سہ

سہ مآذہ اشقین : ص ۱۲۹

سہ مکتوب گرامر محکم پر فیضِ غلام نظام الدین، زید علیہ الرحمہ کالج بھلول، ضلع سرگودھا، بنام باقر العروت

شیخ طریقت حضرت مولانا حافظ سید مغفور قادری قدس سرہ

حضرت مجاہد ملت شیخ طریقت مولانا سید مغفور قادری ابن حضرت سید سوار احمد قدس سرہ (۱۳۲۶ھ/۱۹۰۸ء) میں گواھی امتیاز حاصل فرمایا۔ والد گرامی نے تاریخی نام مغفور (۱۳۲۶ھ) تجویز فرمایا۔ پچیس ہی میں والدہ ماجدہ دارغ مفارقت دے گئیں۔ نو سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ابتدائی کتابیں مولانا مفتی محمد حیات گڑھی والے اور جامع معقول و منقول مولانا عبدالکرم ہزاروی نے پڑھیں۔ اس کے بعد مدرسہ شمس العلوم بستی مولویاں ضلع رحیم یار خاں میں تکمیل فرمائی۔ حضرت سراج الفقہاء مولانا سراج احمد مکھن بیلوی قدس سرہ سے بھی مستفیض ہوئے۔ تقریباً بائیس برس کی عمر میں تمام علوم سے ذہانت حاصل کر لی اور شیخ اعظم قلبی مال حافظ محمد عبداللہ بھٹو نے بیعت ہو گئے۔ مرشد کامل نے اپنے بچوں کی طرح تربیت فرمائی۔

تعلیم سے فارغ ہو کر بھرچوڑی شریعت کے قدیمی دارالعلوم میں مسند درس و افتاء پر فائز ہوئے۔ جہاں سے سندھا اور بیرون سندھ کے سینکڑوں طلباء مستفیض ہوئے۔ حضرت پیر عبدالرحمن بھرچوڑی قدس سرہ کی معیت میں سندھ کے چھپے چھپے کے دورے کئے، تقریریں اور مناظرے کئے، ہزاروں مسائل کے جوابات تحریر فرمائے۔ حضرت مغفور قادری تحریک پاکستان سے قیام پاکستان اور پھر پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی مملکت بنانے کی ہر تحریک میں پیش پیش رہے۔ حضرت پیر عبدالرحمن بھرچوڑی رحمہ اللہ نے کی معیت میں جماعت احیاء اسلام قائم کی، دو قومی نظریے کی بھرپور تائید کی اور کانگریس کا تسلیم توڑ کر رکھ دیا۔ شکار پور سندھ سے ایک اخبار الجہاد جاری کیا اور جسے جگہ جگہ کر کے رائے عامہ کو مسلح ایک کے حق میں ہموار کیا۔

۱۹۴۶ء میں سندھ کے نمائندہ کی حیثیت سے ایک سوافاد کے ہمراہ آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس ہونے میں شرکت کی اور کانفرنس کی خصوصی میٹنگوں میں شریک ہوئے۔ اسی دوران اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بیلوی قدس سرہ کے مزار پر بھی حاضر ہوئے۔ حضرت مغفور قادری سرور دو عالم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے پوری طرح مرشاد تھے۔ آپ نے مسک اہل سنت و جماعت کی ناقابل فراموش خدمات انجام دیں لیکن اس کا کیا علاج کروا کر فراموشی جگہ خود فراموش قوم کے ممتاز رہنما۔ مولانا سحر بیان خطیب اردو اور سرسینکی کے بلند پایہ شاعر اور اردو میں منفرد طرز تکویر کے مالک تھے۔ مندرجہ ذیل کتب آپ کی یادگار ہیں:-

- ۱۔ عباد الرحمن مشائخ بھرچوڑی شریعت کا تذکرہ۔
- ۲۔ تنزیہ العینین فی تقبیل الایمان (غیر مطبوعہ)

- ۳۔ الرسول نبی عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و منصب کی عالمانہ تشریح۔
- ۴۔ کلام مغفور عربی، فارسی، اردو اور سرسینکی کلام وغیرہ وغیرہ

۵۔ صفر مظفر ۱۲ اپریل (۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء) بروز اتوار یہ عظیم انسان کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات کا دروگر بناؤ۔ آغوش رحمت میں چلا گیا۔ حضرت مولانا سید شریعت احمد شرافت نوشاہی مدظلہ سجادہ نشین سابقین ہاں شریعت (گجرات) نے قطعہ تاریخ کہا جس کا تاریخی شعر یہ ہے:-

شرافت چو پر سند سالِ ہصال بگڑا ہدیٰ عصر توشہ

آپ کے فرزند ابوجہند جناب سید محمد فاروق قادری زید محمد ایم اے سجادہ نشین گڑھی امتیاز خاں ضلع رحیم یار خاں اپنے والد ماجد کے صحیح حاشیوں اور نامور اہل قلم ہیں۔ انھیں انھیں اور فتوح الغیب وغیرہ کتب کے شاندار تراجم ان کی بہترین صلاحیتوں کے اعلیٰ دار ہیں۔ خاص طور پر انھیں انھیں کا مقدمہ قابل مطالعہ ہے۔

۱۔ بھرچوڑی، امرتسری، بھیر، ڈاکٹر مغفور (مکتبہ سرواہ، گجرات، ادب چھپکے، لاہور، ۱۳۹۲ھ) ص ۲-۱۷

پر حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مقبول الرسول قدس سرہ (ﷺ)

پر حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مقبول الرسول ابن حضرت خواجه عبدالرسول نقی قدس سرہ
 ۱۹۰۲/۱۳۲۲ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کے مورث اعلیٰ حضرت خواجه غلام نبی نقی خلیفہ حضرت
 مولانا غلام محی الدین قصوری دائم الحضور اپنے دور کے مقتدر عالم دین اور بلند پایہ شیخ طریقت
 تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت خواجه عبدالرسول صاحب کو حضرت خواجه غلام حسن (دعویٰ خلیفہ جہلم)
 خلیفہ اعظم حضرت خواجه غلام نبی رحمہما اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور فرمایا: "ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے
 رخصت ہو جائیں اور ان کی تعلیم و تربیت دھوری رہ جائے لہذا آپ انہیں باطنی علوم و
 فیوض سے نوازیں؟" کچھ دن بعد ہی حضرت خواجه عبدالرسول رحمہما اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا حضرت
 خواجه غلام حسن رحمہما اللہ تعالیٰ نے پوری توجہ سے خواجه محمد مقبول الرسول کی تربیت فرمائی اور رسول
 کا کام سببوں میں مکمل فرمادیا۔ خواجه صاحب اردو اور فارسی پر کامل عبور رکھتے تھے، دونوں زبانوں
 میں بلا تکلف تحریر و تقریر فرماتے۔

حضرت خواجه محمد مقبول الرسول بڑے فطین، لہذا اور سادگی پسند تھے۔ علماء کی تعظیم،
 فرہار سے محبت اور امر آجے نیازی آپ کے امتیازی اوصاف تھے، تواضع و انکسار کے پیکر تھے،
 متعلقین کو بھی یہی درس دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا کہ سائیکس کس فعل یا عمل سے
 جلد منزل مراد تک پہنچ سکتا ہے، فرمایا:

بچے آٹکے برخواستن میں مباحش

دگر آٹکے بر غیر بد میں مباحش

کوئی کیفیت مند خوئی اور اخلاص سے تھکے پیش کرتا تو قبول فرمایا۔ وردہ قیمت دے
 بغیر لیا پسند فرماتے۔ اتباع سنت مبارکہ کی پوری سعی فرماتے اور متبعین کو بھی سنت مطہرہ
 پر عمل پیر ہونے کی تلقین فرماتے۔

قیام پاکستان کی تحریک میں کاروائی نمایاں انجام دے مسلم لیگ کے نمائندوں

کا کامیاب کرنے کے لئے زبانی درخطوط کے ذریعے رغبت دلاتے رہے، اگر کسی مرتد نے
 مخالفت میں مخالفت پارتی کو ووٹ دیا تو اس پر سخت ناراض ہوئے۔ برصغیر کی تقسیم سے پہلے
 آپ نے میان کابل دین کو بلایا اور فرمایا: "قائد اعظم آزاد دینی ملک کی خاطر اپنے آرام کو چھوڑ کر
 ظاہری کوشش میں مصروف ہیں، ہمیں چاہئے کہ باطنی طور پر کوشش کریں لہذا تم ہر روز روزہ پک
 مستفاد، لا حول و لا قوۃ اور یا حییٰ یا قیوم تین تین ہزار بار اور سورہ منزل چالیس بار پڑھ کر
 آزادی کے لئے دعا کیا کرو۔" میان کابل دین نے ایک سال تک یہ عمل جاری رکھا، بعد ازاں
 آپ نے انہیں ایک خط لکھا کہ پاکستان کی بنیاد تحت لشری ملک چلی گئی ہے، اس خط کے
 ایک ماہ بعد پاکستان کا اعلان ہو گیا جس سے آپ بہت مسرور ہوئے لیکن ابھی چند ماہ
 ہی گزرنے پائے تھے کہ قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، ہندوستان نے کشمیر پر بھاری حملہ کر دیا،
 اور حیدرآباد پر ہندوستان کا تسلط ہو گیا۔ ان تمام واقعات سے آپ بڑے مغموم اور پریشان
 ہوئے لیکن یہ بات باعث اطمینان تھی کہ یہ واقعات مسلمانوں کے لئے تازہ یاد عبرت ہیں،
 چنانچہ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

"قائد اعظم صاحب کے انتقال سے جو مسلمانان پاکستان و مسلمانان

عالم کو رنج و الم ہوا وہ محتاج بیان نہیں، لہذا جیسے بے حس شہر میں چار چار

پانچ پانچ سال کے بچوں نے بھی دو تین دن تک کچھ نہ کھایا اور دھاریں

مار کر روئے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے، اوپر سے حیدرآباد کا معاملہ

پیش آیا، اس سے تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی مگر قبول شخصے

خدا شہ سے برا نگیزد کر خیر ما دراں باشد

ان صدیوں نے جو ایک ساتھ آئے ہیں مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی

ہیں، جو لوگ سستی سے کام لے رہے تھے وہ بہت چوکے ہو گئے

ہیں اور بھاری ذمہ داری محسوس کرنے لگے ہیں گویا تازہ یاد عبرت ہے تو

حضرت خواجہ محمد مقبول الرسول صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ملشی کرم داد (بہاولپور) کا بیان ہے کہ :

”میرے گھراؤ لا دنہیں ہوتی تھی۔ آپ نے مورخہ ۲۰ دسمبر ۱۹۴۷ء کو ایک خط لکھا جس میں رلا کے کی بشارت اور مبارک لکھی ہوئی تھی حالانکہ اس وقت حمل کا نشان بھی نہیں تھا، خدا کی شان اس غوشِ خبری کو اللہ تعالیٰ نے نومبر ۱۹۴۸ء میں خوبصورت فرزند عطا فرما کر پورا کر دیا لیکن آپ کی سب سے بڑی کرامت انبارِ شریعت پر استقامت اور تبلیغِ دین تھی“

ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :-

”چاہے کہ نماز چنگا نہ باوقات مسنونہ، اور ادویۃ عالیہ نقشبندیہ قادر یہ ہرگز قضاء نہ کریں، خصوصاً بوقتِ شام شجرہ شریعت مروجہ اور بوقتِ صبح شجرہ شریعت ذبیحہ پر ہیں، اللہ تائید ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا خیال ہر وقت رکھنا اللہ ضروری ہے“

کارا این است دیگر ہمہ بیچ

آپ نے دو عقیدہ سنون کے پہلے عقیدے کوئی نرینہ اولاد نہ تھی اس لئے دوسرا عقیدہ مولانا مفتی عطا محمد (رتہ شریف، چکوال) کے ہاں کیا جس سے تین صاحبزادیاں اور پانچ صاحبزادے پیدا ہوئے۔ صاحبزادگان کے اسماء گرامی یہ ہیں :-

۱. حضرت الحاج حافظ محمد مطلوب الرسول سجادہ نشین تہ شریعت، آپ بلند اخلاق کے مالک اور تبلیغِ دین کا بے پناہ جذبہ رکھتے ہیں۔

۲. صاحبزادہ محمد مقبول الرسول۔

۳. صاحبزادہ محمد صبغۃ اللہ

۴. حافظ محمد حجۃ اللہ

۵. صاحبزادہ محمد نور

۱۳ ربیع الثانی ۱۳۰۱ فروری (۱۳۶۸ھ/۱۹۴۹ء) کو حضرت خواجہ محمد مقبول الرسول رحمت اللہ تعالیٰ کا میوہ ہسپتال لاہور میں وصال ہوا، دوسرے روز آپ کو لحد شریعت میں اپنے جدِ امجد حضرت خواجہ غلام نبی لہمی قدس سرہ العزیز کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ آپ کے مرید صادق ڈاکٹر محمد شریعت لاکل پوری مدظلہ نے المقبول کے نام سے آپ کی سوانح حیات مرتب کی ہے لہ

لہ یہ تمام حالات اسی کتاب سے لئے گئے ہیں۔

صاحبزادہ مولانا محمد منظور احمد دہلوی قدس سرہ العزیز

فاضل جلی حضرت مولانا محمد منظور احمد بن حضرت مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ قدس سرہ العزیز
 و شاہی مسجد جامعہ دہلی فتحپوری تقریباً ۱۳۲۶ھ/۱۹۰۷ء میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم
 و لہجہ سے حاصل کی۔ ۱۹۳۹ء میں مدرسہ عالیہ جامعہ فتحپوری (دہلی) میں داخل ہو گئے۔ پڑھے
 ذہین اور طباع تھے، ہمیشہ اپنی جماعت میں اول رہے۔ ۱۹۳۶ء میں دورہ صریحہ کی تکمیل کی اور
 پڑھے جامعہ میں اول آئے، مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ خطبہ
 کی دل نشینی کا یہ عالم تھا کہ ان کا وعظ ہر خاص و عام کا دل موہ لیتا تھا، شدید علالت کے دوران
 بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ والد ماجد کی عقیدت و محبت اور ان کے پاس خاطر کا اندازہ اس سے
 رکایا جا سکتا ہے کہ حالت مرض میں نہایت نصیحت ہونے کے باوجود انہیں اپنی صحت و عافیت
 ہی کی علاج دیتے رہے تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔

آپ نے علم توفیق والد ماجد سے حاصل کیا تھا، انہیں اس فن میں کمال جو حاصل
 تھا، آپ نے کراچی کے نئے داعی تقویم مرتب کی جس میں پانچوں نمازوں کے اوقات اور ظلوں وغیرہ
 کتاب کے وقت کا بیان کیا، یہ داعی تقویم آپ کے برادر گرامی مکرمی ڈاکٹر محمد مسعود احمد مظہر
 موقوف فاضل بریلوی اور ترک مولات کی ترتیب نوے سے ۱۹۶۷ء میں کوئٹہ سے شائع
 ہوئی ہے۔

حضرت مولانا ۱۹۳۷ء کے اوخر میں پاکستان تشریف لے آئے لیکن کچھ عرصہ
 بدصحت طراب ہو گئی اس لئے بہاول پور سے حیدرآباد تشریف لے گئے، مرض کی
 نسبت اس قدر بڑھی کہ ڈاکٹر مایوس ہو گیا مگر قدرت نے صحت عطا فرمادی، بھی پسند
 نہ ہی گزرے تھے کہ بیوہی پھر عود کر آئی اور تپ دق کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ مولانا نے
 نام کالیف کو کمال استقامت سے برداشت کیا۔

آخر کار سر شہان، یکم جون (۱۳۹۹ھ/۱۹۴۹ء) بروز چہار شنبہ آپ نے داعی اجل

کو لبیک کہا۔ حضرت خیر و دہلوی کے سٹاگر دیکتا دہلوی نے قطعہ تاریخ وفات کما جس کا
 تاریخی شعر درج ذیل ہے۔

ملا کر العف یکتا اللہ کا لکھ

”خدا کا ہے صاحب منظور احمد“

جب آپ کے انتقال کی خبر آپ کے اساتذہ مولانا ولایت احمد کو پہنچی تو انہوں نے

پیشیم پر تم فرمایا!

”اگر ان کی حیات ہوتی تو اپنے زمانہ کے شاہ ولی اللہ تھے“

مولانا مرحوم کا مزار حیدرآباد کے مشرقی جانب نہر پھلیلی کے کنارے واقع ہے لے

لے محمد سعید احمد، ڈاکٹر، مقدمہ ای تقویم، مطبوعہ گلزار سخن کتب گھر، کراچی، ص ۱۰۰-۱۰۱

غوث الاسلام والمسلمین حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ العزیز

ماہ شریعت مہر طریقت حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی ابن حضرت مولانا پیر سید
 نذر الدین شاہ قدس سرہما یکم رمضان المبارک (۱۸۵۹/۱۲۷۵) بروز سوموار گورکھ شریف
 ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب ۲۵ واسطوں سے حضرت
 سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ۳۹ واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔

قرآن مجید پڑھنے کے بعد مولانا غلام محی الدین ہزاروی سے کافیت تک کتابیں
 پڑھیں، پھر مہدی ضلع راولپنڈی میں مولانا محمد شفیع قریشی کے مدرسہ میں داخل ہوئے اور
 خود اصول کی متوسط کتب کے علاوہ منطق میں قطبی پڑھی، بعد ازاں اکثر و بیشتر کتب انگلی
 ضلع سرگودھا میں مولانا سلطان محمود زمریہ خاص حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی
 قدس سرہ سے پڑھیں اور کانپور میں مولانا احمد حسن کانپوری کی خدمت میں حاضر ہوئے
 اس وقت مولانا احمد حسن کانپوری سفر حرمین طیبین کے لئے تیار تھے، اس لئے آپچنانچہ
 اکل مولانا لطیف اللہ علی گڑھی کی خدمت میں حاضر ہو کر معقول اور ریاضی کی کتب عالیہ کا
 درس لیا۔ مولانا احمد علی سارنپوری محشی بخاری سے درس حدیث لیا اور ۱۲۹۵ھ/۱۸۷۷ء
 میں سند حدیث حاصل کی۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی
 قدس سرہ کے دستِ اقدس پر بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔

لے فیض احمد مولانا :
 لے ایضاً
 لے ایضاً
 لے ایضاً

سرمنبر
 ص ۶۱
 ص ۳
 ص ۸۱-۶۵
 ص ۹۵-۹۲

تکمیل علوم کے بعد ایک عرصہ تک درس و تدریس کے ذریعہ شاگردانِ علوم کو
 سیراب کیا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ کے نظریہ وحدۃ الوجود کے زبردست حامی
 اور مبلغ تھے، اس سلسلے میں علامہ اقبال کا ایک مکتوب بڑی اہمیت رکھتا ہے :-

لاہور ۸ اگست ۱۹۳۳ء

مخدوم و مکرم حضرت قید السلام علیکم

جناب کی وسعتِ اخلاق پر پھر وسر کہتے ہوئے یہ چندہ سطر لکھنے
 کی جرأت کرتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ
 نہیں جو پیش نظر مقصد کے لئے کھٹکایا جائے۔

میں نے گزشتہ سال انگلستان میں حضرت مجدد الف ثانی پر ایک
 تقریر کی تھی جو وہاں کے اوشناس لوگوں میں بہت مقبول ہوئی، اب
 پھر ادھر جانے کا قصد ہے اور اس سفر میں حضرت محی الدین ابن عربی
 پر کچھ کہنے کا ارادہ ہے، نظر باں حالات چند امور دریافت طلب
 ہیں، جناب کے اخلاق کریمانہ سے بعید نہ ہوگا اگر ان سوالوں کا
 جواب شافی مرحمت فرمایا جائے۔

۱۳۰۴ھ/۱۸۹۰ء میں حرمین شریفین کی زیارت کے لئے گئے تو حضرت خواجہ
 عبدالرحمن چھوہڑوی قدس سرہ آپ کے ہمراہ تھے، مکہ مکرمہ میں مولانا رحمت اللہ صاحب
 مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ بانی مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ سے ملاقات ہوئی تو وہ آپ کے علم و فضل
 سے بہت متاثر ہوئے، مولانا محمد غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نائب مدرس مدرسہ صولتیہ آپ
 کے فضل و کمال کے اتنے گرویدہ ہوئے کہ ہمیشہ کے لئے گورکھ شریف آگئے، لے حضرت
 حاجی امداد اللہ صاحب مکی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت وہ تھنوی شریف کا درس

لے عین احمد نظامی : تاریخ شاہچشت ، ص ۷۰ (مور اقبال، عبدالول)
 لے فیض احمد مولانا : مہر منبر ، ص ۱۱۶-۱۱۹

دے رہے تھے، ایک شخص ثنوی شریف کے ایک شعر کے بارے میں تشفی حاصل کرنا چاہتا تھا، حضرت حاجی صاحب کی اجازت سے حضرت پیر صاحب نے اس شعر کی ایسی عارفانہ تقریر کی کہ حاجی صاحب وہد میں آگئے اور آپ کو سلسلہ توحید پر تہنیت مبارک میں اجازت سے نوازا، حضرت پیر مر علی شاہ گولڑوی خود فرماتے ہیں:-

"بوقت زیارت بیت اللہ کے حاجی امداد اللہ صاحب کو ایک شخص کرامت تھے خود ہی نعت باطنی بخننے کو اس عاجز کی طرف متوجہ ہوئے ہمارے دل میں خیال آیا کہ جو چہرہ ہم نے دیکھا ہے وہ جہان میں نظر نہیں آتا، ان کے کمال احرار کے بعد کہا گیا کہ ہم کو تو حاجت نہیں لیکن آپ کی عنایت بھی جو آپ کی رضا مندی سے ہے غیر مشکوک نہیں اور نیز یہ عنایت بھی ہم اپنے شیخ کی جانب سے جانتے ہیں بعد انہوں نے سلسلہ مبارک پر اکرام فرمایا ہے

حضرت پیر صاحب چاہتے تھے کہ حرمین طیبین میں قیام کیا جائے، حضرت حاجی صاحب نے بتا کہ مراجعت کا حکم دیا اور فرمایا:-

"ہندوستان میں عنقریب فتنہ برپا ہونے والا ہے لہذا تم ضرور اپنے ملک ہندوستان میں واپس چلے جاؤ، بالفرض اگر آپ ہند میں خاموش ہو کر بیٹھ بھی جائیں گے تو پھر بھی وہ فتنہ ترقی نہ کر سکے گا، پس ہم حضرت حاجی صاحب کے اس کشف کو اپنے یقین کی رُو سے مرزا قادیانی کے فتنے سے تعبیر کرتے ہیں" لے

مدینہ طیبہ کے سفر میں دادی حمار میں ڈاکوؤں کے خطرے کی بنا پر حضرت عشا کی سنتیں ادا نہ کر سکے، خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

لے مقالات مزیہ
لے ایضاً
۱۷۲ ص
۱۰۴ ص
۱۱۹۶۵

جمال جہاں آما کے استغیث ہوئے حضور نے فرمایا:

"آل رسول را بنیاد کہ ترک سنت کند"

اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ اپنی مشہور نعت میں فرماتے ہیں:-
لاہو مکہ تھیں مخطط بر زمین من بجا لڑی شکل دکھاؤ سخن
ادب ہنڈیاں گالیں الاؤ مٹھن جو حرا وادی سخن کریاں
اسی تصور کو ایک اور نعت میں یوں پیش کیا ہے:-

کہاں یاد میں سوہنی حجات نوں اس سفر عرب والی راست نوں

اس حرا وادی دی گھات نوں یا مینتی یوم الوصال

آئندہ اوراق میں اس واقعے سے متعلق آپ کی تحریر کا مکمل پیش کیا جا رہا ہے۔

حضرت پیر مر علی شاہ گولڑوی قدس سرہ نے عم بھر شریعت و طریقت کی بے مثال خدمات انجام دیں، مسلک اہل سنت کی حمایت اور بد مذہبوں کی سرکوبی پر خاص طور پر توجہ فرمائی، مولانا فیض احمد گولڑوی لکھتے ہیں:-

"حضرت نے امکان کذب باری تعالیٰ کو محال، علم غیب عطا ہی

اور سماع موتے کو برحق اور ندا سے یا رسول اللہ زیارت قبول،

توسل و استمداد و انبیاء و اولیاء علیہم السلام اور ایصال ثواب کو

جائز قرار دیا، لے

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئی کے مطابق آپ کی مساعی جہید نے فتنہ قادیانیت کی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ ۱۸۹۹-۱۹۰۰ء میں آپ نے شمس الہدایہ لکھ کر حیات سید علیہ السلام پر زبردست دلائل قائم کئے، مرزا قادیانی ان دلائل کا جواب تو نہ دے سکے البتہ مناظرے کا چیلنج دے دیا، ۲۵ جولائی ۱۹۰۰ء کی تاریخ برائے مناظرے پائی، حضرت پیر صاحب اور علماء کی بہت بڑی جماعت مقررہ

تاریخ پر شاہی مسجد لاہور میں پہنچ گئی لیکن مرزا کے قادیانی کو سامنے آنے کی حیات نہ ہو سکی اس جنت کو مٹانے کے لئے ۱۵ دسمبر ۱۹۰۲ء کو سورہ فاتحہ کی تفسیر امجدیہ کے نام سے عربی زبان میں شائع کی جس کے بارے میں مرزا صاحب یہ تاثر دے رہے تھے کہ یہ الہامی تفسیر ہے، حضرت پر صاحب نے ۱۹۰۲ء میں سیفِ چشتیانی لکھ کر شائع فرمادی جس میں مرزا صاحب کی عربی دانی کی کئی کھول دی اور قادیانی دعووں کی دجھیاں بکھیر دیں، یہ کتاب آج تک جواب ہے لے

اسی طرح جب وہ بیت نے پریز سے نکلنے شروع کئے اور سوادِ اعظم اہل سنت کے خلاف ریشہ دو انیاں شروع کیں تو آپ نے ان کا سختی سے محاسبہ فرمایا مولوی عبداللہ خان پوری وہابی آپ کی وہابیت کش پالیسی پر پڑے برہم رہتے تھے چنانچہ انہوں نے ایک رسالے میں دس علی سوال لکھ کر حضرت کو جواب دینے کی دعوت دی، آپ نے الفتوحات الصمدیہ میں ان سوالات کے جوابات دے کر بارہ سوالات اپنی طرف سے پیش کئے جن کا جواب مولوی عبداللہ خان پوری لکھ کر ان کی تمام حماقت سے مزین سکا، اعلیٰ رحمۃ اللہ اندر دنیاز، سماج موٹی، استمداد وغیرہ مسائل پر لاجواب کتاب بھی اسی مسئلے کی کڑی ہے۔

تقویۃ الایمان میں مولوی اسماعیل دہلوی کی روش پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "احمال کا عین کی ارواح اور بتوں میں غائب باہر فرق ہے لہذا بتوں کے بارے میں وارد ہونے والی آیات کو انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرنا بیجا کہ تقویۃ الایمان میں اقیح تحریف اور بدترین تخریب ہے" (ترجمہ) آپ کے خلاف وہابیوں کے متعلق ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ نے سیفِ چشتیانی میں مدعیان نبوت کا ذکر کرتے ہوئے مسیلمہ کذاب اور مرزا کے قادیانی کے ساتھ ساتھ محمد بن عبدالوہاب نجدی کو بھی شمار کر دیا تھا۔

لے فیض احمد مولانا، سہ ماہیہ، ص ۲۰۶-۲۰۷
 لکھ مرزا علی شاہ گروہی، شیخ الاسلام، ص ۱۵۱

حضرت پر مرزا علی شاہ گروہی شریعت و طہارت کے راہنما تھے، انہوں نے ملکی سیاست میں حصہ نہیں لیا لیکن جب تحریکِ خلافت اعلیٰ تو آپ نے کسی کی پروا کیے بغیر شرعی نقطہ نظر کو مدافعت سے پیش کیا، ترکی سلطنت کو خلافتِ اسلامیہ کا درجہ نہیں دینے تھے تاہم آپ کی تمام ہمدردیاں ترکی مسلمانوں کے ساتھ تھیں چنانچہ طرابلس اور بلقان کی جنگ کے موقع پر گھر کے زیورات اور اصل کے گھوڑے تک فروخت کر کے قیمت چندہ میں دے دی تھی، تحریکِ ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ اس غیر شرعی ہجرت کا نتیجہ خواب نکلے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ نے ذبیحہ گاؤ کی مانعیت کو ناپسندیدگی نظر سے دیکھا، کانگریسی لیڈروں نے جب انگریزوں سے ترک موالات پر زور دیا تو فرمایا: "یہود اور مشرکین کی عداوت قرآن شریف میں صراحتاً مذکور ہے پس ترک موالات ہندو اور انگریز اور یہود سب سے ہونی چاہئے تفریق اور ترجیح بلا مرجح، یعنی انگریزوں سے مقاطعہ اور ہندو سے دوستی مفید نہیں ہے" لے

آپ کی محققانہ تصانیف کے نام یہ ہیں:

- ۱۔ سیفِ چشتیانی
- ۲۔ شمس المدایہ
- ۳۔ تحقیق الحق
- ۴۔ مجاہدِ بردوسالہ
- ۵۔ الفتوحات الصمدیہ
- ۶۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ فی بیان اہل بلیغیۃ اللہ
- ۷۔ فتاویٰ مسریہ

۲۹ صفر ۱۱۰۶ھ (۱۳۵۶ء/۱۹۳۷ء) بروز شنبہ آپ کا وصال ہوا، گورنر شریعت میں آپ کے مزار مبارک کا گنبد دور سے دعوتِ نظارہ دیتا ہے، ہر سال آپ کے عرس کے علاوہ حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا عرس بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔

لے فیض احمد مولانا، سہ ماہیہ، ص ۲۰۶-۲۰۷
 نوٹ: تحریکِ خلافت، تحریکِ ترک موالات و تحریکِ ہجرت وغیرہ مسائل میں علی حضرت مہم حضرت مولانا محمد علی صاحب نے غیر خفا، تفصیل کے لئے لکھے، "ماہل پوری در ترک موالات"، از پروفیسر محمد احمد مدظلہ (مطبوعہ سرگرمی پبلشرز، لاہور)

کو درس و تدریس اور خاص طور پر معقولات میں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ ہمیشہ معقول و منقول کی انتہائی کتب کا درس دیا کرتے تھے، دورِ روز سے تشنگانِ علوم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سیراب ہوا کرتے تھے آپ کے تلامذہ آسمانِ علم و فضل پر آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اجدادِ حسین کی بہت بڑی جماعت تیار کی جنہوں نے علوم و فنیہ کی مسلکِ اہل سنت و جماعت کی قابلِ قدر خدمات انجام دیں۔ آپ کے چند مشاہیر تلامذہ کے نام یہ ہیں:-

۱۔ حضرت علامہ مولانا عظیم اللہ بڑوی دامت برکاتہم العالیہ زینِ سند تدریس دارالعلوم مظہریہ امدادیہ بنیال شریف ضلع سرگودھا۔

۲۔ استاذ الزناضل مولانا غلام رسول دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ رضویہ لاکھ پور

۳۔ قاضی جلیل مولانا غلام مہر علی گوڑوی مصنف "دیوبندی مذہب"، "البراقیت المرسیہ" و خطیب جامع مسجد نور چشتیاں شریف (بہاولنگر)

۴۔ استاذ العلماء مولانا محمد مہر الدین مصنف "تہمیل المباحی شرح مختصر المعانی"

۵۔ مولانا محمد عبدالملک رحمانی تلمذ (خطیب کاچھو پورہ لاہور)

۶۔ مولانا عنایت اللہ چشتی، کالاباغ (ضلع میانوالی)

۲ ربیع الثانی ۱۳۹۰ نومبر (۱۳۷۴/۱۹۵۴) بروز پیر آپ کا وصال ہوا اور جامعہ

پھر لاہور کے قریبی قبرستان میں مدفون ہوئے۔

۱۔ علامہ مولانا، ۲۔ البراقیت المرسیہ، ۳۔ ص ۹۸-۹۹

مفسرِ قرآن مولانا نبی بخش علوانی قدس سرہ (مصنف تفسیر نبوی)

فاضل یگانہ حضرت مولانا نبی بخش ابن جناب محمد وارث (قدس سرہ) ۱۲۷۶ھ/۱۸۶۰ء میں لاہور کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اپنے وقت کے ممتاز علماء سے کتب فیض کیا جن میں سے مولانا معراج حسین لاہوری خطیب شاہی مسجد لاہور، مولانا محمد ذاکر بکوی، مولانا غلام محمد بکوی، پیر عبد الغفار شاہ کشمیری، مولانا غلام قادر بھروی اور مولانا غلام دستگیر قصوی کے اس خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ آپ نے معیشت کے نئے سطحی بنانے اور دودھ پھینے کا طریقہ اختیار کیا تھا اسی لئے آپ کو علوانی کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا غلام دستگیر قصوی کے دستِ اقدس پر بیعت ہوئے اور پھر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لاٹانی علی پوری سے بیعت ہو کر مجاز ہوئے۔

آپ نے مسلکِ اہل سنت و جماعت کی ترویج کے لئے بیش بہا خدمات انجام دیں آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، بعض کے نام یہ ہیں:-

۱۔ تفسیر نبوی، پنجابی شعروں میں، ۵ جلد

۲۔ الامتیاز بین الحقیقہ و المجاز

۳۔ جامع الشواہد

۴۔ انوار الکار السنکین

۵۔ انوار الحامیہ لمن ذم المعاصیہ وغیرہ وغیرہ

آپ قریباً ایک سو برس کی عمر میں ۱۳۶۵ھ/۱۹۴۵ء میں وصال بحق ہوئے اور اپنی

تفسیر کو وہ مسجد سی کوٹوالی بیرونِ دہلی دروازہ لاہور میں دفن ہوئے۔

مولانا باغ علی نسیم اور علامہ سابق سال احمد فاروقی ایم۔ اے سے مولانا علوانی کے مشہور

شاگرد ہیں۔ مولانا بانغ علی نسیم نے آپ کی یاد میں مکتبہ نبویہ قائم کیا جو دور جدید کی طباعت و اشاعت کے تقاضوں کے مطابق مسکابل سنت و جماعت کی گرانقدر خدمات انجام دے رہا ہے۔

جناب بوالطاہر فدائین نے درج ذیل قطعہ تاریخ وفات لکھا ہے

ہو گئے واصل بحق ہیں جس دم
عالم ذی مرتبت وہ دیں پناہ
بندۂ حق صاحب فضل و کمال
عظمت علم و حکم کے بادشاہ
العتب خیر البشر کے فیض سے
غلام میں داخل ہوئے باسز و جاہ

کہہ گیا طہم فدا سے سال واصل
از سر الہام، "مظہور اللہ"

۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴

شیخ العلماء محقق مولانا نصیر احمد المعروف پرمیال صاحب قصبہ خواتی قدس سرہ

شیخ العلماء استاذ الفضلاء حضرت مولانا میاں نصیر احمد بن میاں غلام محمد صدیقی
۱۳۲۸ھ/۱۹۱۳ء میں پیدا ہوئے، مروجہ علوم کی تحصیل صورتہ سرحد کے ممتاز افاضل سے کی اور
مشہور عالم محقق مولانا مفتی محمد احسن المعروف بحافظہ دار قدس سرہ (م ۱۳۶۳ھ/۱۸۴۷ء) سے تکمیل کی اور سند فراغت حاصل کی، جب آپ مستند تدریس پر فائز ہوئے تو آپ کی شہرت
علمی سن کر بلخ، بخارا اور کابل کے طلباء آپ کے گروہ جگھتا رہنے لگا، فارغ تحصیل علماء آپ
سے کسب علم کیا کرتے تھے۔

پورے علاقے میں آپ کا فتویٰ چلتا تھا، چونکہ آپ پوری تحقیق سے فتویٰ لکھتے تھے
یا مہ تصدیق ثابت فرماتے تھے اس لئے علماء آپ کی تصدیق دیکھ کر بلا تامل تائید کر دیا کرتے
تھے، ایک دفعہ سوات کے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ عراب کے بغیر جماعت نہیں ہوتی،
یہ فتویٰ آپ کی نظر سے گزرا تو آپ کا پیر جان قادری، مولانا آقا سید سکندر شاہ تادری
پشتنی اور مولانا سراج الدین لاہوری (رحمہم اللہ تعالیٰ) کو ساتھ لیکر تحقیق حق کے لئے سوات
تشریف لے گئے، تین دن کی گفتگو کے بعد علماء سوات نے پہلے فتویٰ پر نظر ثانی کی اور دوسرا
فتویٰ جاری کیا، حضرت مولانا اخوند عبدالغفور صاحب سوات قدس سرہ نے ان حضرات کو
بڑی قدر و منزلت کے ساتھ رخصت کیا۔

حضرت مولانا نصیر احمد رحمہ اللہ تھکے سلسلہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ سے خانہ دانی نسبت
رکھتے تھے نیز حضرت شیخ الاسلام مولانا اخوند عبدالغفور صاحب سوات رحمہ اللہ تھکے کے
دستِ اقدس پر سلسلہ عالیہ قادریہ زاہدہ میں بیعت تھے، آپ شعر و سخن کا ذوق بھی رکھتے
تھے، آپ کا زیادہ تر کلام ہندو نضاح اور بزرگانِ دین کی تعریف و منقبت پر مشتمل ہے،
تصنیف و تالیف کے ساتھ بھی اچھا خاصا لگاؤ رکھتے تھے، آپ کی تصانیف حسن عقیدہ
اور کمالِ علمی پر شاہِ عادل ہیں، چند تصانیف یہ ہیں:-

۲۔ عاشق شاہی

۱۔ شرح سماجی (فارسی)

۴۔ احقاق الحق، رد تقویۃ الایمان وغیرہ

۲۔ ترکیب کافہ

علامہ انیس مولانا حافظ دراز پشاوری قدس سرہ کی مایہ ناز تصنیف منہج الہامی شرح صحیح البخاری (بارہ اول) اور اسرار لطیفۃ از حضرت شاہ محمد غوث پشاوری ثم لاہوری قدس سرہ کی تصنیف کو زیور طبع سے آراستہ کر دے، سینکڑوں علمائے آپ کے فیض سے خوش بینی کی اور دنیا کے علم و فضل کے سرواہ بن کر چکے آپ کے تین فرزند تھے، مولانا میاں محمد، مولانا گل فقیر احمد اور حافظ میاں گل نظیر احمد۔

حضرت علامہ مولانا میاں نصیر احمد قدس سرہ کا ۱۸ رجب المرجب (۱۳۰۸ھ/۱۸۹۱ء) کو جمعہ کے دن عصر کے وقت وصال ہوا۔ آپ کی وفات پر تمام شہر بند کر دیا گیا اور جو بچہ حد کے ہزار ہا افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی، کسی نے تاریخ وفات کسی سے

صاح لہامات مولانا نصیر احمد اللہی دریا و فتویٰ مثلہ لا یعلم
قال قوم صفت لنا تاریخناک الواقعہ قمت موت العالم وانہ موت العالم نہ

ملہ محمد امیر شاہ، مولانا سید، تذکرہ علماء و مشائخ مجدد ۱۶ ص ۱۶۴-۱۶۱

رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد نظام الدین ملتانئی قدس سرہ

حضرت مولانا ابوالمنظور محمد نظام الدین ملتانئی حنفی قادری سروری قدس سرہ ملتان شریف میں پیدا ہوئے، اپنے دور کے باکمال اساتذہ سے تحصیل علم کی، دربار شریف حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرہ کے سجادہ نشین حضرت امیر سلطان قدس سرہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور تاحیات تحریر و تقریر کے ذریعے مسکب اہل سنت و جماعت کی تبلیغ و حمایت کرتے رہے، مناظرہ میں بیڑ طولی رکھتے تھے، آپ کی تصانیف پر عموماً یہ اعلان درج ہوا تھا :-

" اہل اسلام کو داغ ہو گا اگر آپ کو کوئی و باہی، شیعہ، مزارائی، چکڑا لوی ستائے اور چیلنج دے تو فوراً مولانا محمد نظام الدین ملتانئی رئیس المناظرین کو با نظام جلسہ طلب کریں لیکن دس دن پہلے اطلاع دیں، ممدوح صاحب ان کے ساتھ ہر وقت مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہیں "

آپ بوضو تعالیٰ ہر مناظرے میں کامیاب رہتے یہی وجہ تھی کہ مخالفین ان کا سامنا کرنے سے گھبراتے تھے۔

مولانا محمد نظام الدین ملتانئی قدس سرہ نے تصانیف کا بڑا ذخیرہ یادگار چھوڑا لیکن آپ کے صاحبزادے کا شہکار ہی میں مصروفیت کی بنا پر آپ کی تصانیف کی اشاعت نہیں کر سکے اس لئے آج کل یہ کتابیں نایاب ہیں آپ کی تصانیف کے نام یہ ہیں :-

- ۱۔ سلطان الفقہ المعروف فتاویٰ نظامیہ، گیارہ حصوں میں ان سوالات کے جوابات کا مجموعہ ہے جو وقتاً فوقتاً اطراف و اکناف سے آپ کے پاس آتے رہتے تھے بجز تعالیٰ یہ فتاویٰ، مکتبہ علویہ رضویہ ڈیکورٹ روڈ لائل پور سے چھپ چکا ہے، مکمل فتاویٰ نظامیہ اس سے الگ ہے۔

۲۔ حقیقت مذہب شیعہ (چار حصے) ۳۔ ہم کا گود پر راضی ٹولہ

- ۴۔ قبر یزدانی بر قلعة قادیانی
- ۵۔ اباطیل و باجیہ
- ۶۔ انصیح و آثار رب فی احکام اللعنی و المشارب
- ۷۔ القول الجلی فی رد علی کشف الغیبات
- ۸۔ اعقابہ علماء دیوبند
- ۹۔ سیف النعمان علی اہل الطغیان
- ۱۰۔ بلاغ البین
- ۱۱۔ تفسیر نوید
- ۱۲۔ حجتہ بجاواب مخالفین
- ۱۳۔ سیرۃ المقلدین
- ۱۴۔ تحفۃ السائغین یا دعا کا نظام الدین
- ۱۵۔ سلطان التفسیر (دس پارے)
- ۱۶۔ زمانے کا تغیر
- ۱۷۔ راہِ مرفان (بزبان پنجابی)
- ۱۸۔ تحفۃ دستگیر
- ۱۹۔ شرح قصیدہ غوثیہ
- ۲۰۔ مصاص الامامیہ علی اصناف الراضیہ
- ۲۱۔ جرحہ غلبین و ملحقین مقلدین
- ۲۲۔ نقل النہم فی عدم جواز الفتحہ فخلعت الامام
- ۲۳۔ رسالہ عدم جواز رفع یدین و امین بالجہر
- ۲۴۔ اصلاح الطالبین
- ۲۵۔ تحقیق مسکد ہمدوست
- ۲۶۔ الحکار عشق، ذیل روٹی شرح کچی روٹی
- ۲۷۔ زندہ المعروف فیوض سلطانی مع رسالہ اثبات ذکر جہر

حضرت مولانا محمد نظام الدین ملتانی قدس سرہ کا مولد و نشا ملتان شریف ہے بعد ازاں وزیر آباد دروازہ موہدین میں منتقل ہو گئے اور یہیں آپ کا وصال ہوا۔
 حضرت مولانا محمد شعیب مدظلہ خطیب اعظم کاموں کے مولانا نظام الدین ملتانی کے شاگردوں میں سے ہیں لیکن افسوس کہ کوششیں بسیار کے باوجود ان کے تفصیلی حالات کو لغت حاصل نہ ہو سکے۔

سراج السالکین حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری قدس سرہ (کیلیا نوانہ شریف)

عارف کامل حضرت سید نور الحسن شاہ ابن حضرت سید غلام علی شاہ ابن حضرت سید حیات شاہ (قدرت اسرار جم) ۲۷ جمادی الاولیٰ ۳۰۰ جنوری (۱۳۰۶ھ/۱۸۸۹ء) چہار شنبہ کی شب کیلیا نوانہ شریف متلع کو جہا نوالہ میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے آبا و اجداد باکمال بزرگ تھے۔ آپ کی طبع سلیم میں ابتداء ہی سے تقویٰ و طہارت اور شیخی کے جذبات بدرجہا تم موجود تھے، ظاہری تعلیم کے لئے آپ اپنے اجداد جگوار پھر قصبہ رسول نگر کے اسکول میں داخل ہوئے اور پرائمری پاس کر کے کول چوڑ دیا کچھ عرصہ بعد کیلیا نوانہ شریف کے خوشنویس مولانا نور الہی سے فن خوشنویسی سیکھا، پھر کچھ عرصہ تک کیدیاری کرتے رہے، بعد ازاں چک مٹا منلع شیخ پورہ میں منتقل ہو گئے۔

کیلیا نوانہ شریف کے خاندان سادات کے بہت سے افراد شیعہ ہو گئے تھے، انہی کے ذریعہ آپ بھی تشیع سے متاثر تھے لیکن موجودہ دور کے شیعہ برعکس نماز اور روزہ کے پابند تھے، قدرت نے آپ کو بڑی دیکش اور پڑھنا آواز عطا فرمائی تھی چنانچہ جب آپ مجلس پڑھتے تو سامعین بڑے اشتیاق سے سنتے، نعت بھی بڑے سوز و گداز سے پڑھتے۔ ایک دفعہ شرفی شریف جا کر مجلس پڑھی تو دھوم مچ گئی، کسی نے جا کر عارف ربانی حضرت میاں شیر محمد شرفی قدس سرہ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا " شاید یہ جی ہمارا کام دین " ولی کامل کی نہایت نکلا ہوا یہ جملہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا اور حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت میاں شیر محمد شرفی سے وہ رابطہ قائم ہوا جو دن بدن بڑھتا ہی رہا اور آپ کے ذریعہ رشد و ہدایت کا ایسا چشمہ جاری ہوا جس لاکھوں تہنہ کام سیراب ہوئے۔

حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد آپ نے شرفی شریف میں قیام کے دوران قرآن مجید پڑھا اور شہرہ کامل کی نگاہ سے وہ فیض حاصل کئے کہ آپ کی تحریر و تقریر بڑے بڑے علماء کو حیرت زدہ کر دیتی تھی، آپ اکثر و بیشتر سفر و حضر میں حضرت میاں صاحب کے ساتھ رہا کرتے

مٹنے اور ایک وقت وہ آیا کہ حضرت میاں صاحب نے آپ کو اجازت و خلافت مرحمت فرمائی اور آپ ان کے اکابر و خلفاء میں شمار ہوئے، جب آپ حضرت شیر بانی قدس سرہ کے حکم سے حضرت کیلیا نوادہ شریف میں منتقل ہوئے تو شیعوں نے مزاحمت شروع کر دی اور طرح طرح سے دہپے آزاد ہوئے، مقصد بازی اور قاتلانہ حملے تک نوبت پہنچی لیکن آپ کمال علم سے سب کچھ برداشت کرتے رہے حتیٰ کہ مخالفین کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور آپ کے فیض کا آفتاب دن بدن عروج پر رہا۔

حضرت شاہ صاحب اپنے دور کے وہ عظیم روحانی پیشوا تھے جن کے ذریعے ان گنت افراد راہ راست پر آئے اور بے شمار منزل مقصود کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی کی دولت سے نوازا تھا، مشکل سے مشکل مسئلہ پر گفتگو فرماتے اور اسے منٹوں میں حل فرمادیتے ایک وفد مکان شریف میں عرس کے موقع پر مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سے مسکرم غیب پر گفتگو ہوئی جس میں شاہ جی کو آپ کا موقف تسلیم کرنا پڑا، آپ کی تصنیف جلیل الانسان نے القرآن تہجرتی کا بہترین شاہکار ہے جس میں آپ نے مختلف موضوعات پر شرح حدیث سے گفتگو فرمائی ہے اور بعض اختلافی مسائل کو بڑے چمکانہ انداز سے سلجھایا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد اعتراضات کرنا بڑا تاج ہے کہ ع

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

آپ دو قومی نظریے کے زبردست حامی اور مؤید تھے یہی وجہ تھی کہ آپ کا اثر سنی اور احراری لیڈروں کے مسموم اثرات کے اڑانے کے لئے کوشاں رہے چنانچہ ایک مرتبہ مشہور اہلکار لیڈر ملک لعل خاں سے دوران گفتگو فرمایا:

”فرمان مولیٰ کریم ہے اِسْتَاوْ لِيْكُمْ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَعْنِيْ حَقِيْقَةً نَهْنَارِے دُوسْت اور سِرپرست اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور ایماندا بندگان خدا ہیں، ایک مسلمان کے لئے تو یہی پیشوا اور رہنما ہیں، ان کے فرمان تو معرض کبریٰ دئے اب ان کے سوا آپ کو گاندھی اور نرود کا فرمان واجب

اعل ہوگا جو سوائے جہنم کے ہمیں کسی راستے پر نہیں لے سکتا۔“ لہ
آپ کی شہادہ روز زندگی عبادت اور ذکر و فکر میں بسر ہوتی تھی، مردوں اور حقیقت پسندوں کو بھی شریعت مبارکہ کی اتباع کی تلقین فرماتے، اس کے بعد اور داد و نطافت کی باری آئی آپ مکان شریف اور شہر قہر شریف سے فارغ ہو کر لاہور شریف لے جاتے اور حضرت امام گنج بخش چوہدری قدس سرہ کے مزار پر انوارِ حضور و معاضی دیتے، بعض اوقات حضرت شاہ محمد غوث رحمد اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر بھی حاضر ہوتے۔

آپ کے حلقہٴ ارادت میں بڑے بڑے علماء شامل ہوئے، چند ایک کے نام جو معلوم ہو سکے، یہ ہیں: ۱۔ حضرت مولانا سید بلال الدین شاہ مدظلہ العالی بانی و منتم جامعہ محمدیہ رضویہ نوریہ بکھی شریف۔ ۲۔ حضرت مولانا محمد نواز مدظلہ العالی صدر مدرس مدرسہ مدکورہ۔

۳۔ حضرت مولانا سید منصور شاہ مدظلہ العالی مدرس جامعہ رضویہ لائل پور۔

۴۔ مولانا سید منیر حسین شاہ جو کالونی، مولف انشراح الصدور تذکرۃ النور (مولانا حیات حضرت شاہ صاحب ممدوح قدس سرہ)

۳ ربیع الاول ۱۲۱۰ نومبر (۱۳۷۲/۱۹۵۲ء) جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب گیارہ بجکر پچیس منٹ پر ۶۳ برس کی عمر میں یہ آفتاب ولایت عازم فردوس ہوا، حضرت کیلیا نوادہ شریف میں آپ کا مقبرہ منور مرجع خلافت ہے آپ کے وصال کے بعد بڑے صاحبزادے حضرت سید محمد باقر علی شاہ مدظلہ العالی سجادہ نشین ہوئے۔

مولانا محمد عبداللہ کجاہی نے درج ذیل تاریخ وفات کہی ہے

سید السادات فہرہ نذیر رسول	جامع الحسنات، دہلند، بتول
ماحی بدعات، ابن مرتضیٰ	قرۃ العین شہید کربلا
راحت جان جناب شاہ حسن	سیدی سندی شہ نور الحسن
نور کامل ذآفتاب مشرق پور	بے شبہ بد ماہتاب شہر قہر

بود غوثِ وقت ہم قطبِ رشاد
 کرد صلت از فاسوسے بقا
 بر در بیع اول ، سوّم تاریخ بُد
 چوں بیاید روح پاکش در صوّد
 گفت تاریخ وصالش مولوی
 خادم شاہ سلیمان تونوی
 رفت خضر راہ دعا گودر جناب
 پیر نور الحسن عار زمان

ذاکو حق پیر نور الحسن شاہ

رحمت حق صلہ یاہت از بارگاہ

لے شیخین جو کابو سید : الشرح الصدور بتذکرۃ النور ، حضرت کو بیاد تاریخ گوجرانوادر ۱۳۰۳
 نوٹ : یہ تمام حالت اس کتاب سے ملے گئے ہیں ، یہ کتاب ۲۰ صفحات پر مشتمل ہے۔

شیخ طریقت حضرت مولانا حافظ نور الدین فاروقی نقشبندی قاسم سرہ

عالم و عارف حضرت مولانا حافظ نور الدین ابن مولانا حافظ غلام رسول موضع ٹھیکریاں
 مونیان تحصیل کھاریں ضلع گجرات میں تقریباً ۱۲۴۰ھ/۱۸۲۴ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ
 نسب خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور اکیسویں پشت
 میں حضرت فزید الدین گنڈپور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہمت ہے۔ آپ نے تمام علوم دینیہ کی
 تحصیل والد ماجد سے کی۔ گیارہ برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور تقریباً ۱۸ سال کی عمر
 میں مروجہ علوم اور تصوف کی تحصیل سے فارغ ہو گئے۔ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت
 مولانا غلام محی الدین قصوی داکم الحظوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور
 جب تیسری دفعہ بارگاہِ شیخ میں حاضر ہوئے تو خلافتِ خلافت و اجازت سے نوازے گئے۔

خلافت سے مشرف ہو کر آپ نے موضع چکوڑی بھیلووال (مضافات لارہ موٹی) میں
 قیام فرمایا اور سلسلہ تبلیغ و ارشاد شروع کر دیا، یہیں آپ نے ایک دینی ادارہ کی بنیاد رکھی اور
 علوم دینیہ کا درس شروع کیا۔ اس مدرسہ نے آپ کی مساعی جمید سے خاطر خواہ ترقی کی۔
 آپ سفر و حضر میں طلباء کو درس دیا کرتے تھے۔

۱۳۰۲ھ/۱۸۸۴ء میں آپ کا وصال ہوا اور چکوڑی شریف کے قبرستان میں آپ کی
 آخری آرام گاہ بنی لہ قطعہ تاریخ وصال یہ ہے ھ

جناب فضیلت آپ کمال چو کرو انتقال از سر لے ذوال

زہے نور ملت زہے نور حق زہے نور دین حافظ قبیل و قتل

پہ شیخ از نسب ہاتف آمد ندا

کہ گو "غاب" لڑ "عجلی" بہ سال

علامہ زمان مولانا سید نور اللہ شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ

بلند پایہ واعظ اور بے مثل شاعر مولانا سید نور اللہ شاہ ابن مولانا سید چراغ شاہ
 ۱۲۸۰ھ / ۱۸۶۳ء میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ درس نظامی کی ابتدائی کتابیں مولانا میر حسن
 سیالکوٹی (استاذ علامہ قبیل) سے آفری کتابیں اپنے پڑے بھائی مولانا سید عبداللہ شاہ سے
 پڑھیں۔ آپ حضرت مولانا قاضی سلطان محمود آدوانی، قدس سرہ العزیز کے سفر و حضر کے ساتھی تھے۔
 جب حضرت قاضی صاحب بزرگان دین کے مزارات عالیہ کی زیارت کے لئے جاتے تو اکثر آپ
 کو شرف معیت حاصل ہوتا تھا۔ اور بقول نواب مشتوق یار جنگ جب حضرت قاضی صاحب آفری
 دفعہ اپنے شیخ حضرت مولانا اخوند عبدالغفور قدس سرہ کے مزار شریف کی زیارت کے لئے موات
 تشریف لے گئے تو مولانا سید نور اللہ شاہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔

آپ فارسی زبان کے عالی مرتبہ شاعر تھے، آپ کے کلام سے قادر الکلامی اور
 گہرے درد و سوز کا پتہ چلتا ہے، ایک نعتیہ مسدس (غیر مطبوعہ) کے چند بند ملاحظہ ہوں

بدر تو کہ من از دے بج نام
 بعض مدعا تر شد بج نام
 بچہ در دست اینکہ قدیرش نام
 بکن چارہ کہ تو شکل کشائی

مینہ بر سینہ نام سنگ جدائی

کجائی یار رسول اللہ کجائی

گلستان وفا را نوبساری
 بیدان کو امت شہساری
 پیچے محنت شماراں نم گساری
 شکستہ فطراں را مومیائی

مینہ بر سینہ نام سنگ جدائی !

کجائی یار رسول اللہ کجائی

زبجائے صبا چوں بستجو کرد
 قبائے یوسف گل مشکبو کرد
 لب اندر مر جانش سوسبو کرد
 ہمد این است نطفہ مصطفائی

مینہ بر سینہ نام سنگ جدائی

کجائی یار رسول اللہ کجائی

آپ نے حضرت شاہ دولہ درویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاضی سلطان محمود
 (آدوانی) قدس سرہ کی تعریف میں متعدد گراں قدر فارسی قصائد لکھے ہیں، ذیل میں حضرت
 قاضی سلطان محمود آدوانی قدس سرہ کی شان میں ایک قصیدہ مدحیہ کے چند اشعار نقل کئے جاتے
 ہیں جن کا ہر مصرعہ قابلِ داد ہے۔

روز گائے شد کہ دارم دل زار و حسرتیں
 آرزو سے مدحت شاہنشاہ دنیا دویں
 قاضی سلطان محمود آنکہ نام ہمیش
 نیک زرد برد سے دہا سکتہ چول نقش کلیں
 دُر در یائے حقیقت، اختر برج شرف
 شاہباز اوج عرفاں انخسار عافیں
 جوعہ از جام محبت ریز، در کام دلم
 تا از دنیا سے دوں پُر در فشانم آستین
 مشکلی دارم کہ بردائے نیش روشن است
 پس چرا بیوہ گویم آنچنان یا ایس کنیں

سپہم وارد شاہ نور اللہ زخوان فیض تو

ان اصحاب العطا یا یکر مون السائلین سلہ

پنجابی میں شجرہ قادر غفور یہ نظم فرمایا جس کے دو بند ملاحظہ ہوں

میں بھی قدم ولی دا پھڑ یا
 سنگ اصحاب کعت دے رلیا
 دیکھ لو ان ہُن قسمت اڑیا
 کد تک ہون ہمراہوں نی

پاک رسول محمد سر و خلتاں تار و کھایاں نی

عشق حقیقی والیاں رنزاں سیاں فلان چچ پایاں نی

نور اللہ ہے تیرا بردا
 ہر دم سوچ بھردے مردا
 لاہ دے دل دے اتوں پردا
 کاہنوں بدتاں لایاں نی سلہ

سلہ نور اللہ شاہ، مولانا سید، چتر پور (مطبوعہ اسلامیہ پریس لاہور) ص ۹-۱۵۔

آپ کے اردو، پنجابی اور فارسی تصانیف اور شجرات کا مجموعہ "چشمہ نور" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ آج سے پچاس ساٹھ برس پہلے روڈ شیعہ میں آپ کی ایک اہم کتاب تحفہ شیعہ انڈر پریس، سیالکوٹ سے شائع ہوئی تھی جس پر مولانا غلام حسین ساہووالہ (سیالکوٹ کی منظم تقریظ لکھی) چوہدری غلام غوث مصنف مشنری صمدانی اور نواب معشوق یار جنگ مولانا مقامات محمود سے آپ کے گھر سے مراسم تھے۔

ماہ جون (۱۳۶۷/۱۹۴۸ء) میں آپ کا وصال ہوا اور پائین درگاہ حضرت امام علی الحق رحمہ اللہ تعالیٰ سیالکوٹ میں مدفون ہوئے۔

۱۔ مکتبہ انجمن سید نور محمد قادری مظاہرین چک ۱۵، شانی ڈاک خانہ چک ۱۵، راستہ سکوال، بکرات، پنڈم تاقم المعروف۔

فخر اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد نور بخش توکلی قدس سرہ

مولانا نور بخش توکلی ۱۳۰۵ھ/۱۸۸۷ء میں کوچک قاضیاں ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے علمائے حاصل کی اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ایم اے عربی کا امتحان پاس کیا، علوم دینیہ سے والدانہ محبت کا عالم یہ تھا کہ میونسپل بورڈ کالج کے پروفیسر ہونے کے باوجود مولانا غلام رسول قاسمی امرتسری کے پاس حاضر ہوتے اور طلباء کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کر تفسیر و حدیث اور فقہ کا درس لیتے۔ جن دنوں آپ محمد بن سکول ایشیا کے میڈیا سٹر تھے حضرت خواجہ توکل شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ (م ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء) کے دستِ تقدس پر بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ مولانا مرحوم سرورد و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے مرشار تھے، آپ ہی کی مساعی جمید سے متحدہ ہندو پاک میں بارہ وفات کی بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے تعطیل ہونا قرار پائی تھی۔ آپ ایک موصوفہ تک ہامد نعمانیہ لاہور کے ناظم تعلیمات رہے اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کالج کے شعبہ عربی کے پروفیسر بھی رہے، کچھ مدت کے بعد کالج سے مستعفی ہو گئے، حضرت علامہ نے تصانیف کا قابل قدر ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے، تصانیف مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ الاقوال الصحیحی جواب البحر علی ابی حنیفہ (امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ردائض اور غیر مقلدین کے اعتراضات کا جواب)
- ۲۔ سیرت رسول عربی
- ۳۔ شرح قصیدہ بردہ عربی
- ۴۔ تحفہ شیعہ، دو جلد (برڈ شیعہ)
- ۵۔ سیرت غوث اعظم
- ۶۔ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ

۸۔ اہواز انقرآن

۹۔ رسالہ انور

۱۰۔ عید میلاد النبی

۱۱۔ ابھرنی

۱۲۔ معجزات النبی

۱۳۔ عقائد اہل سنت

۱۴۔ طراوات النبی

۱۵۔ تفسیر سورہ فاتحہ و بقرہ

۱۶۔ امام بخاری شافعی

آپ بیٹھی سے گرنے کی وجہ سے کچھ عرصہ بیمار رہے اور ۱۳ جمادی الاولیٰ ۲۴۰ ہجری
(۱۳۶۶ء/۱۹۴۸ء) کو سفرِ آخرت فرمایا۔ لاکھ پور کے جنرل بس سٹینڈ کے قریب حضرت
نور شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کے پاس دفن ہوئے، مزار پر گنبد تعمیر ہو چکا ہے۔

ملک غلام علی مراد، ابوالقیات المرید، ۱۳۶۶-۱۳۷۰

قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی قدس سرہ

مخزن ہدایت، منبع کرامت، شیخ المشائخ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ ۱۴ رمضان المبارک ۱۳۰۱ اپریل (۱۱۴۲ھ/۱۷۲۰ء) کو موضع چٹانہ (بہاولپور)
میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام بنوال تھا، والدین نے آپ کا نام سہیل رکھا تھا جسے آپ کے
پیر و مرشد حضرت شاہ نضر الدین دہلوی قدس سرہ (۱۱۹۵ھ/۱۷۸۵ء) نے بدل کر نور محمد رکھ دیا۔ آپ
میں آپ کے والد ماجد نے مہار (جسے حضرت خواجہ عالم کی نسبت سے مہار شریف کہا جاتا ہے)
میں دانش افتخار کر لی تھی۔ جب آپ کی عمر شریف پانچ برس کی ہوئی تو آپ کو حافظ محمد سعید
رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لئے بھیجا، انہی سے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا
ایک دن حضرت شیخ احمد دودی والد رحمۃ اللہ تعالیٰ مولوی محمد سعید کے مدرسہ میں تشریف لائے
حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا تو فرمایا:

”سبحان اللہ! ایک زمانہ آئے گا کہ اس بچے کے در پر بادشاہ
رکھیں گے۔“

اس وقت کے خیر تھی کہ بہاول پور کا نواب بہاول خاں مرحوم ان کے دربار میں استاد ہوی
کو سرمایہ دارین سمجھے گا۔

حفظ قرآن کے بعد والد ماجد اور بھائیوں کی خواہش تھی کہ انہیں کسی کام پر لگایا جائے
لیکن حضرت خواجہ کی فطرت سلیم نے اس بات کو پسند نہ کیا بلکہ مزید دینی تعلیم کے حصول پر زور
دیا اور موضع بڑھیراں تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ بعد موضع بیلانہ میں موضع شیخ احمد کھر
رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرتے رہے، بعد ازاں ذریعہ غازی خاں چلے
گئے اور شرح جامی تک کتابیں پڑھیں۔ کچھ عرصہ بعد خواجہ حکیم الدین میرانی قدس سرہ کے ساتھ
لاہور تشریف لے گئے۔ لاہور میں آپ کو بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا لیکن علم کے ذوق و شوق
میں کبھی کمی نہ آئی، کجبل علوم کے لئے وہی تشریف لے گئے اور نواب غازی الدین خاں سے

تشریح و مدد میں داخل ہو کر حافظ برخوردار جی سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ حضرت حافظ صاحب آپ پر خاص التفات فرماتے تھے۔ دن میں ایک وفد کھانا تناول فرماتے اور حضرت خواجہ صاحب کو ساتھ کھلاتے۔ آپ نے قطبی کا درس لینا شروع کیا تھا کہ استاد محترم رخصت پر گئے اور سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا۔

حضرت خواجہ کو تعلیم کے یوں منقطع ہو جانے کا بڑا رنج تھا۔ انہی دنوں آپ کو پتہ چلا کہ حضرت خواجہ فخر الدین رحمہ اللہ تلمذ و کن سے دہلی تشریف لائے ہیں اور وہ بہت بڑے عالم ہیں، شوق علمی کشاں کشاں ان کے دربار میں لے گیا۔ حضرت شاہ فخر قدس سرہ نے الطاف خیرانہ سے نوازا، اگرچہ آپ ایک عرصہ سے درس و تدریس کا سلسلہ منقطع فرمایا تھے مگر اس جوہر قابل کی تکمیل کی خاطر پائیس نفیس پلھانا منظور فرمایا۔ حضرت خواجہ صاحب قدس سرہ نے پوری محنت سے کتاب مدم کیا اور سند حدیث حاصل کی۔

حضرت خواجہ نور محمد قدس سرہ ۱۱۶۵ھ / ۱۷۵۲ء میں حضرت خواجہ فخر الدین دولت کے دست اقدس پر بیعت ہوئے، کچھ عرصہ بعد حضرت شاہ فخر قدس سرہ نے پاکستان تشریف جانے کا قصد کیا۔ حضرت خواجہ صاحب بھی ان کے ہمراہ روانہ ہوئے اور پاکستان تشریف پہنچ کر شیخ و مرشد کی اجازت سے والدہ ماجدہ کی وفات کے لئے مہار تشریف گئے اور جب تک وہاں رہے تمام دن مسجد میں مراقبہ میں مشغول رہتے۔ اٹھ دن قیام کے بعد والدین سے اجازت لے کر پیر مرشد کی خدمت میں پاکستان تشریف پہنچ گئے۔ حضرت شاہ فخر قدس سرہ نے آپ کو برج نظامی میں عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان دنوں جو شخص حضرت شاہ فخر قدس سرہ کی خدمت میں مرید ہونے کی غرض سے آتا ہے حضرت خواجہ کے پاس بھیج دیتے، اس طرح سینکڑوں آدمی آپ کے مرید بن گئے۔ حضرت شاہ فخر جملہ تلمذ لے فرمایا ابھی مزید دو مہینے یہاں قیام کا ارادہ ہے اس لئے تم اپنے والدین سے ملاقات کر آؤ۔ حضرت خواجہ صاحب جب دو ماہ وطن گزار کر عاظم پاکستان تشریف ہوئے تو آپ کے تقدس اور تقویٰ و پرہیزگاری سے متاثر ہو کر آپ کے بھائی ملک سکن ملک برہان اور چچا کھنڈ اور راسا ذمولانا محمد مسعود جی آپ کے ہمراہ پاکستان تشریف لے گئے تاکہ حضرت شاہ فخر الدین سے شرف بیعت حاصل کیا جائے۔

جب حضرت شاہ فخر الدین پاکستان تشریف سے دہلی تشریف لے گئے تو قبیلہ عام بھی مہر کاہ تھے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت فخر الدین قدس سرہ نے آپ کو غفالت عطا فرمایا کہ مہار تشریف میں قیام کرنے کا حکم دیا چنانچہ آپ شیخ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مہار تشریف آئے اور ارشاد ہدایت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ بہت جلد مخلوق خدا پر روانہ ہوا اور آپ کے گرد جمع ہونے لگی ہزاروں افراد آپ کے در و دست پر حاضر ہوتے اور دامن عقیدت گوہر مراد سے بھر کر واپس ہوتے، جو شخص آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوتا اس کے ظاہر و باطن میں حیرت انگیز انقلاب برپا ہو جاتا۔ آپ کے اکثر اوقات تلقین و ارشاد میں بسر ہوتے اور دیوانے حاضر ہو کر دولت خزانگی سے بہرہ ور ہوتے۔ آپ کی مجلس میں امر اور غبار مہطرح کے لوگ حاضر ہوتے مگر آپ نیا داروں کی صحبت کو بید نظرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

حضرت خواجہ عالم قدس سرہ تہذیب افلاق اور اتباع تشریف پر بہت زور دیا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے،

- کسی کو دوسرے پر غصے نہیں ہونا چاہئے، غصہ باطن میں ایک ایسا جوہر ہے جس کا انہماک نور معرفت کی دوری کا سبب ہے۔
- اگر کسی سے شکایت پیدا ہو تو اس کی بہتر تاویل کرنی چاہئے۔
- ظاہر کو موافق تشریف کرنے اور باطن کو اتباع تشریف سے وابستہ کرنے کے بارے میں عوام سے پرسش ہوگی۔

حضرت قبیلہ عالم مابا لغہ معرفت کے ایک سمندر تھے۔ تو نسرتشریف، سیال تشریف، اچاچوال تشریف، گولڑہ تشریف، مرور تشریف، جھاپور تشریف اور احمد پور اسی فیض کے چٹھے ہیں، یہ ایک ناقابل کھار حقیقت ہے کہ حضرت خواجہ فخر الدین گجرات قدس سرہ کے پنجاب میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ترویج و اشاعت میں سب سے زیادہ حصہ حضرت قبیلہ عالم کی سامانی جمید کا ہے، دنیا کا کونسا ایسا حصہ ہے جہاں آپ کے بالواسطہ اور بلاواسطہ مریدین اور نیا زمند نہیں ہیں، آپ کے خلفاء کا طہن کا حلقہ بہت وسیع ہے، چند خلفاء کے ساتھ مہار کہ

۱. حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی
 ۲. مولانا نور محمد تارو والد
 ۳. حضرت مولانا حافظ محمد جمال الدین بھٹانی
 ۴. حضرت خواجہ محمد عاقل (چچا چچاں شریف)
 ۵. مولانا محمد اکرم ڈیرہ غازی خان
 ۶. مولانا تاج محمد ساکن گڑھی
 ۷. شیخ جمال حسینی فیروز پوری
 ۸. مخدوم نوبہار اچھی (رحمہم اللہ تعالیٰ)
- آپ کے ہاں تین صاحبزادے شیخ نور احمد، شیخ نور الحسن اور دو صاحبزادیاں پیدا ہوئے۔

۳ ذوالحجہ ۱۲۴۰ ہجری بمطابق ۱۲/۵/۱۹۲۲ء کو آپ کا وصال ہوا۔ انوار تاج سرور میں ہے، جمال حضرت فرید الدین گنج شکر قدس سرہ کے پوتے اور شیخ بدر الدین سلیمان گجراتی صاحبزادے حضرت تاج الدین سرور کامر قندھار سے، ان کی نسبت سے اس جگہ کا نام ہی تاج سرور پڑ گیا ہے۔ حضرت قندھار عالم کو تاج سرور قدس سرہ کے مزاد سے بڑی عقیدت تھی، ہر جمعہ کو وہاں حاضر فرماتے اور وہاں خانقاہ بھی قائم کر لی تھی۔

کسی نے کیا خوب تا تاریخ وصال کسی ہے
 "حبیبت داویلا جہاں ہے نوز گشت"
 حضرت خواجہ عالم کی مہربانک کا سبب بہت ہی پیارا اور دلآویز تھا
 "نور محمد جہاں روشن است" ۱۷

سلفین صوفیاء - ناریچ مشائخ حضرت
 ۱۹۳۰-۵۰ء

مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ ولی اللہ لاہوری قدس سرہ

حافظ قرآن، محافظ اسلام حضرت مولانا علامہ حافظ ولی اللہ لاہوری ریاست جموں و کشمیر میں پیدا ہوئے۔ ریاست کے سکھ راجہ کے مظالم سے تنگ آکر دوسرے کشمیری مسلمانوں کی طرح آپ کے والدین بھی نعل مکانی پر مجبور ہو گئے اور چند روز لیسرور (ضلع سیالکوٹ) رہنے کے بعد لاہور آ گئے۔ حضرت محافظ صاحب کی عمر بھی پانچ سال تھی کہ چھپک کے موذی مرض میں مبتلا ہو گئے، اس منحوس بیماری میں آپ کی ظاہری بصارت زائل ہو گئی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیرت انگیز قوتوں کا حصہ وافر عطا فرمایا، آپ کے والدین بچپن میں داروغہ مفارقت دے گئے اور آپ کی کفالت آپ کے مفلوک الحال بھائیوں کے کندھوں پر پڑی، آپ کے چاروں باہمت بھائیوں نے پوری تندہی سے محنت و مشقت کی اور جوان ہونے پر تمام کشمیری غمانوں میں مقبول ہو گئے۔

ان دنوں لاہور میں قلعہ مہیاں سنگھ والے مشہور فاضل مولانا غلام رسول شریف لائے تو ازراہ کرم محافظ ولی اللہ رحمہ اللہ تعلقہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی نگرانی میں قرآن پاک حفظ کرایا۔ حافظ صاحب نے حفظ قرآن مجید بعد تمام کتابیں پڑھیں اور عربیہ حاصل کر لیا۔ مولانا غلام رسول کے علاوہ مولانا نور احمد ساکن کھائی کوٹلی اور مولانا احمد دین بھگٹی سے بھی استفادہ کیا۔ حضرت محافظ صاحب نہ صرف قرآن مجید بلکہ انجیل کے بھی محافظ تھے۔ انہیں انجیل کے مختلف ایڈیشنوں کے صفحات اور سطرین تک از بر تھیں۔ ۱۸۴۹ء میں پنجاب بھی انگریزوں کے زیر نگیں آ گیا تو لارڈ ڈلہوزی نے یورپ کے عیسائی پادریوں کو ایک خاص منصوبے کے تحت مشنری مہم کو قائم کرنے کی دعوت دی، خاص طور پر لاہور میں جن پادریوں نے اپنے مشن کو زور شور سے شروع کیا ان میں پادری فورمین (بانی ایٹ سی کالج لاہور) پادری فونڈ اور پادری عماد الدین خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ان پادریوں نے عیسائیت کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اسلام پر کھلم کھلا دیکھنے شروع کر دیے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ عالم مسلمانوں

میں اضطراب پایا جانے لگا۔ ان دنوں حافظ ولی اللہ کو جہان آباد سے لاہور پہنچے اور شاہی مسجد کے نائب خطیب مقرر ہوئے اور جب حالات کی سنگینی ملاحظہ فرمائی تو مردانہ وار میدان میں آگئے اور تقریر و تقریر کے ذریعے عیسائیوں کے شکوک و شبہات کی دھجیاں بکھیر دیں۔ میدان مناظرہ میں عیسائی پادریوں کی وہ دگت بنائی کہ بات بات پر دین اسلام کا مسخرہ اڑانے والے اور بے اثر یا اعتراضات وار دگر کے مسلمانوں کی متنب عزیز لوٹنے کی کوشش کرنے والے بڑے بڑے بھگداری پادریوں پر منانا چھا گیا اور حالت یہاں تک پہنچی کہ نامی گرامی عیسائی مناظرہ حافظ صاحب کا نام سن کر میدان مناظرہ سے بھاگ جاتے تھے۔

ایک دفعہ آپ لاہور سے باہر گئے ہوئے تھے، وہاں ہی پر پتہ چلا کہ آج تین دن مسلمانوں کے علماء اور پادری فونڈر کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے۔ آپ آتے ہی میدان مناظرہ میں پہنچ گئے اور علماء سے اجازت لے کر تین تینا مقابلے میں آگئے۔ فرمایا چونکہ میں نابینا ہوں اس لئے اپنے مد مقابل کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں چنانچہ آپ کو پادری کے پاس لیجایا گیا۔ آپ نے اس کے چہرے کو ٹٹولا اور اس کے منہ پر ایسا زانے جاڑے تھپڑ رسید کیا کہ پادری کے منہ سے خون بہنے لگا، بس پھر کیا تھا مناظرہ ہر گناہ کی نذر ہو گیا۔

دوسرے دن انگریز مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیتے ہوئے آپ نے فرمایا:

”مجھ پر یہ الزام غلط ہے کہ میں نے ارادہ قتل سے تھپڑ مارا ہے،

میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ پادری صاحب انجیل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں

یا نہیں کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں ایک تھپڑ مارا جائے تو

دوسرا گال پیش کر دو مگر پادری صاحب نے انجیل کی تعظیم پر عمل کرنے

کی بجائے مقدمہ دائر کر دیا ہے۔“

اس کے ساتھ ہی حافظ صاحب نے انجیل کے ۱۲۱ ایڈیشنوں کے حوالے سے مفروضہ سطر کی قید سے سند دے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ فلاں ایڈیشن فلاں لائبریری میں اور فلاں ایڈیشن فلاں پادری کے پاس ہے۔

پادری فونڈر جواب دینے کے لئے اٹھا تو اس نے حافظ صاحب کے بیان کی

تائید کی اور مقدمہ واپس لے لیا۔

حافظ صاحب نے نابینا ہونے اور بے انداز مصروفیات کے باوجود رد عیسائیت میں یہ کتابیں لکھیں ہیں جن پر آپ کے شاگرد رشید مولانا فقیر محمد جلیلی (مؤلف حلالی الحنفیہ) نے حواشی لکھے ہیں:-

۱۔ مباحثہ و بیوا

۲۔ حیاتیۃ الانسان عن دوسرۃ الشیطان.

۳۔ ابجاث ضروری.

۲۴ جمادی الاولیٰ (۱۲۹۶ھ/۱۸۷۹ء) کو آپ کا وصال ہوا، آپ کی آخری آرامگاہ

فیہ ننگ روڈ کے کنارے ایک مختصر سے احاطے میں ہے۔

۱۔ مناظرہ اسم حضرت حافظ ولی اللہ، ۱۔ اپنا ورنیبلہ جرم، دسمبر ۱۹۷۲ء، ص ۱۷۴-۱۷۵

۲۔ تذکرہ علماء اہل سنت و جماعت لاہور، ص ۱۶۰-۱۶۵.

فقہیہ العصر ستاذا اساتذہ مولانا یار محمد بنیدیا لوی قدس سرہ

فقہیہ جلیل مولانا یار محمد ابن جناب میاں سلطان محمد ابن میاں شاہنواز مہتمم ۱۸۸۶ء
میں بنیال شریف ضلع سرگودھا میں پیدا ہوئے، موضع پکا ضلع میانوالی میں قرآن مجید
حفظ کیا، فارسی کی ابتدائی کتابیں ایک مقامی عالم سے پڑھیں، صرف و نحو اور دیگر فنون
کی کتابیں امام الصوفی و لغو مولانا محمد امیر دامانی مصنف قانوجیہ المعروف قانوجیہ امیر
سے پڑھیں، الفیہ ابن مالک پڑھنے کے لئے مولانا شہناشہ کی خدمت میں موضع پنجان
ضلع جلم میں حاضر ہوئے، آپ کو الفیہ ابن مالک ایک ہزار عربی اشعار کا مجموعہ جس میں
صرف و نحو کے مسائل بیان کئے گئے ہیں پر اس حد تک عبور تھا کہ جس مسئلے کی ضرورت
ہوتی وہ مصرعہ پڑھ دیتے جس میں وہ مسئلہ ہوتا۔

اس کے علاوہ مولانا غلام احمد حافظ آبادی صدر مدرس جامعہ نعمانیہ، لاہور سے
استفادہ کیا، کچھ عرصہ جامع مسجد فتح پوری دہلی میں بھی رہے، پھر اعلیٰ تعلیم کا شوق دل میں لے
ہوئے مرکز علم و عرفان بریلی شریف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ
کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب امام اہل سنت اپنا تمام وقت تصنیف و
تالیف پر صرف فرما رہے تھے، عدالت طبع اس پر مستزاد تھی، اس لئے آپ کے ایثار پر مولانا
ہدایت اللہ جو پوری تمسک بکشتہ حضرت مولانا علامہ محمد فضل حق غیر آبادی کی خدمت میں حاضر
ہوئے اور منطق و فلسفہ کی انتہائی کتابیں (افق البین، شرح اشارات وغیرہ) پڑھنے کے
علاوہ تکمیل علوم کی، صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصنف بہار
شریعت آپ کے ہم درس تھے۔

سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں مولانا صوفی محمد حسین ار آبادی خلیفہ اعظم حضرت صاحبی

سیادت مآب حضرت مولانا پیر سید ولایت شاہ قدس سرہ

راجپنائے ولایت حضرت مولانا پیر سید ولایت شاہ ابن حضرت پیر سید احمد شاہ
۱۸۸۸ء میں پیدا ہوئے، قرآن پاک یاد کرنے کے لئے پہلے موضع رانیوال گئے۔ پانچ
پارے یاد کئے، پھر گجرات چلے آئے، بعد ازاں مدرسہ تعلیم القرآن جہلم میں داخل ہوئے اور
قرآن مجید حفظ کیا۔ درسی کتابیں مولانا غلام حیدر (فقہیہ گجرات) سے پڑھیں اور مولانا قاری
غلام نبی علی سے کتب تجوید کا درس لیا تکمیل کے لئے جامعہ نعمانیہ لاہور میں مولانا غلام محمد
گھوٹوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہی سے سند فراغت حاصل کی ۱۹۱۵ء
میں امریت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور
مخوڑے ہی عرصہ کے بعد خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے آپ کو اپنے شیخ سے قابل
حد تک عقیدت تھی۔

حضرت شاہ صاحب کو ابتدا ہی سے قرآن مجید سے بے پناہ لگاؤ تھا، فراغت کے
بعد غالباً ۱۸-۱۹ء میں مسجد حاجی پیر بخش میں مدرسہ تعلیم القرآن جاری کیا اور شب و روز تعلیم
قرآن میں صرف کرنے لگے اور پھر تمام علم شاعت قرآن اور دین مبین کی خدمت میں صرف کر دی
۱۹۲۰ء میں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ قدس سرہ کے ایثار اور سرپرستی میں اپنے
مدرسہ خدام الصوفیہ (مدرسہ شاہ ولایت) قائم کیا اور وقت و فضلاء کی خدمات حاصل کیں۔ یہ
مدرسہ ایک مدت تک پورے علاقے میں دینی تدریس کا عظیم مرکز رہا ہے۔ اس دارالعلوم کی گرفتار
دینی خدمات زیر حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ یہاں سے مدرسین اور خطباء کی تنظیم جماعت
نے فراغت حاصل کی اور اب تک کے گوشے گوشے میں دین مبین کی خدمات انجام دے رہے
ہیں۔

آپ نے درس قرآن کے علاوہ تبلیغی فرائض بھی پوری خوش اسلوبی سے انجام دئے

اور مذاہب باطلہ کی سرکوبی کے لئے پوری قوت سے حق کی آواز بلند کی اور کبھی کسی خطرے کو

مطلب میں نہیں لائے۔ آپ کی تقریر بڑی پُراثر ہوتی تھی اور جب روح پرور اور چرسوز
 واد میں قسہ آن پاک کی تفاوت فرماتے تو سامعین پر ایک کیفیت چھا جاتا۔

حضرت شاہ صاحب بنیادی طور پر دینی اور مذہبی راہنما تھے لیکن ضرورت
 پڑنے پر اپنے شیخ طریقت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ قدس سرہ کی قیادت میں
 تحریک مسجد شہید گنج اور تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور قیام پاکستان کی راہ
 ہموار کرنے کے لئے جبکہ جگہ دور سے کئے اور عوام کو تحریک پاکستان کے مقاصد
 سے آگاہ کیا۔

علم علی پورہ گجرات میں نہایت خوبصورت اور وسیع مسجد تعمیر کروائی جو
 مسجد شاہ ولایت کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی تکمیل ۱۹۶۵ء میں ہوئی اور اسی
 مسجد کے پاس آپ محراب ترحمت اہدی ہوئے۔

۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء میں حضرت پیر سید سید شاہ احمد شاہ تعالیٰ کی صاحبزادی
 سے آپ کا عقیدہ مسنون ہوا جن سے تین صاحبزادیاں اور سات صاحبزادے پیدا
 ہوئے۔ آپ کے صاحبزادگان میں حضرت مولانا سید محمد شاہ گجراتی اور مولانا سید حامد علی
 شاہ مہتمم جامعہ نعیمیہ سرگودھا مشہور و معروف خطیب ہیں اور مولانا سید احمد شاہ
 دہلہ مدرسہ خدام الصوفیہ میں شعبہ درس نظامی کے صدر مدرس ہونے کے ساتھ
 ساتھ مہتمم بھی ہیں۔

۳۱ جولائی (۱۹۶۱ء/۱۳۹۰ھ) بروز جمعہ آپ کا وصال ہوا

سید محمد رفیع شاہ کاظمی، مولانا سید، حاجات شاہ ولایت (مطبوعہ مکتبہ کائنات، لاہور) جلد ۱، صفحہ ۱۰۳، ۱۰۴

اعداد ائمہ مہاجر مکی کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے مشرف ہو گئے
 آپ نے ریاضی پڑھنے کے شوق میں حکیم اجمل خاں کے مدرسہ میں طلب کا بھی باقاعدہ درس لیا۔
 فرغت کے بعد اللہ آباد، رام پور، بمبئی اور ٹونک وغیرہ مقامات میں بیس بائیس سال تک
 درس دیا، پھر ہندیاں تشریف لے آئے اور مسلک اہل سنت کی بھرپور تبلیغ فرمائی۔ کئی بڑے
 بڑے مخالفین آپ کے سامنے آنے سے گجرات تھے، ہینکھوں اجد اہل علم آپ سے مستفید ہوئے
 جن میں یہ حضرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں :-

۱۔ مولانا سید سلیمان اشرف پروفیسر یونیورسٹی، علی گڑھ۔

۲۔ شیخ القرآن مولانا محمد عبدالغفور ہزاروی۔

۳۔ سلطان المدرسین مولانا عطاء محمد چشتی گولڑوی دہلہ۔

پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ مداد و پتھر، ہندیاں شریف آپ کی یادگار ہے۔
 یہ مدرسہ آپ کے صاحبزادگان حضرت مولانا محمد عبدالحق ہندیاوی، مولانا عالمی اور حضرت مولانا فضل حق
 ہندیاوی کی مجاہدہ کے زیرِ اہتمام نہایت کامیابی سے چل رہا ہے۔ اس دارالعلوم نے اہل سنت
 جماعت کو فاضل اور مدرسین کی بہت بڑی جماعت مہیا کی ہے، سلطان المدرسین استاذ العلماء
 ارکاملین حضرت مولانا عطاء محمد چشتی گولڑوی دامت برکاتہم العالیہ اس دارالعلوم میں علم و
 فضل کا دریا بہا رہے ہیں۔

آپ نے تحریک پاکستان میں نمایاں حصہ لیا، ضلع سرگودھا کے اکثر اہل یونیورسٹی
 تحریک کے حامی ہونے یا خضر وزارت کے زیرِ اثر ہونے کی وجہ سے تحریک پاکستان اور مسلم لیگ
 کے سخت خلاف تھے اس کے باوجود فقیر العصر قدس سرہ نے تحریک پاکستان کے حق میں زور دار
 تقریریں کیں، طبقہ اہل کے باغیے شکن آگولا ہوئے لیکن آپ نے کسی کی پروا کئے بغیر سزا یا

سلف غلام علی، مولانا، ایوانیت المرح، ص ۳-۱۱۲

سلف غلام رسول سعیدی، مولانا، جامعہ استاد العلماء، ہندیاوی، ص ۱۹

سلف ایمن، ص ۳۹

ایک طرف اسلام کا جھنڈا ہے اور دوسری طرف کفر کا، اب تمہاری مرضی ہے جسے چاہو اختیار کرو، چنانچہ آپ کی تحریک پر ہزار ہا افراد مسلم لیگ میں شریک ہوئے تھے

۲۲ محرم الحرام ۱۹۶۰ء (دسمبر ۱۹۶۰ء/۱۹۶۰ء) کو فقیر عہد مولانا یار محمد بندایونی قدس سرہ محبوب حقیقی سے جا ملے تھے

آپ کا مدار شریعت بندیاں وضع کر دیا گیا ہے، ہر سال ماہ محرم میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے جس میں ملک کے نامور مقررین شمولیت کرتے ہیں۔

۱۔ علامہ مولانا سیدی، مولانا، حیات استاد العلماء بندوی، ص ۲۲۔
۲۔ مکہ ایضاً، ص ۲۳۔

شاعر اہل سنت مولانا محمد یعقوب حسین ضیاء القادری بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ

شاعر اہل سنت مولانا محمد یعقوب حسین ضیاء القادری بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ ۲۶ رجب ۱۲۸۳ھ (۱۸۸۳ء/۱۳۰۰ء) کو بعد از نماز عشاء بدایوں میں پیدا ہوئے۔ تاریخی نام محمد فضل رحمن تجویز کیا گیا۔ آپ کے مورث اعلیٰ مولانا خواجہ عبداللہ چشتی بدایوں کے مایہ ناز عالم اور مشہور محدث و مفسر تھے۔ چار سال کی عمر میں والدین کا سایہ عاطفت گم ہوا اور آپ نے تربیت کا انتظام غالب و مومن کے شاگرد مولانا علی احمد خاں امیر بدایونی نے کیا جب مولانا کی عمر سات سال ہوئی تو انہیں قاضی اساتذہ نے پڑھانا شروع کیا۔ پچیسے قرآن مجید پڑھایا، پھر فقہ تفسیر و حدیث کی کتابیں پڑھیں۔ تقریباً چودہ سال کی عمر میں آپ نے عالمانہ استعداد حاصل کر لی۔ آپ نے دس سال کی عمر میں شہر کدنا شروع کیا اور پندرہ تک پیشخل جاری رکھا۔ ۱۹۱۷ء سے ایک عرصہ تک آپ کے زیر ہدایت تمام بدایوں میں رحیمی شریف کے عظیم الشان جلسے منعقد ہوتے رہے، تقریباً ۲۰ سال تک سرکاری ملازمت سے وابستہ رہے، اس کے باوجود علم و ادب کی وہ گراں قدر خدمات انجام دیں جنہیں تاریخ فراموش نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نظم و نثر پر یکساں قدرت عطا فرمائی تھی۔

مولانا ضیاء القادری نہایت عظیم اور سرشار و بزرگ تھے، ایشیا و فلوس کی عظیم ہانگتی تصویر تھے، انکسار پسند اور شکستہ مزاج تھے، ظاہری شان و شوکت سے آپ کو کوئی لگاؤ نہ تھا، تقویٰ و پرہیزگاری میں سلف صالحین کا بہترین نمونہ تھے، پاک و ہند کے مشہور شعرا و شائستگیوں بدایونی، مفضل صابری، طاہر القادری، غالب انصاری، محشر بدایونی، سحر اکبر آبادی، تاجش تصویر اور رضا قریشی آپ کے ممتاز شاگرد ہیں۔

مولانا نے نظم و نثر میں تصانیف کا گرانقدر ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے، آپ کے کلام میں



بزرگانِ دین کی عقیدت اور دین و مذہب کا رنگاؤ نمایاں عنصر ہیں، خواہ حسن نظامی کہتے ہیں۔
 ”مولانا ضیاء القادری کے کلام میں ایسی مذہبی زندگی ہے جو ایک دفعہ کے
 لئے ان مودوں کو بھی گرا دے گی جو مذہبی تاثرات کے معاملہ میں بالکل
 ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔“

آپ کی چند تصانیف کے نام یہ ہیں۔

- ۱۔ اکل التاریخ (جلد ۲) سیف اللہ المسلمول مولانا شاہ فضل رسول قادری کا مفصل غلامانی تذکرہ۔
- ۲۔ تاریخِ دیلیکے جزیوں۔
- ۳۔ ستارہ پست۔
- ۴۔ دیار نبی
- ۵۔ مرقع شہادت
- ۶۔ تجلیاتِ نعت
- ۷۔ ہفت احمد
- ۸۔ قصائد صبحِ نورانی
- ۹۔ مجموعہ اسلام
- ۱۰۔ جواہرِ غوثِ اوری

وغیرہ وغیرہ

آپ کا کلام جو اہلِ ملت تکستان، دہلی میں شاعرِ ستارہ کے نام سے شائع ہوتا رہا ہے۔
 ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۶ء میں آپ کوچ و زیارت کی سعادت حاصل ہوئی اور آپ کو یہ امتیازی
 شرف حاصل ہوا کہ آپ پاکستان کے سب سے پہلے حاجی تھے، اسی سفر میں حضور سیدنا غوثِ اعظم
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔
 ۱۲ جمادی الاخریٰ ۱۵۰۱ھ (۱۹۸۰ء/۱۹۷۰ء) بروز ہفتہ کراچی میں آپ کا وصال
 ہوا، مزار فیڈرل ایریا کراچی میں ہے۔



ٹوری کتب خانہ

ڈیڑہ مارکیٹ، گنج بخش روڈ، لاہور
Voice: 042-7112917

پلٹنے کے پتے

NK 201

ٹوری کتب خانہ

نورالوحی، ٹوری بازار، گنج بخش روڈ، لاہور
Voice: 042-8368385